

حضرت شیخ ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہما فی حرم النبویہ علیہ السلام

احوال و آثار

# مقامات صوفیہ

تالیف لطیف

حضرت خواجہ محمد بن ابی سعد بن ابی طاہر بن ابی سعید خدری قدس سرہ

ترتیب ترجمہ

پیرزادہ اقبال احق فاضل جہان رضا

پروفیسر اسلام آباد

مکتبہ نبویہ

حضرت خواجہ شیخ ابی سعید الخیر عمر بن عبداللہ مہینی رحمۃ اللہ علیہ کے

# اصول و آثار

# مقاماتِ صوفیہ

تالیف لطیف

حضرت خواجہ محمد بن ابی سعد بن ابی طاہر بن ابی سعید مہینی قدس سرہ

ترتیب و ترجمہ

پیرزادہ اقبال احفاتی  
سید جہان رضا

پروفیسر اسلام ریحاری نواسہ وقت

مکتبہ نبویہ ہذا  
گنج بخش روڈ لاہور  
0300-4235658

## جملہ حقوق بحق صوفیہ محفوظ

83923

مقامات صوفیہ

نام کتاب:

احوال و آثار خواجہ ابوسعید ابی الخیر رحمۃ اللہ علیہ

موضوع:

اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید رحمۃ اللہ علیہ

نام فارسی ایڈیشن:

محمد بن منور بن ابی سعید رحمۃ اللہ علیہ

تالیف و تصنیف فارسی:

83923

۵۹۹ھ

سال تصنیف:

پیرزادہ اقبال احمد فاروقی

ترجمہ اردو:

پروفیسر سید اسرار بخاری (نوائے وقت)

حضرت شمس بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

مقدمہ:

حضرت ابوالحسن سید علی ہجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ

تعارف:

پیرزادہ اقبال احمد فاروقی

دیباچہ:

۱۹۸۵ء - ۱۴۰۶ھ

سال طباعت اول:

۲۰۱۰ء - ۱۴۳۱ھ

سال طباعت:

سید واجد زیدی صاحب

تحریک و تعاون:

؛ ..... ناشر..... ﴿﴾

مکتبہ بنویہ گنج بخش روڈ لاہور

0300 - 4235658 -- 042 - 37213560

﴿نوٹ﴾ یہ کتاب سید واجد زیدی صاحب کی فرمائش تحریک اور تعاون سے شائع کی

جارہی ہے۔

## فہرست موضوعات

| صفحہ | موضوع                             | صفحہ | موضوع                              |
|------|-----------------------------------|------|------------------------------------|
| ۱۰۲  | دھرتی کا احترام                   | ۹    | مقدمہ: از حضرت شمس بریلوی          |
| ۱۰۳  | صوفیہ اور مسلک شافعی              | ۳۹   | قرن چہارم و پنجم کے صوفیاء         |
| ۱۰۳  | آئینہ اربعہ                       | ۵۸   | اسرار توحید کی اہمیت               |
| ۱۰۵  | فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا   | ۷۵   | مقدمہ: از ڈاکٹر ذریع اللہ صفاء     |
| ۱۰۵  | اہم ذات کی جاں نوازیں             | ۶۸   | مقدمہ: از مولف علام                |
| ۱۰۶  | واد یہاں مجت                      | ۹۲   | شیخ ابوسعید کے ابتدائی حالات زندگی |
| ۱۰۸  | عشق کی تنہایاں                    | ۹۵   | ولادت                              |
| ۱۱۱  | پدر شیخ کے اندیشے اور             | ۹۷   | اقلیم ولایت کی جہان بینی           |
|      | عشق کی رازداریاں                  | ۹۸   | بندگی و مزدوری میں فرق             |
| ۱۱۵  | اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم     | ۹۹   | خدا سے باتیں                       |
| ۱۱۵  | حق عبادت                          | ۱۰۰  | تحصیل علوم لغت و فقہ               |
| ۱۱۶  | عشق کی نیرنگیاں                   | ۱۰۰  | فقہی مسلک                          |
| ۱۱۹  | صدیقی اور زندیقی                  | ۱۰۱  | مسلک شیخ کی پیروی                  |
| ۱۲۰  | شیخ ابوالعباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ | ۱۰۱  | مقام امام ابوحنیفہ                 |
| ۱۲۲  | مقبورہ اولیاء                     | ۱۰۳  | سنت نبوی پر عمل کی حیرتناک مثال    |


| صفحہ | موضوع                                | صفحہ | موضوع                            |
|------|--------------------------------------|------|----------------------------------|
| ۱۳۵  | برکتِ شیخ                            | ۱۲۳  | شیخ احمد علیہ الرحمہ             |
| ۱۳۵  | عجیب چتہ کشی                         | ۱۲۳  | سکون قلب اور کتابیں              |
| ۱۳۶  | سلمان آزار محتسب                     | ۱۲۸  | تلاش شیخ                         |
| ۱۳۸  | وہ دیکھتے ہیں آپ کو پڑ دیکھتے نہیں   | ۱۲۹  | مسکلی اختلافات بے بنیاد ہیں      |
| ۱۵۰  | یہودی دامن اسلام میں                 | ۱۳۰  | صد جائے اگر گروہ زنی رشتہ کے سنت |
| ۱۵۰  | کعبہ ہر رات طواف کرتا ہے             | ۱۳۱  | خوشی اور غم                      |
| ۱۵۰  | مزار بایزید بسطامی پر                | ۱۳۱  | عرفان ذات اور الوہیت حق تعالیٰ   |
|      | خواجہ ابوالحسن فرقانی کی مجلس        | ۱۳۳  | امتحان شیخ                       |
| ۱۶۵  | زر خالص لم ہو گیا                    | ۱۳۴  | طیبِ حیم کو طبیبتِ دل دو امل گئی |
| ۱۶۶  | نیشاپور سے مہنہ تک                   | ۱۳۵  | اتباع سنت                        |
| ۱۶۶  | حضرت شیخ کی نیشاپور سے روانگی        | ۱۳۶  | اطاعتِ شیخ                       |
| ۱۶۱  | یہ صوفی کیسے ہیں؟                    | ۱۳۶  | حق دوستی ادا کر دیا              |
| ۱۶۱  | بے نماز سوراہا تھا۔                  | ۱۳۶  | ابراہیم نیال کو تو ال نیشاپور    |
| ۱۶۲  | ہفتم و شنیدیم دیدیم و یا فتم         | ۱۳۸  | اخلاۃ خالقہائی                   |
| ۱۶۵  | شیخ ابوسعید تمین خلال                | ۱۳۸  | سات سات اور سات                  |
| ۱۶۵  | وضوہ علی الوضوہ - نور                | ۱۴۱  | طعمہ ہر مرغ کے انجیر نیست!       |
|      | عراق و خراسان آل سلجوق کے حوالے      | ۱۴۲  | غفلت مریدا اور بیداری شیخ        |
| ۱۸۶  | شیخ کی ایک نگاہ                      | ۱۴۲  | مرید امام و شیخ مقتدی            |
| ۱۸۵  | پیر کے مریدا اور مرید کے پیر پر حقوق | ۱۴۳  | احترام اولیاد                    |
| ۱۸۶  | نگاہِ محبت کی اثر انگیزیاں           | ۱۴۳  | شوقِ پابوسہ                      |

| صفحہ | موضوع                           | صفحہ | موضوع                             |
|------|---------------------------------|------|-----------------------------------|
| ۲۱۹  | خواجہ حسن مودب کی تربیت         | ۱۸۸  | شیخ کی جلسیں لوگوں پر کھلی رہتیں  |
| ۲۲۱  | اسرار خداوندی کی حقانیت         | ۱۸۹  | شیخ ابوسعید مرو میں               |
| ۲۲۱  | گھر میں تین چیزوں کا خیال رکھیں | ۱۹۱  | اہل محبت کی آمد                   |
| ۲۲۳  | مرد کامل کے اوصاف               | ۱۹۱  | نگاہ کا تازیا نہ یا چھماق ترجمانہ |
| ۲۲۳  | بخشش کے لئے ایک قدم             | ۱۹۳  | صراف کے سودینار                   |
| ۲۲۶  | لیس فی جتہ سوی اللہ             | ۱۹۵  | قاضی سیفی کا قتل                  |
| ۲۲۸  | وضو کی دعاء                     | ۱۹۶  | گندم کے ذخیرے میں برکت            |
| ۲۲۸  | منازیں دود پاک                  | ۱۹۷  | ڈاکوؤں کی بستی تائب ہو گئی        |
| ۲۲۶  | دل کی صفائی                     | ۲۰۰  | نظام الملک طوسی خالقہ شیخ میں     |
| ۲۲۵  | خاشہ راہ                        | ۲۰۲  | دیواریں جھاڑا کریں                |
| ۲۳۰  | دنیا دی تھنے                    | ۲۰۳  | گر شیر شوری از دست جاں بری        |
| ۲۳۱  | سادات سے رواداری                | ۲۰۷  | آہوان مہرا سر خود نہادہ برکف      |
| ۲۳۱  | شیخ ابوسعید صحیح صوفی تھے۔      | ۲۰۷  | خلق کے ثمرات                      |
| ۲۳۳  | آداب مجلس                       | ۲۰۸  | ایک بال دنیا و آخرت محبوب ہے      |
| ۲۳۳  | صبر و تحمل کی مثال              | ۲۰۹  | بخاری شریف کی آخری حدیث           |
| ۲۳۳  | شیخ گوجے میں                    | ۲۱۱  | قوت برداشت کی تربیت               |
| ۲۳۵  | گوہر خدمت خلق                   | ۲۱۳  | حضرت ابوسعید کی زبانی حکایات      |
| ۲۳۵  | سورۃ الم نشرح                   | ۲۱۵  | اللہ کا ساز ہے                    |
| ۲۳۵  | بڑا بزرگ چھوٹا غصہ              | ۲۱۶  | ادب اور احترام                    |
| ۲۳۶  | اصلی صوفی                       | ۲۱۷  | ابوعلی سینا حضرت شیخ کی مجلس میں  |

| صفحہ | موضوع                          | صفحہ | موضوع                   |
|------|--------------------------------|------|-------------------------|
| ۳۰۳  | احتمد امام مسجد                | ۲۳۸  | ترکمانوں کا حملہ        |
|      | ہاتھ اور دل                    | ۲۳۹  | دل کی خوشی              |
| ۳۰۴  | اقوال و گفتار                  | ۲۴۰  | از بڑے مصطفیٰ           |
| ۳۲۱  | دعائیں نیک تمنائیں             | ۲۴۰  | سردار باش               |
|      | حضرت خواجہ ابوطاہر قدس سرہ     | ۲۴۸  | غزور فرد                |
| ۳۲۲  | بیان کرتے ہیں                  | ۲۴۸  | شاہ سرخس                |
| ۳۲۳  | دعا نے احزاب                   | ۲۵۱  | سفر ہرات                |
| ۳۲۴  | مکتوبات عالیہ                  | ۲۵۲  | آدھے شلغم سے علاج       |
| ۳۵۱  | حضرت کے پسندیدہ اشعار          | ۲۵۵  | ایک مغنیہ               |
| ۳۶۰  | حضرت کی زندگی کے آخری لمحات    | ۲۵۶  | والی خراسان کی اصلاح    |
| ۳۶۸  | مرض الموت کے دوران وصایا       | ۲۵۷  | سلطان طفل کا بھائی      |
| ۳۶۸  | احوال حالت نزع                 | ۲۵۸  | مارا برکیہ بندیت با خلق |
| ۳۷۵  | کرامات بعد از وصال شیخ قدس سرہ |      | خدا جنگ نیت             |
| ۳۸۳  | حضرت شیخ کا گھوڑا              | ۲۶۳  | ملفوظات و اقوال         |
| ۳۸۳  | تربیت مریدین                   | ۲۶۵  | حکایات                  |
| ۳۸۵  | امام قشیری مزار شیخ پر         | ۲۹۵  | عمہ کا حجرہ             |
| ۳۸۷  | مزار شیخ کا تعین               | ۲۹۶  | نیلے مرقع               |
| ۳۸۷  | نازنینیاں حق                   | ۲۹۷  | مخلوق کو کیوں پیدا کیا  |
| ۳۸۸  | نظام الملک طوسی                | ۲۹۹  | درویش کون ہے ؟          |
| ۳۹۰  | خواجہ ابوطاہر کی شیخ سے محبت   | ۳۰۳  | صاحب ہمت                |

| صفحہ | موضوع                     | صفحہ | موضوع                     |
|------|---------------------------|------|---------------------------|
| ۳۹۹  | خواجہ ناصر قدس سرہ        | ۳۹۱  | شیخ کا گورکن              |
| ۴۰۰  | آوازِ دوست                | ۳۹۲  | شیخ ابوالفضل شامی         |
| ۴۰۰  | خارزم شاہ کا گھوڑا رک گیا | ۳۹۲  | من ثبِتْ نَبِتْ           |
| ۴۰۲  | قبر سے قرآن کی آواز       | ۳۹۳  | حج اور زیارت شیخ          |
| ۴۰۵  | تازہ روٹی                 | ۳۹۴  | بانو سلمہ رحمۃ اللہ علیہا |
| ۴۰۶  | خاتمۃ الکتاب              | ۳۹۸  | برکات نگاہ شیخ            |





# مقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهٖ الْکَرِیْمِ

# تصوف

اور

# کتاب اسرار التوحید

نگارش: حضرت شمس الدین عظیمی راقاہ

مسک معرفت و طریقت کے لئے ایک جامع اور آسان لفظ "تصوف" عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ صدیوں سے استعمال ہوتا رہا ہے، مسک معرفت و طریقت کے تمام پہلوؤں پر یہ لفظ حاوی ہے اور دوسری صدی ہجری سے تا ایدم یہ لفظ یہ بحث اپنی اپنے تمام عوامل کے ساتھ جاری و ساری ہے اور اسی عرصے میں نوز بحث ہی بنا رہا ہے اس پر اسلامی اور غیر اسلامی نظریہ دونوں طرح کو چھاپ گئی ہوئی ہے اور مغربی منکرین نے اس سلسلہ میں عجیب و غریب موثکافیاں کی ہیں۔ صد ہا صفحات تو محض اس لفظ تصوف کے

اشتیاق کے سلسلہ میں رقم کئے جا چکے ہیں اور اس کی اصل و ماہیت کے بارے میں تو مخالفانہ آراء اور خیالات کا ایک طومار مرتب ہو گیا ہے، یہاں اتنا موقع نہیں کہ اب تمام مخالفانہ آراء کو پیش کر سکوں، اب یہاں مغربی مفکرین و مستشرقین کی صرف چند آراء کو پیش کرتا ہوں۔

مغربی مفکرین میں گولڈن تھیوری، فولڈ کی اور پروفیسر نکلسن خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ان صاحبان فکر کے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اور اپنی اپنی تصانیف یا دیگر چھوڑ گئے ہیں۔ ان مستشرقین کی تفسیقی آراء کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تصوف بذات خود کوئی مستقل اسلامی نظریہ نہیں ہے بلکہ اس کے تابع اور ماخذ مختلف مکاتب فکر اور مذاہب ہیں یعنی

۱۔ مسیحیت

۲۔ بدھ مت اور ہندو مت

۳۔ فلسفہ ایران اور مانویت

پروفیسر نکلسن نے خاص طور پر اس موضوع پر کاوش کی ہے اور ۱۹۱۳ء میں اس موضوع پر اپنی تحقیقات کو "سٹس ازم آف اسلام" کی صورت میں پیش کیا چونکہ وہ اسلامی علوم کا بھرپور مطالعہ نہیں کر سکتے تھے اور صرف اپنے پیشرو مغربی مفکرین مستشرقین کے خیالات و آراء سے ان کو استفادہ کا موقع ملا تھا اس لئے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ "ذکر اور توکل کے نظریات قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر مبنی ہیں۔ لیکن اس امر میں شبہ نہیں کہ تصوف اس سلسلہ میں مسیحیت کا بڑی تک رہن منت ہے۔"

جرمن مفکر گولڈن تھیوری (۱۹۲۱ء) کہتا ہے کہ

اسلامی تصوف میں ایشیا اور قناعت کو صفات، دولت اور سرمایہ داری پر فکر کو تیز، مسائل یا صفات خالص اسلامی نہیں ہیں بلکہ نصرانیت اور عیسائیت کے

مطالعہ کا نتیجہ ہیں اور ان کے نظریات سے شغف اور دلچسپی کا ماہر حاصل ہے،  
ایک دوسرا جرمن مفکر فولڈیک کی رموتوفی سنہ ۱۹۳۰ء کا خیال ہے کہ  
مسلمان صوفیاء نے ذکر کے جو طریقے ایجاد کئے اور عمل میں لائے وہ بھی  
نصرانیت سے لئے گئے ہیں۔ تاریخ تصوف اسلام،  
لیکن مغربی مفکرین نصرانیت و مسیحیت کا ماخذ اور منبہ بتاتے وقت  
یہ بھول جاتے ہیں کہ :-

سہ آنکس کہ خود گم است کرد ہری کند

نصرانیت و مسیحیت جو خود شرک تثنائیت میں گرفتار رہی ہے کسی توحیدی مسدک  
یا مفید سے کیا فایز اور ماخذ بن سکتی ہے! صرف یہی نہیں بلکہ ان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا  
کہ جب اسلامی علوم کے نور سے عرب و عجم ہی نہیں بلکہ سرزمین ہسپانیہ بھی جگمگا رہی تھی  
اس وقت یورپ جہالت کے اندھیرے میں علم و فکر کے راستے پر دو قدم سی چلنے کی  
سکت نہیں رکھتا تھا۔

ان مفکرین کے ان خیالات کے قباہ اور ماخذ غیر مسلموں کے وہ معاندانہ خیالات  
اور ان کی تصانیف ہیں جو رد و ما اور آندلس کی شکست خوردہ ذہنوں نے مسلمانوں سے تقاضا  
لینے کے لئے پھیلائے لیکن افسوس کہ ہم جہان مغربی مفکرین سے ان بری طرح متاثر ہیں اور  
ان کی تہذیب و ثقافت اور ان کے تمدن کے پتے پرستار ہیں، اس لئے ان کی ان آراء  
کو ہم بے چون و چرا تسلیم کر لیتے ہیں صرف یہی نہیں کہ ہماری فکر کی پرواز یہیں تک محدود ہے  
بلکہ ہم "زیب داستاں" کے لئے اس پر حاشیہ ہی چڑھاتے ہیں۔

دور کیوں جائیں ہائے پروفیسر یوسف سلیم شہتی مرحوم رجمیر کے خواہر زاوے تھے، ان  
تاریخ تصوف اسلام لکھ کر ان مغربی مفکرین کی... ترجمانی کا حق ادا کر دیا اور تقریباً نصف  
کتاب تصوف کے غیر اسلامی ماخذوں کی نشاندہی پر صرف کر دی۔ پروفیسر سلیم مرحوم، تاریخ

تصوف اسلام کی فصل اول میں رقم طراز ہیں۔

”دنیا کے تمام محققین کا اتفاق ہے کہ ”اپنشر“ تصوف پر قدیم ترین تصانیف ہیں، پناچہ پروفیسر ڈوائس نے اپنی مشہور تصنیف ”کائنات اور فرد“ جلد اول باب چہارم صفحہ ۱۵۶ میں اعتراف کیا ہے کہ ”سوفیانہ عقائد کی پوری داستان ان کتابوں (اپنشدوں) میں قلم بند کر دی گئی ہے۔“  
فصل چہارم میں پروفیسر سلیم مرحوم نے یہ عنوان قائم کیا ہے۔  
شہید بھگوت گیتا میں تصوف“

اس موضوع کے تحت انہوں نے ۱۴ صفحات بطور تشریح تحریر کئے ہیں۔ مختصر یہ کہ تاریخ تصوف اسلام کا نصف اول ان مباحث پر مشتمل ہے کہ تصوف غیر اسلامی ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مغربی مفکرین نے اسلامی تصوف کے ماخذ صرف مسیحیت و نصرانیت کو قرار دیا تھا لیکن مسلمان ناقدین اور مورخین تاریخ تصوف نے ویدانت اور اپنہ رول کو بھی تصوف کا ماخذ ٹھہرایا۔

تصوف اسلام کے سلسلہ میں مفکرین اور ناقدین کی چند آراء پیش کر دی ہیں ان آراء کی تردید ان کے بطلان پر اگر قلم اٹھایا جائے تو یہ چند صفحات ناکافی ہوں گے اس لئے تردید سے قطع نظر کرتے ہوئے میں آئندہ اوراق میں تصوف کی اصل اور اس کی حقیقت کو پیش کر دینا اور بتاؤں گا کہ تصوف کا سرچشمہ اسلام اور صرف اسلام ہے، ان مفکرین و ناقدین کی آراء سے ناقص کا بطلان خود بخود ہو جائے گا۔ (انشاء اللہ العزیز)

ابتدائے اسلام جس کو صدر اسلام سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے، اسلامیات، اخلاقیات، اقتصادیات اور سیاسیات ایک دوسرے سے جداگانہ حیثیت کے حامل نہیں تھے، اسلام کا سیاسی نظام اخلاقی نظام کے دائرے میں تھا اور اخلاقی نظام اس کے معاشرتی اور سماجی نظام

کے اجزائے ترکیبی تھے گویا اسلامی شریعت اور اسلامی ریاست کوئی الگ الگ چیزیں نہیں تھیں ناممکن تھا کہ اس کا سیاسی، ثقافتی اور سماجی نظام کسی رُخ سے بھی شریعت کے دائرے سے باہر ہو سکے! ہر ایک نظام زندگی پر شریعت کی پوری پوری گرفت تھی اور یہ تمام مختلف نظام ہائے زندگی شریعت کے تار پورتے، جنگ و صلح طاعت و عبادت اور کسب معیشت کے دائروں کا مرکزی نقطہ اسلام اور صرف اسلام ہی تھا۔

بندگی اور عبادت الہی کے عواطف صرف ادائیگی فرض و سنت تک محدود نہ تھے۔ بلکہ صحابہ کرامؓ کا ہر سانس عبادت تھی۔ عبادت سے ”ان کی اس طاعت و بندگی کا عنوان تھا۔  
سَيَا هُوَ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ اَثْرِ السُّجُودِ۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے پیشوا اپنے ہادی و رہنما محسن عالم و عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی اور آپ کے اسوہ حسنہ کی تقلید کو کامل اپنائے ہوئے تھے اس لئے اس ابتدائی دور میں تصوف نہ کوئی مسلک بن سکا اور نہ کوئی نظریہ عبادت“ نہ اس کی ضرورت تھی کہ اس دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے شرف یابی سب سے بڑی کامیابی، عظیم فلاح اور سب سے بہتر و برتر فوز و فلاح تھی، یہی لقب سب سے زیادہ عزت و عظمت والا تھا!

اصحابِ صفہ جو تسلیم و رضا، صبر و توکل، قناعت اور ایثار کے ایک پیکر تھے اور تصوف کا مرکزی نقطہ، گویا وہ اس مسلک کے سب سے پہلے عالمین تھے۔ یہ حضرات اپنے محبوب ہادی برحق کے چشم و ابرو کے اشارے کے منتظر رہتے، لب کی اطاعت و انقیاد ان حضرات کی زندگی کا اولین مقصد تھا اور ان کی زندگی کا نصب العین اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت ان کی ہر سانس کا مطلوب و مقصود! ہجرت کے بعد ایثار کی اعلیٰ ترین مثالیں نذر مال و متاع اور جاں سپاری کی شکل میں تاریخ کے صفحات پر جس طرح ثبت ہیں تاریخ عالم یعنی تاریخِ مہاب کے صفحات اس کی مثال سے خالی نہیں، غزوات و شریات کا یہ سلسلہ غزوہ تبوک

۹۰ھ تک قائم رہا۔ ۹۰ھ ہجری تک ایک مسلمان کی ذہن اس کی لگن اس کی تمام تر م سعی کا محور صرف یہ تھا کہ وہ اپنا سب کچھ اسلام کے بلند ترین مقصد پر قربان کر دے۔ چنانچہ صحابہ کرام اس وقتی اور بنیادی ضرورت کو پوری پوری تندہی اور جہاں سپاری کے ساتھ انجام دیتے رہے۔

دین کی تکمیل اور اسلامی اقتدار کی تزئین کے بعد جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتوحات کا دور

مرتب دین و منکرین زکوٰۃ نے جو شدت اختیار کی وہ اسلامی تاریخ کے صفحات پر موجود ہے۔ اس وقت ان فتنہ سامانیوں کا انداد سب سے عظیم اسلامی اور دینی ضرورت تھی، اس کے بعد دور فاروقی سے جو اسلامی فتوحات کا یادگار عہد ہے، اسلامی زندگی عبارت رہ گئی۔

صرف دو باتوں سے نہیں... غیر مسلموں سے جہاد اور عبادت الہی! آپ کا ۱۲ سالہ دور (۱۳ھ تا ۲۲ھ) جب ختم ہوا تو اسلامی سلطنت کے حدود جزیرہ منائے عرب کی محدود وسعتوں سے نکل کر ایران، شام، عراق، مصر اور روم سے جا ملے مسلمانوں کو بین الاقوامی ارتباط سے دوچار ہونا پڑا۔ عیسائیوں، یہودیوں، آتش پرستوں اور ذمیوں سے میل جول بڑھا اسلامی سادگی نے اپنا چولا بدلا، سطوتِ فاروقی کے سامنے تو کسی کو یارے دم زدن نہ تھا لیکن وہ پردہ اقتدار کی کش مکش نے بڑی خاموشی کے ساتھ سینوں میں اپنا گھر کر لیا اور اپنے ظہور کے لئے وہ وقت کی منتظر رہی چنانچہ شہادتِ فاروقیِ اعظم نے جب اسلامی اقتدار کی فلک بوس عمارت میں تنگنا ڈال دیا تو اس اقتدار کو سینوں سے باہر نکلنے کا موقع ملاحظہ کا نتیجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی غم آفرین شکل میں نمودار ہوا خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد میں شامیوں اور حجازیوں کے مابین عصبیت کی آگ خوب بھڑکی۔

خاندانی عصبیت کی وہ چنگاریاں جو اسلامی تعلیمات اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات

ستودہ صفحات کی حکمت عملی سے دُوب گئی تھیں پھر بھڑک اٹھیں۔ خوشی پر دوسری اقارب دوستی کے الزامات کو مفہم برآری کا نعرہ بنا کر یہ قوتیں آگے بڑھیں اور محسن اسلام و انسانیت امام دین و ملت، پیکرِ ایشیا و جہانِ بنت عثمان غنی، رضی اللہ عنہ کا ہجرہ بہا کر رہیں، ذرا غور تو فرمائیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس حال میں شہید کیا گیا اور کس نے شہید کیا انہوں نے جن پر صلابی کے اصطلاحی لفظ کا اطلاق ہوتا تھا اور اس حال میں کہ خلیفہ مظلوم قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔

اقتدار کی اس کش مکش کا جو انجام ہونا تھا، بدکرہ بابا ابی العزیز حضرت علی کرم اللہ وجہہ جس سے چار دن اسلام کی خدمت نہ کر سکے، آپ کی خلافت کا پانچ سالہ زمانہ زیادہ تر بغاوتوں، سیاسی سازشوں کے استیصال اور خانہ جنگی کی نذر ہو کر رہ گیا۔ سیاست کا وہ شاطرانہ حربہ جو آج بھی ضرورت کے وقت استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں جنگ نہروان میں آزمایا گیا۔ مسلمانوں کا وہ خون جو شجرِ آعلائے کلمتہ بحق کی آبیاری میں صرف ہوتا تھا۔ اس وقت و تہمتِ شام و حجاز میں رانیکال بہہ رہا تھا، ابھی سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارک پر نصف صدی بھی نہیں گزری تھی اسلامی اقدار و تعلیمات پر زوال کے بادل چھا گئے، اس پر آشوب وقت میں بھی اصحابِ صفہ ان کے مخلص متبعین اتباع دین و ایمان کو سینے سے لگائے اس فتنہ آفرین اور فتنہ پرور ماحول سے الگ تھلگ گوشوں میں یادِ الہی کو اپنا نصب العین اور غرہاں بنائے بیٹھے رہے۔

تحقیق جہاں تک چھان بین کر سکتی ہے اور تاریخ کے اوراق الٹ سکتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ گوشہ نشینی اور خلوت گزینی کی ابتدا یہی سے ہوتی ہے، کیا ان اصحاب کی یہ ایزد واپسندی اور خلوت دوستی زندگی سے فرار کا عنوان پانے کی مستحق ہے، میرے خیال میں ایسا کہنا بڑی ناانصافی اور تاریخی غلطی ہوگی۔!

خوارج کا ظہور اسلامی تاریخ کی بساطِ سیاست کا ایسا مٹہرہ ہے جس نے بڑے



بڑے ابدہ دراکل کو شہ مات دیدیئے، جسے نظر انداز کر دینا حقیقت پسندی سے آنکھیں بند کر لینا ہیں، ان خوارج نے ایک تیس سے تین ہستیوں کو نشانہ بنانا چاہا جو نبی قسمت کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو اس کا ہدف نہ بن سکے لیکن خلیفہ چہارم بابِ اعلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جامِ شہادت نوش کرنا پڑا اور اس سانحہ عظیم کے بعد مسلمان ایک دوسرے سے دست و گویا بن ہوئے ہیں تو کبھی خشیت الہی اور کبھی رجم بہ نافرمانی کا خوف نہ باز پرس کا ڈر! اہل بیت کے خوش گلے تھے اور سیاست کی تیز تلوار! آن کی آن میں حکومت و اقتدار نے ان کی شہادت سے اپنی پیاس بجھائی۔

تصوف پر بے عملی جمود اور زندگی سے فرار کا ایسا لگانے والے اپنی تصویر کا یہ رخ دیکھنا شاید بھول جاتے ہیں کہ خانہ کعبہ منجیقوں سے پتھر برساکر دیوار ہائے کعبہ کو شک کرنے والے، غلاف کعبہ کو جلانے والے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی نعش تین دن تک آویزاں رکھنے والے، کیا ان غریب اور خدا دوست مسلمانوں کی آواز پر لبیک کہہ سکتے تھے اور ان اسلامی اقدار و اصول کی طرف رجوع کر سکتے تھے جو ان کو جبروت و اقتدارِ اعلیٰ کی بلندی سے گرا کر اس سلج پرے آئے جہاں امیر و غریب، اسود و احمر اور عربی و عجمی، آقا اور غلام ایک ساتھ ایک دل اور ایک زبان ہو کر اسلامی اقتدار اور اس کی عزت کی بحالی کے لئے ہر آن اور ہر نفس کو شاں رہتے تھے۔

خدا کی شان پہلی صدی ہجری کے ختم ہوتے ہوتے اسی محل میں جس کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سطوتِ نبی اُمیہ کے ایک نشان کے طور پر تعمیر کرایا تھا "حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر بُریدہ کے علاوہ ان وایان حکومت اور صاحبانِ اقتدار کے تین سر اور آئے اور ان سردوں میں سب سے زیادہ پر شور و غماز ثقفی کا سر تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد میں اقتدار اسکی جو بنیادیں تیار کی گئی ہیں بہت جلد مسلمانوں کے پاک خون سے لہریز ہو گئیں اور پھر اس پر اموی سلطنت کی وہ فلک بوس عمارت کھڑی ہوئی جس نے اپنے تو اپنے

غیروں کی نگاہوں کو بھی خیرہ کر دیا۔

اب تابعین کا اصطلاحی دور شروع ہوا اور اموی حکومت کا عہد عروج! آپ اب تاریخ کے صفحات میں اس کا جواب تلاش کیجئے کہ اس وقت مسلمانوں کا نصب العین، دنیاوی امارت، عز و جاہ اور اعلیٰ اقتدار تھا اسلام کا بول بالا کرنا اور اسلامی اقتدار کی سر بلندی! یاد الہی، اطاعت و بندگی اور فضائل اخلاق اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی وسیع کائنات پر حاکمیت اور عظمت اقتدار: یہ تمام باتیں پہلے ایک مسلمان کا سراپا تھیں، اسلام کی اجتماعی زندگی کے روپ تھے لیکن اب ان کے راستے الگ الگ ہو گئے! ایک راستہ تھا اللہ کی محبت اور سرور کو بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلقہ بگوشی اور پوری اطاعت احکام دین کا اور اعلیٰ کلمۃ الحق کا دوسرا سبب تھا فتوحات ملکی، سیاسی اقتدار کا حصول، آمرانہ قوت اور پرقار زندگی کا، ان دونوں نظریات میں جو بعد المشرقین تھا۔ ظاہر ہے یہ دونوں نظریات جو آپس میں متضاد اور تباین تھے ایک ساتھ کیسے قائم رہ سکتے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ کس طرح دے سکتے تھے اس لئے اس وقت کے مسلمانوں میں یہ دو مسلک، دو نظریات اور دو نصب العین بن ہو گئے ایک نصب العین کے پرستار اہل دین کہلائے یہ حضرات اصحاب صفہ کے جانشین تھے اور دوسرے نصب العین کی اقتدار کرنے والے باشندے چند جنہوں نے نسلاً بعد نسل حکومت کی مندر پر اپنے قدم جملے اور تاریخ میں اموی عباسی، غزنوی، سلجوقی خانوادوں کے شاندار ناموں سے تاریخ میں یاد کئے گئے۔

دوسری صدی ہجری میں مسلک اولیٰ کے پیرو تابعین و تبع تابعین ہی کے نام سے موسوم ہوتے رہے کہ اس عظیم الشان دینی اصطلاح سے فزوں تراور کوئی نام ان کے لئے نہیں ہو سکتا تھا اور یہ نفوس قدسیہ حتیٰ الوسع سیاسی اقتدار اور فتوحات ملکی کی ہوس کاریوں سے بہت دور دور رہے۔ ان حضرات نے جلوت کے بجائے خلوت کو ترجیح دی، سیاسی ریشہ دوانیوں میں سرگرم عمل ہونے کے بجائے توکل کو اپنا رفیق بنا یا جب

انہوں نے دیکھا کہ اب مسجد میں ہی خالص عبادت گاہوں کی بجائے شاہی درباروں سے تبدیل ہوتی جا رہی ہیں کہ بنوک سناں صاحب اقتدار اپنا خطبہ وہاں پڑھواتا اور اپنے گن گناتا ہے، مسجد میں خون ریزی اور غارتگری کو روا رکھا جا رہا ہے اور خوف خدا حائل نہیں ہوتا تو اس صورت میں انہوں نے اپنے گھروں کے گوشوں کو اپنا معبد بنایا اور وہاں بیٹھ کر اپنے شب و روز یاد الہی میں بسر کرنے لگے، اس عہد جہانگیری و جہاں ستانی میں جن لوگوں نے گوشہ ہائے عزت کو اپنا ایس بنایا اور خون ریزیوں اور خون آشاہوں سے بچنے کے لئے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے چونکہ ان کی یہ حالت عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دین داروں سے مماثلت قریبہ رکھتی تھی جو صحابہ صغہ کے نام سے موسوم تھے اور شوپوش رہتے تھے اس لئے اس گروہ کو صوفی، اور اس مسلک کو تصوف، کا نام دیا گیا کہ اس سے بہتر اور کوئی نام اور ان کے مسلک کا اور کوئی عنوان نہیں ہو سکتا تھا۔

یہ تھے وہ حالات جن میں اس نظریہ اور مسلک کی نشوونما ہوئی، ملکی اور سیاسی حالات جیسے جیسے بگڑنے لگے اور اموی عباسی اور سلجوقی دور میں خون انسانی کی ارزانی ہوتی گئی اسی قدر اس مسلک کو فروغ ہوتا چلا گیا۔

بنی امیہ کے دور کی غور بزیوں اور ملکی انتشار کا اگر مختصر سا جائزہ آپ لینا چاہیں تو جنگ صفین، جنگ جمل، واقعہ کربلا، واقعہ حُر، مختار ثقفی کا نعرہ یعنی قاتلانِ حسین سے انتقام، عبدالملک کی فتوحات میں خون مسلم کو ازانی سلیمان بن عبدالملک کے فاتحوں محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر، فاتح اندلس اور قیس بن مسلم باہلی کا عبرت ناک انجام، حجاج بن یوسف کی سخت گیری اور مخالفین کی سرکوبی اور دوسرے اموی سلاطین کے ہاتھوں مسلمانوں کے جو سرفہرے تھے تاریخی شہادتوں کے سانچوں کا شمار اگر ہو سکے تو کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد عباسی سلطنت کی داغ بیل ڈالنے کے لئے ابوالعباس سفاح، نضر بن اموی، تاجدار ابواسم کی خانہ دیرانی، ابن ہمام کی جنگ جہانگیری، ہماموں کے اقتدار کے حصول کے لئے خون مسلم کی ازانی، مسند خلق قرآن، دیندار

مسلمانوں کی تباہی اور پریشانی، ہاروں سے لے کر مستحکم بادشاہت تک عباسی اقتدار کی بحالی کے لئے قتل، خونریزی اور کبد و کمر کی فراوانی اور پھر ان سب پر مستزاد فتنہ تار تار، یہ تمام فوجیاں واقعات چند صدیوں کے درمیان ظہور میں آگئے۔

ان حالات میں جن دلوں میں خوف الہی، مسلمانوں کی باتوں کا احترام، اطاعت الہی اور پرہیزگار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس موجود تھا ان کے سامنے دنیا اور متاع دین کا جو نقشہ کھینچا اور ان کی آنکھوں کے سامنے جو تصویر آئی وہ ان ارشادات ربانی کی تفسیر بنی:-  
۱۔ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُوْرُ

۲۔ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

۳۔ وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ اِنَّ سَادَ الْاٰخِرَةِ

لَهٰى الْخَيٰوَانِ ۝

جیسا کہ آپ مصالحو فرما چکے ہیں یہ وہ زمانہ تھا کہ صحابہ کرام، حضرات تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ادوار مقدس ختم ہو چکے تھے، تبع تابعین کا دور چل رہا تھا اور ان میں سے اکثر و بیشتر حضرات گوشہ نشین ہو چکے تھے ورنہ ان کو بھی شکوہ سلطانی کا ساتھ دینا پڑتا، یا مسدّد خلق قرآن پر ان کا سکوت ان کی جان لے کر چھوڑتا یا تو وہ خلافت عباسیہ کے مائندے بن کر گوشے گوشے میں خلافت عباسیہ کی دعوت دیتے اور انکی حکمرانی کی راہ ہموار کرتے یا ان کے مقابل آنے والی قوتوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے !!

ایسے پر آشوب دور میں ان پاکباز اور نیک بندوں نے دینی و دنیاوی فلاح اسی میں سمجھی کہ اپنے اس مسلک کے نظریات کو اور وسعت دیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے عامۃ الناس کو اس سیاسی تصادم سے بچا کر ایسے گوشوں تک لے آئیں جہاں ہوس تک گیری کے بجائے تہذیب نفس اور قناعت موجود تھی، جہاں تفسک و ماہ کے عوض حیات انسانی کا احترام موجود تھا، جہاں شاطرانہ چالوں اور مقصد برآسی کے لئے مکر و کبد کے حربوں

کے بدلے فضائل اخلاق کی تعلیم دی جاتی تھی، زرد مال کے حصول کے لئے نئے نئے عربوں کے استعمال کے بجائے توکل اور صبر و قناعت کا سبق دیا جاتا تھا جس طرح یہ نظریہ تصوف کے نام سے موسوم ہوا اسی طرح یہ مامون و محفوظ گوشتے خانقاہ یا صومعہ کے نام سے موسوم ہوئے، یہاں پر دینداری، اتباع شریعت، خدا ترسی، صبر و رضا و توکل اور قناعت کا جو عہد لیا جاتا تھا وہ "بیعت" کہلاتا، یہ بیعت کوئی نئی چیز نہیں تھی خلافت راشدہ کے بعد ہی اس بیعت کا سلسلہ جاری رہا اموی یا عباسی خانوادے کا جو حکمران تخت نشین ہوتا وہ عائد سلطنت اور عام رعایا سے اپنی اطاعت و جان نثاری اور وفاداری کا عہد لیتا اس کو بھی بیعت کہا جاتا تھا، وہ بھی ایک بیعت تھی جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، تحت الشجرہ اپنے رفیقوں اور جاں نثاروں سے لی تھی! خلافت راشدہ میں بھی خلیفہ راشد، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بیعت لیتا۔ ہا لیکن اب بیعت میں بھی ایک عظیم فرق آ گیا تھا پہلے بیعت ہوتی تھی دین کے لئے امویوں اور... عباسیوں کی بیعت ہوتی تھی دنیا کے لئے!

بستیوں سے اور دروازان گوشوں میں بھی جو بیعت ہوتی تھی وہی تمام تر دین کے لئے ہوتی تھی، دنیا کا یہاں دخل نہیں تھا چنانچہ ان بزرگان دین اور ارباب تعین نے تصوف کی جو تعریفات کی ہیں، یہاں بھی چند تعریفات پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ ارباب تصوف کی بیعت کا مدار اور مرکزی نقطہ کیسا تھا!

سرخیل ارباب تصوف حضرت معروف کرخی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ "حقائق کو گرفت میں لانا، وقائق پر گفتگو کرنا اور خلائق کے پاس جو کچھ ہے اس سے ناامید ہونا" تصوف ہے۔

حضرت ذوالنون مصری دم ۵۲۴ھ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں :-

صوفی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمام کائنات میں صرف اللہ کو پسند کیا ہے۔“

حضرت سہل بن عبد اللہ تستریؒ تصوف کی تعریف اس طرح کرتے ہیں:-  
”صوفی وہ ہے جس کا دل کدورت سے خالی ہو اور تفکر سے پڑ ہو،  
قرب خدائے عزوجل میں بشر سے منقطع ہو اور اس کی نظروں میں خال و  
سونا برابر ہو۔“

حضرت ابوالحسن نوریؒ (م ۵۲۷ھ) کا اس سلسلہ میں ارشاد ہے :-  
صوفی وہ لوگ ہیں جن کی روح بشریت کی کدورت سے آزاد ہو گئی  
ہے اور آفتِ نفس سے صاف اور ہوا و حرص سے خالص ہو گئی ہو۔ یہ  
لوگ صاف اول میں خداوند تعالیٰ سے قربت حاصل کئے ہوئے ہیں۔  
غیر اللہ سے بھاگتے ہیں یہ لوگ نہ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں اور نہ  
کسی کے مملوک، اور

”تصوف مولیٰ کی دوستی اور دنیا سے دشمنی کا نام ہے۔“

حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں:-  
”عارف وہ ہے کہ جب حق تعالیٰ اسرارِ پنہاں سے گفتگو کرتا ہے  
تو وہ خاموش رہتا ہے۔“

یہ صوفی وہ ہے جس کا دل اور دنیا سے متنفر اور فرمانِ الہی کا مطیع  
و منقاد ہو اس میں حضرت اسماعیلؑ کی طرح تسلیم و رضا، حضرت داؤد  
علیہ السلام کی طرح آندوہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا فقر اور حضرت  
ایوب علیہ السلام کی طرح صبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا شوق اور  
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق ہوں۔“

ان تصریحات اور حقائق کے پیش نظر یہ کس طرح تسلیم کر لیا جائے کہ اسلامی تصوف عیسائی رہبانیت یا عیسائی تصوف سے اخذ کیا گیا ہے اور اس کے ماخذ اور منابع غیر اسلامی یعنی دیدانت، اپنشد ایرانی فلسفہ نوافلاطونیت ہیں! جو حقائق اور مختصراً جو چند تعریفات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ان کے پیش نظر یہی کہنا پڑے گا کہ تصوف ایک خالص اسلامی نظریہ ہے اس کا منبع اور ماخذ شریعت اور اس کی تعلیمات قطعی اسلامی ہیں یا اس کی تعریفات میں جو معتقدات مشترک ہیں وہ یہ ہیں؛

”زید، ایشار، قناعت، فقر، توکل، خشیت الہی، ذکر الہی، محبت رسول اور عشق الہی و رع، قرآن و الم، خضوع و خشوع، اتباع شریعت و خدمت خلق صبر و شکر، بذل اموال اور ایشار“

مذکورہ معتقدات پر نظر ڈالئے اور دیکھئے کہ ان میں کونسا عقیدہ ایسا ہے اور کونسی تعلیم وہ ہے جس کو غیر اسلامی کہا جاسکتا ہو یا اس کا منبع اور ماخذ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو قرار دیا جاسکتا، مماثلت ایک دوسری چیز ہے، مماثلت کو ماخذ یا منبع نہیں کہہ سکتے، جبکہ کسی غیر الہامی مذہب نے فضائل و مکارم اخلاق کی یہ تعلیم دی ہی نہیں، اسلام کے یہی وہ بنیادی اصول اور معتقدات بھی تو ہیں جن کے باعث اسلام کو اس قدر جلد کامیابی اور قبولیت حاصل ہو گئی، اگر دوسرے غیر الہامی مذاہب کے بھی اصول اور معتقدات ہوتے تو اسلام کے پاس وہ کون سی متاعِ دلہ با تھی جو غیروں کے دل موہ لیتی تھی۔

شارع علیہ السلام کی مہمات مقدسہ سے خلفائے راشدین کی پاکیزہ زندگیوں ہمک نظر ڈالئے اور دیکھئے کہ ان مقدس ہستیوں میں یہ اخلاق فاضلہ جو بعد کو تصوف کے بنیادی اصول بن گئے، رچے بسے تھے یا نہیں!

سُرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنا ترک دنیا، دنیا کے مال و متاع، دنیا کی آسائشوں اور آرائشوں سے بالکل متمتع

نہیں ہوتے تھے ورنہ زندگی کے روز و شب فقر و تنگدستی میں کیے گزرتے آپ کے لئے کسری اور خسروی شان و شوکت اور شایانہ سامان موجود تھے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ نے دنیا کو کبھی نہیں اپنایا۔

حیات طیبہ کا مشہور واقعہ ایلا، اس پر شاہد ہے، ازواج مطہرات سے آپ نے ایک ماہ کے لئے محض اس لئے علیحدگی اختیار فرمائی تھی کہ انہوں نے اجتماعی طور پر آپ سے ان نفقہ کی کشادگی اور آسائش، دنیاوی طلب کی تھی، اس زمانے میں آپ نے تنہائی اختیار فرمائی تھی اور صحبت اصحاب سے کنارہ کش ہو گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خدمت گرامی میں باریاب ہوئے تو اس وقت آپ کھال کے گدے پر اس طرح استراحت فرماتے تھے کہ حیم مبارک پکھڑے گدے کے نشانات پڑ گئے تھے اس شہنشاہ عالم کے حجرہ قدس میں دنیاوی اثاثہ صرف یہ گدا، ایک مشکیزہ اور ایک پیالہ تھا، تاریخ اسلام میں یہ داخلہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول موجود ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے اس حال پر تاسف فرماتے ہوئے کہ یہ دیکھو ہو کر عرض کیا کہ حضور! قیصر و کسری تو دنیا کے عیش و آرام سے متمتع ہو رہے ہیں اور شہنشاہ عالم اس طرح رخت کش ہیں تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے عمر! کیا تم یہ کافی نہیں سمجھتے کہ ان کافروں کے لئے دنیا کا آرام اور ہمارے لئے آخرت کی آسائش موجود ہے، اس سلسلہ میں آپ کا یہ ارشاد گرامی و حدیث شریف، ہماری رہنمائی کے لئے موجود ہے:-

کن فی الدنیا کانتا غریباً و عابراً السبیل، مشکوٰۃ شریف،

تم دنیا میں اس طرح رہو تو یا تم ایک مسافر ہو یا راستہ چلنے والے دنیا کے سلسلہ میں قرآن حکیم کے احکام اس سے قبل پیش کو چکا ہوں جس میں اس کو محض ہو و لب، ایک متاع قیسیں اولاد و اموال کو فتنہ کہا گیا ہے، ارباب تصوف نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت طیبہ کو اپنے لئے ایک نمونہ بنا کر ہمیشہ فقر و فاقہ، تنگدستی



اوسےرت میں زندگی بسر کی اگرچہ متاع و اموال دنیا کے ان کے سامنے ڈھیر لگے ہوئے تھے مہازوں کے لئے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے ہوتے تھے لیکن خود نان جویں پرگزر کرتے تھے، تاریخ تصوف اور تذکرہ ہائے اصحاب تصوف میں اس کی صد ہا مثالیں موجود ہیں۔  
بجوف طوالت رقم نہیں کر رہا ہوں۔

یہاں ایک نکتہ کی وضاحت ضروری ہے کہ دنیاوی لٹائڈ سے اس بے تعلق کا نام ربانیت نہیں ہے۔ بلکہ اس ترک دنیا کا مقصد و مطلب یہ تھا کہ دنیا سے کم سے کم تعلق رکھا جائے تاکہ یاد خدا میں حائل نہ ہو۔

چہیت دنیا از خدا غافل بودن نے قماش و نقرہ و فرزند و زن (مولانا رومی) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دنیا سے تعلق رکھتے تھے، ازواج و اولاد کے تعلقات موجود تھے لیکن وہ دنیا دار یا دنیا پرست نہیں تھے وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے الگ تھلگ تھے وہ جانتے تھے کہ۔

آئی ہے بے حیا مرا ایمان خریدنے

دنیا کھڑی ہے دولت دنیا لئے ہوئے (حفیظ جالندھری)

خلافت راشدہ کے بعد اس دنیا نے دولت دنیا کے لئے جن فتنوں کا آغاز کیا۔

ان کی تشریح کے لئے تو دفتر کے دفتر درکار ہیں حصول دنیا کے لئے جو فتنے اٹھے ان فتنوں نے دنیا کو وہ بھیانک تصویریں ایمان پر وز لگا ہوں اور قلب ہائے مسلم کے سامنے پیش کی کہ ان حضرات نے سلامتی ایمان کے لئے اس سے قطع تعلق ہوں نجات سمجھی

لیکن دنیا پرستوں نے اس پر ربانیت کا ایسل لگا دیا حالانکہ یہ حقیقت نہیں تھی! تابعین اور تبع تابعین کے دور میں جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ترک دنیا اور تصوف کو لازم و

ملزوم سمجھا جانے لگا حالانکہ وہ ایک دور کی شدید ضرورت تھی، لیکن بعد کے ادوار میں

بھی سلامتی دین و ایمان کے لئے اس دنیا سے قطع تعلق ہی کو بہتر سمجھا گیا، ارباب تصوف

اور اصحاب فقر نے دولت کمانے کے لئے اربابِ دول کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے بلکہ مزدوری کی، لوہاری، معاری، نجاری، کفش دوزی، زین سازی، لباس شوئی کے پیشوں کو اپنایا، اور ان پیشوں سے جو کچھ پیمیرِ اُجرت حاصل ہوتی، اس میں بھی پڑوسیوں، ناداروں اور مسافروں کو شریک کر لیا اور چند نعمتوں کو اپنے لئے کافی سمجھ کر دوسروں پر خرچ کر دیا۔ یہ حضرات اگر چاہتے تو شاہانِ وقت ان کے قدموں پر دولت کے ڈھیر لگا دیتے اور اس کے لشکر میں بس اتنا کرنا پڑتا کہ ایک ظالم، فاسق فاجر، عیش پرست، بادشاہ کی تعریف میں رطب اللسان ہوتے لیکن ان خدا دوست ہستیوں نے یہ گوارا نہیں کیا، تو یہ ہے تصوف کی دنیا ترک بنا کا مفہوم اور اس کی حقیقت!!

حضور سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتِ الہی کا جو درس اُمت کو **حُبِّ الہی** دیا وہ اس کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت سے عبارت نبی: آپ کی سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات عبادت میں مصروف رہتے، رات بھر کے قیام سے یہ عالم ہوتا کہ آپ کے پاہنے متورم ہو جاتے تھے چنانچہ حضرت باری اپنے محبوب کی شدتِ محبت و اطاعت پر ارشاد فرمایا

يَا أَيُّهَا الْمُدْمِنُ مَتَى اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا (پارہ ۲۹)

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے ہادیِ برحق کے اسوۂ حسنہ کی تقلید کرتے اور ان کی زندگی کے لمحات و آفات ہی طاعت و بندگیِ الہی میں بسر ہوتے! خود باری تعالیٰ نے ان کی طاعت و بندگی کو سراہا اور ان صالحین اور نیک بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا

تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجْدًا يَلْبَعُونَ نَدًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا  
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَسْرَارٍ سَاجِدٌ (سورہ فتح پارہ ۲۶)

تم ان کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھو گے، وہ اپنے رب کا فضل اور

اس کی خوشنودی کے خواہاں ہیں اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں۔

حضرات صحابہ کرامؓ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور اطاعت میں ہر دم مصروف رہتے تھے ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور اس بارے میں حکم الہی بھی نازل ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس وقت اپنا دوست رکھے گا جبکہ تم اس کے محبوب کی اطاعت کرو گے!

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (بارہ ۳)

اے رسول! ان سے فرمادو، اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میری متابعت

کرو، اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا۔

خلفائے راشدین اور اصحاب کرام درضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ کی اتباع کامل میں ہر دم منہمک رہتے تھے آپ کے وصال کے بعد ہی صحابہ کرام اور تابعین حضرات کا نصب العین یہی رہا، سنت نبوی کی پیروی میں اس قدر شغف رہا کہ ادنیٰ سی ادنیٰ سنت کو بھی ترک کرنا وہ جہد بہ محبت کی توہین سمجھتے تھے، یہی وہ حضرات تھے جن کے دینی کمالات اور اوصاف جمیدہ کو فرغان حمید میں اس طرح ذکر فرمایا گیا ہے۔

التَّائِبُونَ الْحَامِدُونَ أَعَابِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ

الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ

لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

ان حضرات کو جنت کی بشارت ان کی عیادت ہی میں دے دی گئی تھی اور رب نے

ہر دور میں اور آج بھی یہ بشارت ان نیک بندوں کے لئے موجود ہے، اس ارشاد باری کے تحت صوفیائے کرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے اور دیکھئے کہ ان کی انابت کا کیا عالم تھا، وہ عداہلی میں کس طرح اپنے صبح و شام بسر کرتے تھے، ان کی عبادت کی کیا شان تھی کس طرح وہ قائم الیل اور صائم الدہر تھے، ان کے رکوع و سجود کی کیا کیفیت تھی، وہ امر بالمعروف میں کس طرح بیباک اور کس قدر نڈر تھے۔ "نہی عن المنکر" میں ان کی جرات اور دلیری کا کیا عالم تھا اور وہ حدود الہی کا کس قدر اہتمام اور کیا کچھ انصرام کرتے تھے۔ صحابہ کرام حضرات تابعین اور بزرگان ملت و ارباب تصوف نبی اولیاء کی کتب سیرت کا مطالعہ کیجئے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ان کی حیات کے لمحات و انات کی کس طرح بھرپور تطبیق ہوتی ہے اور ان کی زندگیوں ان کمالات انسانی کے سانچوں میں ڈھلی ہوئی تھیں یا نہیں جب دور فتنن آیا تو جب بھی اس پر آشوب زمانے میں عبادت الہی میں ان کے اہنک کا یہ عالم تھا کہ

اور کچھ اس کے سوا ہوش کی روداد نہیں  
تو مجھے یاد ہے کچھ اور مجھے ... یاد نہیں (شمس بریلوی)

حُب الہی میں جب محویت و استغراق بڑھ جاتا ہے تو ایسی کیفیت  
استغراق اور حالت طاری ہو جاتی ہے کہ صاحب حال کو نہ اپنی خبر ہوتی ہے  
اور نہ خبر والوں کی خبر، حضرت سعدی علیہ الرحمۃ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس استغراق  
و محوینہ کو نہایت ایجاز کے ساتھ اس طرح گلستان میں پیش کیا ہے۔

”نشیندہ ای کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گفت لی مع اللہ  
وقت لا یسعی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل ہ  
و نہ گفت علی الدوام، وقتہ جبرئیل و میکائیل نیرداختے و دیگر وقت  
باحفصہ و زنیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ساختے۔“

اسی سلسلہ میں حدیث شریف میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، اس وقت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم استغراق میں تھے آپ نے حضرت عائشہؓ کو دیکھ کر فرمایا کہ تم کون ہو؟ حضرت عائشہؓ نے جواب دیا کہ میں عائشہ ہوں، آپ نے فرمایا، عائشہ کون؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی! ارشاد ہوا کون ابو بکر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست! حضرت رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد کون! غور فرمائیے کہ یہ فرمانے والی ذات گرامی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر خاموش ہو گئیں اور آپ سمجھ گئیں کہ آپ پر اس وقت کوئی خاص کیفیت طاری ہے یہی استغراق ہے :-

یاد الہی میں یہ استغراق آپ کے فیضِ صحبت سے خلفائے راشدین کو جس طرح حاصل تھا اس کے بیان کے لئے چند صفحات ناکافی ہیں کتب سیر میں یہ واقعات تفصیل سے موجود ہیں انہی حضرات کے فیضِ صحبت سے مستفید ہونے والے حضرات کو بھی یہ استغراق عبادتِ میسر ہوا، حضرات تابعین کے بارے میں اس استغراق کے بہت سے واقعات کتب سوانح میں مرقوم ہیں ان کے بعد درجہ بدرجہ یہ وصف ان حضرات میں بھی پیدا ہوتا رہا جو اس مسلک کو اختیار کرتے رہے جس کا نام تصوف ہے، تاریخ تصوف اور تذکرۃ الاولیاء میں تفصیل سے ایسے واقعات موجود ہیں اور آپ کے مطالعہ سے گزر چکے ہوں گے۔

قرآن حکیم میں فقر کی واضح تعلیم اور یہ کھلا حکم موجود ہے۔  
**فقر:-**  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ  
ذَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ه

”یعنی اے لوگو! تم اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور سزاوارِ حمد و ستائش ہے!“

اللہ تعالیٰ سے اسی احتیاج کا نام فقر ہے، فقر انسان کا وہ اعلیٰ مقام ہے جو اس میں بہت سے فضائل اخلاق مثلاً توکل، صبر اور ایثار کے اوصاف پیدا کر دیتی ہے، حرص و ازز سے محفوظ رکھتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصف پر اظہارِ فخر فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، "الْفَقْرُ فِخْرِي فَقْرٌ مِرْنِي لِنَيْ سِرْمَانِي اَفْتَحَارُ هِي"۔ اس فقر کے معنی غربت و تنگدستی نہیں ہیں جس کے باعث انسان کو دوسروں کے سامنے دستِ سوال دراز کرنا پڑے بلکہ فقر سے مراد دل کا استینا ہے جس کے سامنے دولت کے انبار لگے ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ سے ہم کو فقر کا بہترین سبق ملتا ہے، آپ کے سامنے دولت کے انبار لگے تھے، صحن مسجد میں عنائم کے ڈھیر لگے ہوتے لیکن آپ جب تک مستحقین پر اس دولت کو تقسیم نہیں فرما دیتے تھے آپ کو قرار اور تسکین حاصل نہیں ہوتی تھی، جو کچھ مال غنیمت سے حاصل ہوتا وہ ضرورت مندوں پر اسی وقت خرچ کر دیا جاتا اور حالیکہ کاشانہ نبوت میں بسا اوقات پیالہ بھرا وودھ اور مٹھی بھر جو کے بوا اور کچھ نہ ہوتا، اکثر کئی کئی دن گزر جاتے کہ کاشانہ نبوت میں کھانا پکانے کے لئے آگ ہی روشن نہ ہوتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بے سرو سامانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے تھے۔

خلفائے راشدین بھی فقر کے ولید اور تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فقر مشہور ہے آپ کی تنگدستی کا یہ عالم تھا عتق کے وقت اپنی زرہ فروخت کر کے ولیمہ کا سامان بہم پہنچایا، دوسرے اصحاب، تابعین، تبع تابعین میں اللہ کے برگزیدہ بندے اس متاعِ عزیز کی حفاظت کرتے رہے لیکن فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اب رفتہ رفتہ مفقود ہوتا جا رہا تھا حرص و ازز نے اپنے چنگل پھیلا دیئے تھے بیت المال جو صرف مسلمانوں کا تھا اب اس پر حاکم وقت کو کُل اختیار و اقتدار حاصل تھا اور وہ اس کو اپنی خواہشات کی تکمیل پر بے دریغ خرچ کرتا تھا البتہ اس وقت ہی اللہ تعالیٰ سے کچھ برگزیدہ بندے ایسے تھے جو رسول اکرم

صلى الله عليه وسلم کی اس سنت کو اپنائے ہوئے تھے، چونکہ فقر و نیاوی خواہشات مثلاً حرص و آرزو، جبر و تشدد اور تن آسانی سے محفوظ رکھتا ہے اس لئے صوفیائے کرام نے اس وصف کو مسک تصوف کا ایک ستون قرار دیا اہل اللہ اور اکابر صوفیہ نے دولت دنیا کے انباروں کو جس طرح بیچ سمجھا اور اپنے فقر کو اس سے ملوث نہیں کیا اس کی تفصیلات کتب سیر و سوانح میں موجود ہیں :

فقر کے وصف سے فضیلت صبر پیدا ہوتی ہے یعنی انسان کو جو کچھ مال و متاع صبر سے میسر ہے اس کو کافی دانی سمجھے اور حرص و آرزو کے سیلاب پر بند باندھے رہے، راہ حق میں اس کو جو ایذا اور تکلیف پہنچے اس کو برداشت کرے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّمَا يُوْنِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

بیشک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملتا ہے۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کے حصول کے لئے اس طرح دعا فرمائی ہے :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي شُكُورًا وَّاجْعَلْنِي صَبُورًا ۝

اے اللہ! مجھ کو شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا بنا دے :

حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام میں دشمنوں کی ایذا رسانی پر جس طرح صبر فرمایا اس کی تفصیل سیرت پاک کی کتابوں میں موجود ہے، صحابہ کرام نے آپ کی اتباع اور آپ کی صحبت سے بہرہ اندوز ہو کر اعلا کلمۃ الحق میں جو زحماتیں اٹھائیں اور شداہد کو جس خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور ایذا سے دشمن پر جس طرح صبر کیا وہ تاریخین سے پوشیدہ نہیں صحابہ کرام کے بعد تابعین حضرات نے اور پھر اولیاء کرام نے حق گوئی اور جابر حکومت کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں جن شداہد کا سامنا کیا اس کی توفیق ان کو صبر ہی کی بدولت ملی، یہی سبب ہے کہ صبر تصوف کے مسک کا ایک اہم رکن ہے۔

اب دوسرے اوصاف یعنی فضائل اخلاق مثلاً، ایثار، توکل، خوف ورجا ہی کوئی وغیرہ پر نظر ڈالئے۔ یہ تمام اوصاف حمیدہ اور فضائل اسلام کے اخلاقی نظام میں شامل ہیں ان فضائل اخلاق کے بغیر ضابطہ اخلاق کی تکمیل نہیں ہوتی، ان اوصاف حمیدہ اور فضائل اخلاق کا کامل نمونہ تو خود حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی جس کو قرآن حکیم نے اس طرح ظاہر فرمایا ہے۔

اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝ بَشِيْكَ اَبِ اَخْلَاقٍ كِي بَلْبَدِيُوں پَر (فائز) ہیں  
محمد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ابر بقیّت کا مقصد مکارم اخلاق کی تکمیل کو قرار دیا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔

بعثت لاقستم المكارم الاخلاق ۝ میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں۔  
چنانچہ وہ تمام فضائل جو کمال انسانیت کے لئے ضروری ہیں ان کا کامل اور جامع نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔

آپ کے فیضان صحبت سے یہ اخلاق سنہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام میں بمنزلہ کمال موجود تھے، اصحاب صفہ تو صبر و توکل اور استقامت کا پیکر تھے انہی حضرات کے فیض صحبت سے یہ اثر ان اصحاب میں ہی ذرا آیا جنہوں نے ان سے اکتساب فیض کیا تھا جس طرح روحانی کمال کے لئے صحبت الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، استغراق، مراقبہ مجلس عبادت وغیرہ کو لازم قرار دیا ہے اسی طرح، تکمیل بشریت و انسانیت کے لئے یہ فضائل اخلاق ضروری قرار دیئے گئے ہیں چنانچہ دور تابعین و تبع تابعین میں ان کمالات انسانی اور روحانی کا نام مسلک تصوف رکھا گیا اور اس مسلک پر گامزن ہونے والے حضرات "صوفی" کے لقب سے نامزد ہوئے اس مسلک پر قدم رکھنے کے لئے یہ شرط رکھی گئی کہ مرید مجاہدات کے ذریعہ ان فضائل گوناگوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرے۔ مرشد کی باطنی توجہ اس کی دستگیری اور رہنمائی کے لئے موجود ہوتی تھی۔ مرشد اپنے کو پریداں وقت اپنی



نیابت اور قربت کا اہل نہیں گردانتا تھا جب تک وہ ان فضائل سے آراستہ نہیں ہو جاتا تھا، یہاں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان تمام فضائل اخلاق کی وضاحت کروں اور انہیں طریقہ کے احوال سے ان فضائل کی تطبیق پیش کروں، میں یہاں چند ارشاد بھی پیش کر رہا ہوں جن میں فضائل اخلاق کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان بندوں کو سراہا گیا ہے جنہوں نے فضائل اخلاق کو اپنایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لَا مَنِّمٌ وَعَقْرَبٌ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝

بے شبہ وہ ایمان والے کامیاب ہوئے  
جو اپنی نماز میں خضوع و خشوع کرتے ہیں  
اور جو بکنی باتوں پر دھیان نہیں دیتے اور جو زکوٰۃ  
دیا کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت  
کرتے ہیں (نصیب و پاکدامن ہیں)

ذیل کی آیات پر غور کیجئے ایک مومن کی نشانیاں کس قدر صراحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ  
قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَةِ وَالْمَلَائِكَةِ  
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَذَاتِ الْمَالِ عَلَىٰ  
بِهِ ذُرِّيُّ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ  
ابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنا منہ مشرق  
یا مغرب کی طرف کرو بلکہ اصل نیکی اس میں ہے  
جو اللہ پر ذات پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں  
پر اور پیغمبروں پر ایمان لایا اور خدا کی محبت میں  
اپنا مال، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو  
دعا کیوں کو، مسافروں کو مانگنے والوں اور غلاموں

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ  
بِعَهْدِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ  
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَرَحِينَ الْبَأْسِ  
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ  
هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

کے آزاد کرانے میں خرچ کیا اور نماز اس کی، زکوٰۃ  
دیتا۔ ہا اور وعدہ کر کے اپنے وعدے کو پورا  
کیا اور جو مصیبت میں تکلیف اور کافروں سے  
لڑائی میں ثابت قدم رہا یہی وہ ہیں جو راست باز نہیں  
اور وہی تقویٰ والے ہیں۔ سورۃ

انتقامت، راست بازی، ایثار، صدقہ اور ایقانے عہد کے ساتھ ہی ساتھ نمازیں  
حضور قلب اور ارکان ایمان کی اہمیت کو باری تعالیٰ نے مذکورہ آیات میں صراحت کے ساتھ  
ارشاد فرمادیا تاکہ مسلمان اس کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں۔  
الغرض فضائل اخلاق سے آراستہ بندوں کو باری تعالیٰ نے خوب سراہا ہے اور  
بتایا ہے کہ یہ اہل ایمان کی نشانیاں ہیں اور صاحبان تقویٰ ان اوصاف کے حامل  
ہوتے ہیں۔

نظریہ تصوف میں طریقت و معرفت، ان تمام کمالات روحانی اور ذمائل انسانی  
کو اپنے ابدیموتے ہوئے ہے اب آپ اللہ اور بزرگان دین کی پاکیزہ زندگیوں کا  
جائزہ لیجئے اور دیکھئے کہ قرآن حکیم کے اس نظام اخلاق پر پورے اثر سے ہیں یا نہیں  
حضرت ابوذر غفاری، حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت شعبان ثوری مسک تصوف کے عماد  
ہیں، ان حضرات کے بعد مسک تصوف کی جلوہ سامانیوں نے اطراف و اکنات حجاز، مصر و  
عراق و عجم اور شام کو نور ایمان سے منور فرمایا، انہی اوصاف اور کمالات روحانی کے باعث  
عوام و خواص میں اس نظریہ معرفت یا تصوف نے بہت جلد قبولیت حاصل کر لی، ارباب معرفت  
و تصوف نے لاکھوں بھٹکے ہوئے بندوں کو باویہ ضلالت سے نکال کر سیدھے راستے پر لگا دیا۔  
دوسری صدی ہجری سے شروع ہونے والی یہ روحانی تحریک خوب پھولی پھلی اور  
بہت جلد لاکھوں انسان اس تحریک سے وابستہ ہو گئے اس تحریک و اس نظریہ روحانی

سے وابستگی کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا بلکہ یہ ایک بڑی کٹھن اور دشوار گزار منزل تھی لیکن یہ تحریک اور یہ نظریہ کچھ ایسی روحانی کشش رکھتا تھا کہ اس راہ کی زہرہ گدازہ دشواریوں سے باوصف بڑے ذوق و شوق سے اس راہ پر خطر میں اربابِ عشق و محبت اور طالبانِ مولا نے اپنے قدم رکھ دیئے تھے، مرشد کی طرف سے سخت ریاضتوں اور مجاہدوں پر مامور ہونے سے باوصف، محبت کے یہ متوالے، باغ و بہار دنیائے نکل کر انسان اور ویلن گوشوں میں آ بیٹھے اور پھر فلوت میں، ذکر الہی قیام اللیل اور صوم ہائے داؤدی کی ادائیگی اس پر مستزاد سین راہ الفت میں جان کی بازی لگانے والوں کو یہ سب کچھ گوارا تھا۔

دوسری، تیسری صدی ہجری میں "تصوف" صرف ایک عملی منہاج تھا، اس پر علمی موثر گائیوں کے دبیر پردے ابھی تک نہیں پڑے تھے لیکن جیسے جلیبہ وقت گزرتا گیا اس کی علمی حیثیت بڑھتی گئی اور آخر کار جلد ہی اس پر ناستفانہ رنگ غالب آ گیا، تصوف میں نظریہ وحدت الوجود کو جگہ مل گئی، اس نظریہ کی آمیزش سے تصوف کے مسلک کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچا۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی بلند پایہ تصنیف "فتوحات مکیہ" اور "فصوص الحکم" اسی نظریہ وحدت الوجود کی ترقی یافتہ اور جامع ترجمان ہیں لیکن شیخ اکبر کو نظریہ وحدت الوجود کا بانی نہیں کہا جاسکتا بلکہ وہ اس کے عظیم شارح اور ترجمان ہیں البتہ اس نظریہ کو علمی شکل میں جس شان سے شیخ اکبر نے پیش کیا اس طرح اب تک یہ نظریہ روشناس خواص نہیں ہو سکا تھا۔

نظریہ وحدت الوجود چوتھی صدی میں موجود تھا اور حضرت شیخ الطریق ابو سعید ابوالخیرؒ اس نظریہ کے علمبردار تھے ان کو یہ نظریہ سلسلہ بہ سلسلہ سید الطائفہ جنید بغدادی سے حاصل ہوا تھا اس موضوع پر آئندہ صفحات میں مزید تفصیل پیش کروں گا!

فرد کی زندگی اور ماحول میں چولی دامن کا ساتھ ہے اور ماحول کے تار و پود اقتدارِ اعلیٰ کے ہاتھوں سے تیار ہوتے ہیں مثل مشہور ہے الناس علیٰ دین ملوکہم، یہ دین

ملوک کیا ہے حکومت اور اقتدار کے مقتضیات، اسے احکام کی بے چون و چرا پذیرائی اور اس  
اقتدار اعلیٰ کی پذیرائی، حکومت کے اشاروں پر اپنی زندگی کے رخ کو موڑ دینا ہے، تاریخ  
کے ہر دور میں ایسی تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی، خلافت راشدہ کا صالح ماحول دیکھئے اور  
پھر اس کے بعد نبی امیہ کے دور میں شخصی سلطنت اور اس کے جبروت کی کار فرمائیاں دیکھئے،  
عباسی سلطنت میں تن آسانی اور عیش کوشی کے رنگین مرتبے آپ کے سامنے آئیں گے، فنون  
لطیفہ کی پرورش اور عوام میں اس کی قبولیت صدائے ناؤ و نوش اور طاؤس و رباب کی  
جھنکاروں سے بغداد ہی کی نہیں بلکہ تمام قلمرو عباسیہ کی رانیں فردوس گوش جنت نگاہ کا نقشہ  
آپ کے سامنے پیش کریں گی، بنادین، شوش، قتل وغارتگری اس دور کے حیرت انگیز مشاغل  
ہیں، بزم کے ساتھ ساتھ رزم کا جائزہ لیجئے تو حصول اقتدار کی کش مکش، باپ کے ہاتھوں بیٹے  
کا قتل اور بیٹے کی کیل تمپیدہ مظلوم دستم رسیدہ باپ کی آنکھوں میں آپ کو نظر آئے گی، محل  
شاہی میں لوندی اور غلاموں کی بہتات اور ان کے ہاتھوں میں شاد وقت کا بار پھرا، افعال  
بن جانا تاریخی حقیقتیں ہیں، نفس پروری اور عشرت کوشی کا اس سے اندازہ کر لیجئے کہ خلافت  
عباسیہ میں سوائے ابن الرشید کے تمام سلاطین یا امراء، المسلمین کنیزوں کے بطن سے پیدا ہوتے  
ہیں اور ان کنیزوں کو ام و لاہونے کا شرت حاصل ہوتا ہے، ان کے نام تاریخ نے آج تک  
محفوظ رکھے ہیں، ان رنگینیوں اور عیش کوشیوں کے تحت جو سماج موجود میں آیا اور جس ماحول  
نے تشکیل پائی وہ طاؤس و رباب کی جھنکاروں سے گونج اٹھانا و نوش کی صدائیں ہر کوچہ و  
برزن سے بلند ہونے لگیں امتداد زمانہ ان رنگینیوں میں اضافہ کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ  
عذاب الہی سیل تا تار بن کر نازل ہوا اور صرف بغداد ہی نہیں بلکہ اکثر ممالک اسلامیہ کی اس نے  
اینٹ سے اینٹ بجا دی اور لاکھوں مسلمانوں کے خون سے تاتاریوں کی تیغ خون آشام نے  
اپنی پیاس بجھائی غرضیکہ اسلامی اقدار، اسلامی اصول اور شعائر مذہبی سے بے پردائی اور  
تن آسانی کی یہ تندہوائیں دوسری صدی ہجری سے چلنا شروع ہوئیں اور مقبصم باند قتل

تاریکی بربادی تک اس قدر تند و دو ہو گئیں کہ ان کے سامنے عزم و تجاہت جرات و شجاعت کا ٹھہرنا ہی مشکل ہو گیا۔

ایسے شکست خوردہ ماحول میں کچھ علمائے حق فریب خوردہ اور دلدل بہت مسلمانوں کو خراب غفلت سے بیدار کرتے رہے لیکن وہ بیدار نہیں ہوئے، صوفیائے کرام نے متاع محبت و ایمان کو سینے سے لگائے ہوئے ایسے پُراشوب ماحول سے نکل جانے ہی کو غنیمت سمجھا اور شہروں اور بستیوں سے کوسوں دور دیوانوں کو انہوں نے اپنا مستقر اور سکین و مقرب بنایا اور یہاں وہ ذکر الہی کی خلوت میں آباد کرتے رہے اور دنیا کے اسکو رہبانیت سے تعبیر کیا۔ ان کو اس کی پردہاہ نہیں تھی دنیا جو کچھ کہتی ہے کہا کرے۔

قرن سوم و چہارم ہجری کے ارباب طریقت اور اصحاب تصوف کے حلقوں میں وحدت الوجود کے نظریہ اور انکار کی قبولیت نے اس درجہ ترقی کی کہ صوفیائے کرام نے صرف اتصال و قرب خداوندی کو اپنا نصب العین بنا لیا اور اس نصب العین کے سوا دوسرے اقدار شرعی کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی یہاں سے فقہاء اور صوفیاء کے درمیان ایک نزاع شروع ہو گیا۔ اس لئے کہ اصحاب شریعت کی نظریں، وحدت الوجود، کا نظریہ توحید اسلام کے سناؤ تھا۔ لیکن اس دور کے تمام صوفیاء اس نظریہ کے علمبردار نہیں تھے۔ ان دونوں صدیوں میں ایک طرف تو صوفیائے کرام کا ایک طبقہ ایسا تھا جس کی حرارت عشق حقیقی، اور شوریدگی درجہ کمال پہنچ گئی تھی اور ان کا تصوف کمال عیار اور پختگی کی صفت سے آراستہ تھا اور ایک طبقہ صوفیاء کا ایسا تھا جو سیر و سلوک، بیخ گفتار اور طرز رفتار میں قرن دوم کے صوفیائے کرام سے مشابہت خاص رکھتا تھا، صوفیائے کرام کے یہ دونوں طبقے تصوف کے اصول و مابانی میں مشترک تھے لیکن باظہر بہ کردہ، ان کے خصوصی طرز اور انداز موجود تھا، یعنی سرگروہ کی خصوصیت کو اپیلے ہوتے تھا جس سے باعث وہ دیکھنے کے وہ سے ممتاز و متمیز تھا، اس طرز و پختگی نے یہ مقام حاصل کر لیا کہ آج تک مختلف سلاسل اور طبقات صوفیہ میں یہ خصوصیت

برقرار ہے۔

اس قرن میں شیخیت، پیرومرشد کے اقتدار اعلیٰ کے نظریہ نے بڑا فروغ حاصل کیا، ہر گروہ کامل طور پر ایک پیر یا ایک مرشد کی رہنمائی اور سرپرستی کے تحت آگیا اس طرح مرشد یا پیر کا اپنے مریدوں پر کامل تسلط ہو گیا جو ان کے تمام اعمال کا نگران بن گیا۔ اور اس طرح "آداب مرشد و مرید" میں تصوف کی تعلیمات کا ایک موضوع بن گیا، العوارف الامارت میں جو شیخ الشیوخ شہاب الدین بہروردی کی مشہور زمانہ تصنیف ہے اس کو ایک مستقل عنوان بنایا گیا ہے، محض آداب المریدین جو مشائخ کرام نے تصانیف مرتب فرمائی ہیں! الغرض یہ نظریہ خوب پھولا پھلا، بالکل اسی طرح جیسے فقہ اسلامی میں اجتہاد کے بعد تقلید! اب میں قرن سوم کے مشاہیر صوفیائے کرام اور ان کی سنوات وفات کو پیش کرتا ہوں تاکہ قارئین مقدمہ کے علم میں آجائے کہ قرن سوم ہجری میں کیسے کیسے ارباب صفا اور اصحاب طریقت موجود تھے۔

|          |   |
|----------|---|
| سال وفات | ۱۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ             |
| ۲۱۵ھ     | ۲۔ حضرت ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ       |
| ۲۶۶ھ     | ۳۔ حضرت بشرحانی رحمۃ اللہ علیہ                |
| ۲۲۶ھ     | ۴۔ حضرت حاتم بن صفوان، اکم رحمۃ اللہ علیہ     |
| ۲۲۳ھ     | ۵۔ حضرت شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ        |
| ۲۲۵ھ     | ۶۔ شیخ الطریقیت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ   |
| ۲۵۳ھ     | ۷۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ               |
| ۲۵۸ھ     | ۸۔ حضرت شیخ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ |
| ۲۶۱ھ     | ۹۔ حضرت شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ      |
| ۲۶۰ھ     | ۱۰۔ حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ       |

- ۱۱۔ حضرت شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ سال وفات ۵۲۸۳ھ  
۱۲۔ حضرت شیخ ابوسعید خرازمی رحمۃ اللہ علیہ ۵۲۸۸ھ  
۱۳۔ حضرت شیخ ابوالحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ ۵۲۹۵ھ  
۱۴۔ حضرت سید الطائفہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ۵۲۹۶ھ  
۱۵۔ حضرت شیخ مٹاد بنوری رحمۃ اللہ علیہ ۵۲۹۹ھ

شیخ الطریقیت شیخ ابونصر سراج رحمۃ اللہ علیہ صاحب کتاب التمع "بہمی تیسری صدی  
ہجری کے مشاہیر صوفیہ میں سے ہیں لیکن چونکہ آپ چوتھی صدی ہجری میں درجہ کمال کو  
پہنچے اور آپ کی مذکورہ تصنیف بھی چوتھی صدی ہجری کی ہے اس لئے آپ کا ذکر، قرن  
چہارم ہجری میں کیا جائے گا۔ یہاں آپ کا ذکر اس لئے کر رہا ہوں کہ صاحب کتاب التمع  
نے اخیر کتاب میں یعنی وسط قرن چہارم تک دو سو صوفیائے کرام کا ذکر کیا ہے، میں نے  
صرف مشاہیر اصحاب تصوف کا ذکر کیا ہے جو قرن سوم میں گزرے ہیں اور ان میں سے ہر ایک  
بزرگ اپنے وقت کا سرخیل ارباب تصوف، صاحب ارشاد و ہدایت گزرا ہے اور عجب جانر  
کے سلاسل صوفیہ میں ان کی ذات گرامی کسی نہ کسی سلسلہ المذہب کا ایک حلقہ زریں کی  
شکل میں آج بھی شامل ہے ان حضرات میں بعض صاحب تصنیف بھی ہیں جیسے شیخ حارث  
محاسبی اور سید الطائفہ جنید بغدادی قدس اللہ سرہا، ان تصانیف کی تفصیل آئندہ سلسلہ  
بیان میں کہیں پیش کروں گا۔

## قرن چہارم اور پنجم

چوتھی صدی ہجری کے آغاز میں "تصوف" نظری اور عملی طور سے ایک مستقل طرز  
بندگی اور اصولِ قرب الہی کے واسطہ کی اساسی سمیت سے نمودار ہو چکا تھا صوفیائے  
کرام کے سلاسل یا اخراب پیدا ہو چکے تھے، ان مختلف سلاسل کے طریقے اور لوازم سلوک  
ایک دوسرے سے بتائیں اور مختلف تھے، اس وقت تک دنیائے تصوف میں بارہ  
مشہور فرقے یا اخراب پیدا ہو چکے تھے لہٰذا ان میں سے دو گروہ مردودِ عوام و خواص  
تھے اور دس مقبول و محبوب !!

ہر ایک طائفہ کے سرخیل کا حلق تیسری صدی ہجری کے ان مشاہیر بابِ طریقت  
سے تھا جن کا ذکر میں ابھی کر چکا ہوں، ان دس طائفوں یا اخراب تصوف میں معاملات  
مجاہدات، مشاہدات اور ریاضت میں تو اختلاف ہے لیکن اصول میں سب متحد ہیں، اصول و  
فروع شرع میں باعتبار عمل اور اعتقادات طوائف متفق ہیں ان بارہ فرقوں یا اخراب میں  
سب سے پہلا طائفہ محاسبیہ ہے۔

۱۔ محاسبیہ :- یہ طائفہ شیخ الطریقت ابو عبد اللہ عارف محاسبی متوفی ۲۱۲ھ سے منسوب  
ہے، یعنی شیخ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ اس طائفہ کے سرخیل تھے، فراسان کے اکثر و بیشتر صوفیائے  
کرام اسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ صوفیہ عراق کے نظریات اس طائفہ سے مختلف ہیں۔  
۲۔ قضاویہ :- یہ دوسرا طائفہ ہے۔ اس طائفہ کے پیشوا اور سرخیل شیخ الطریقت

۱۰ :- تاریخین کرام میں نے اس مقدمہ میں جہاں جہاں لفظ قرن استعمال کیا ہے اس سے مراد صد ہجری

۱۱ :- اس کو عبوسوی صدی پر معمول نہ کیا جائے۔

۱۲ :- برصغیر پاک و ہند ابھی اس نعمت سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا۔



ابوصالح صمد بن رحمۃ اللہ علیہ ہیں اس طائفہ کا طریقہ اور مسلک تصوف میں ملامت کا اظہار اور اس کی نشرو اشاعت سے اس طائفہ کا بنیادی خیال یہ ہے کہ اس راہِ طریقت میں سونے کے لئے حجابِ عظیم اور سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ اس کی ذات منظرِ عجب و نحوث بن جائے اور خلق میں مقبول ہو جائے یعنی خلقِ خدا اس کی رفتار و گفتار کو پسند کرنے لگے اور لوگ اس کو تعریف کرنے لگیں، یہ طائفہ ملامتیہ کے لقب سے مشہور ہے سلسلہ ملامتیہ کا مشہور ترین طبقہ، قلندریہ ہے۔

۳۔ تیسرا طائفہ طیفوریہ ہے۔ یہ شیخ الطریقت بایزید بسطامیؒ (بایزید طیفور بن عیسیٰ بسطامی) اس کے سرخیل ہیں، اس طائفہ کا طریقہ، غلبہ و سُکر ہے، واضح ہو کہ "غلبہ حق اور سُکر درستی" جنسِ کتب سے نہیں ہیں کہ انسان جب چاہے اس کو اپنا لے!!

حضرت بایزید بسطامیؒ کا مسلک سُکر سید الطائفہ حضرت جنید بغدادیؒ کے طریق، صحو کے بالکل برعکس اور مخالف ہے، حضرت جنیدؒ اور ان کے تبعین کی نظر میں، سُکر محلِ آفت ہے، سُکر میں تشویشِ احوال ناگوار ہے، صحت جسمانی کو بھی اس سے نقصان پہنچتا ہے اور صاحبِ سُکر اپنی خودی اور وجود کے سررشتہ کو ہی گم کراتا ہے۔ عاصی جانِ سُکر کے شطیحات مشہور ہیں جن کے الفاظ ظاہری شرعاً قابلِ مواخذہ ہیں۔ حضرت بایزید بسطامیؒ کے اقوال از قسم شطیحات مشہور و معروف ہیں۔ شیخ منصور حلاج بھی صاِحِبِ سُکر تھے۔

۴۔ چوتھا طائفہ، جنیدیہ ہے اس کے سرگروہ اور رئیس طائفہ شیخ الطریقت سید الطائفہ ابوالقاسم جنید بن محمد ہمدانی، بغدادی ہیں۔ اس طائفہ کی اساس طریقت، مراقبہ باطن، تزکیہ قلب، تزکیہ نفس، فضائلِ اخلاق کو اپنانا اور ہر موقع پر طریقت و شریعت کے باہم تطابقت و توازن پیدا کرنا ہے، اس طائفہ کے مسلک کا بنیادی اصول "صحو" ہے، معہ سُکر ہے۔

۵۔ پانچواں طائفہ، نور یہ ہے اس کے سرخیل شیخ الطریقیت ابوالحسن احمد بن محمد النوری ہی رم ۱۰۰۰ء ہیں آپ کے مسلک میں عزالت اور خلق خدا سے کنارہ گیری پسندیدہ خصلت نہیں ہے آپ نے اس کی مذمت کی ہے آپ نے اور آپ کے متبعین نے معاشرت اور صحبت اپنے جس کو اپنایا ہے اور اس کو پسندیدہ خصات شمار کیے ہیں، آپ کے مسلک میں ایثار کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ شیخ نوری "شیخ اقام" اور شیخ حمزہ کے سلسلہ میں کتب تصوف اور کتب تاریخ میں ایثار کا ایک عجیب و غریب واقعہ موجود ہے جس نے خلیفہ یا شاہ وقت کو اب لوگوں کے قتل سے باز رکھا (تفصیل کے لئے دیکھئے کشف المحجوب)۔

۶۔ چھٹا طائفہ یا حزب صوفیہ، "سُجُوبِیَّة" ہے یہ طائفہ شیخ الطریقیت سہیل بن عبد اللہ تبری رم ۲۸۳ھ سے منسوب ہے۔ شیخ طریقیت سہیل بن عبد اللہ تبری کا طریقہ، اجتہاد مجاہداتِ نفس اور ریاضت سے یعنی اس گروہ کے افراد مجاہدہ اور ریاضتِ نفس اور نفس کے خلاف عمل کو سالک کی راہ نجات اور غایت مطلوب تک رسائی کا ذریعہ اور موجب سمجھتے ہیں یہ حضرات ریاضت، مجاہدہ اور خلافتِ نفس کو ایک سالک کے تمام وظائف اور اعمال پر مقدم سمجھتے ہیں۔

۷۔ ساتواں طائفہ، حکیمیہ ہے یعنی سیرداں ابو عبد اللہ محمد بن علی حکیم ترمذی، حکیم ترمذی تیسری صدی ہجری کے مشاہیر صوفیہ میں سے ہیں آپ کے مسلک کی بنیاد، نظریہ ولایت ہے آپ نے ولایت کو طریقیت کی بنیاد گردانا ہے اور دیگر تمام صوفیائے کرام نے ولایت کو تصوف کی اساس جاننا ہے اور آپ نے اس کو "حقیقتِ طریقیت" سمجھا ہے چنانچہ آپ کا ارشاد ہے کہ:-

"مراحل سلوک کا، کسی دل کی رہنمائی کے بغیر قطع کرنا کسی طرح ہی مفید نہیں ہو سکتا"

۸۔ صاحب سنن ترمذی ایک دوسری شخصیت ہے، لفظ ترمذی سے بعض حضرات حساب

سنن ترمذی سمجھنے لگتے ہیں اس لئے یہ وضاحت کی گئی ہے۔

۸: آٹھواں طائفہ خرازیہ ہے یہ طبقہ شیخ الطریقیت ابوسعید خرازمی ۲۸۸ھ کا ہے، شیخ ابوسعید خرازمی سنی صدی ہجری کے شاہراہ اب تصوف سے ہیں، آپ کے مسلک کی اساس "فنا و بقا" ہے، یہ موضوع مسائل تصوف یا موضوعات طریقت میں سب سے زیادہ اہم اور رفیق ترین موضوع ہے، یہ گروہ اپنے نظریہ کی صداقت کا استدلال اس ارشاد ربانی سے کرتا ہے۔

كُلٌّ مِنْ عَلَيْهَا فَاَنْ وَبِئْسَ وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

اور

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ

مسک خرازیہ کے نظریہ کی اساس ہی ارشادات باری تعالیٰ ہیں: "فنا و بقا" کے نظریہ کی توضیحات و توجیہات میں آپ کے متبعین نے عجیب و غریب کلمہ آفرینیاں کی ہیں، اس طائفہ کے تمام متبعین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ "بندے کے تمام اوصاف فنا ہو جانا چاہئے تاکہ بقائے تام حاصل ہو سکے۔"

۹۔ نواں طبقہ یا طائفہ خفینہ، نابت جس کے سرخیل شیخ الطریقیت عبداللہ محمد بن خفیف رعت اللہ علیہ اور آپ کے متبعین ہیں ان کے مسلک اور نظریہ تصوف کی اساس، غیبت و حضور" سے، حضور سے مراد دلالت یقین پر "حضور" سے تاکہ حکم فیہ حکم عتبی بن جائے اور غیبت و بفتح اول، سے مراد حق تعالیٰ کے سوائے، تمام موجودات سے دل کی غیبت ہے یہاں تک کہ سالک کو اپنی ذات سے ہی غیبت حاصل ہو جائے، اس کی علامت رسومات سے اعراض ہے۔ حضرات مشائخ میں سے یعنی حضرات نے، غیبت پر "حضور" کو مقدم رکھا ہے اور بعض نے اس کے برعکس، غیبت و حضور" اور "سکر و صحو" میں فرق ہے، سکر و صحو میں دونوں اوصاف کی نہیں پائی جاتی ہے اور غیبت و حضور" میں تمام اوصاف فنا ہو جاتے ہیں پس یہ مرتبہ "سکر و صحو" سے کہیں بڑھ کر ہے۔

۱۰۔ دسواں طائفہ "شیاریہ" ہے اس طائفہ کو شیخ الطریقیت شیخ ابوالعباس شیاری سے نسبت ہے، صاحب کشف المحجوب ان کو پیشوائے "مرو" بناتے ہیں، آپ صاحب کشف المحجوب کے معاصرین میں سے ہیں، طائفہ شیاریہ کے مسلک طریقت کی بنیاد "جمع و تفرقہ" ہے، جمع و تفرقہ کے معنی عرفان کی نظر میں یہ ہیں کہ جو کچھ سالک کی ذات سے منسوب ہے وہ "تفرقہ" ہے اور جو کچھ خداوند تعالیٰ کے مواہب و عطایا سے ہے وہ "جمع" ہے، بندے کے مکاسب اس کے دعائے زندگی پر پیام کے جو نتائج ہیں یہ سب کے سب "تفرقہ" ہیں، مواہب الہیہ اس کے الطاف و احسان اور فضل خداوندی ہے، یہ سب "جمع" ہے۔

مندرجہ بالا ان طوائف یا فرقوں کو عوام و خواص میں قبولیت اور پسندیدگی حاصل ہے اور جو فرقے مطرود و مردود ہیں وہ حلولیبہ اور دینوریہ "ہیں یہ دونوں فرقے حصول یا امتزاج اور نسخ ارواح کے قائل تھے، ان کو عوام و خواص میں کبھی بھی قبول حاصل نہیں ہوا جس طرح ارباب شرع نے ان کو رد کیا اسی طرح اصحاب طریقت نے بھی ان کو مردود گردانا۔ یہ دونوں فرقے فرق ضالہ ہیں شمار کئے گئے اور اب دنیا سے مٹ چکے ہیں۔

چوتھی صدی ہجری تک صوفیائے کرام کے یہ مشہور و معروف طوائف تھے جن کا میں نے آپ سے تعارف کرایا، اس قرن سے پہلے طریقت سے مراد تھی اخلاقیات و تہذیب اخلاق، اور قوائے روحانی کی پرورش، اور خواہشات طبعی پر بھرپور قدرت کا حصول، باطن کا تصفیہ، زاہدانہ زندگی اور طلب تصرف میں دنیاوی علالت سے امراض، یہ صورت حال قرن سوم تک برقرار رہی، اس قرن تک نظریہ تصوف میں انفرادیت... کارفرمانہ تھی۔

قرن چہارم اور اس کے بعد آنے والے فرقوں میں طریقت میں یہ انفرادی شان باقی نہیں رہی بلکہ وہ طوائف، اہراب یا مختلف گروہوں کی شکل میں نظر آنے لگی، زاہدانہ زندگی اوصاف سے متصف فرد کی شخصیت کو مرشد یا شیخ کی حیثیت سے تسلیم کرنا تو کوئی نئی

بات نہیں تھی یہ سلسلہ طریقت میں اس نظریہ کے قیام سے منسلک چلا آ رہا تھا لیکن ایک شیخ کے بہت سے مریدین کا ایک مخصوص جماعت یا طائفہ سے خود کو منسوب کر لینا تیسری صدی ہجری کی پیداوار ہے۔ یہ پیران طریقت مختلف قوموں یا فرقوں میں بٹ گئے اور مسلک طریقت کے متبعین نے اپنے اپنے مخصوص گروہ اور جماعت کے لئے مختلف نظام تربیتی مختلف نظریات قرب الہی کے حصول اور تزکیہ باطن کے لئے قائم کئے جیسا کہ آپ اطوائف کے تعارف میں مخصوص نظریہ کی پیروی اور ایک خاص حال و مقام کو اپنانے کے سلسلہ میں مطالعہ کر چکے ہیں کہ ایک طائفہ نے فنا و بقا کو نصب العین ٹھہرایا، ایک دوسرے طائفہ نے جمع و تفریق کو اپنے مسلک کا محور بنایا ایک جماعت نے، غیبت و حضور، کو اپنا کر منزل قرب کا راستہ طے کرنا شروع کیا!

جب طریقت کے نظریہ پر معاشرت کا رنگ چڑھا لیتی ایک صاحب باطن اور خدا رسیدہ شخصیت نے اپنے زہد و اتقا، مجاہدہ اور نفس کشی سے لوگوں سے دور رہتے ہوئے بھی شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا تو وہ ایک شیخ طریقت اور مرشد بن کر انفرادیت سے اجتماعیت کے دائرے میں داخل ہو گیا اس وقت مرشد کی اطاعت و فرمان برداری بھی آداب طریقت کا ایک جزو لاینفک بن گئی، مرشد اور شیخ کے حقوق کی رعایت حد سے زیادہ کی جانے لگی۔ یہاں تک کہ جب ایک فرد طریقت کے راستہ پر قدم رکھ کر ایک مرید کی حیثیت سے ایک شیخ سے بیعت کر لیتا تھا تو اس کے معنی یہ تھے کہ اس نے کامل طور پر خود کو مرشد کی سپردگی میں دیدیا! پھر وہ ریاضت و مجاہدہ، عزت نشینی یا بادیہ پیمائی پر مامور کیا جاتا ہر طائفہ طریقت میں مریدین کا یہ نظام بھی جداگانہ نوعیت کا تھا، ان میں بھی یکسانیت نہیں تھی ہر طائفہ اور ہر گروہ کا نظام مریدین جداگانہ تھا جس طرح اس عملی زندگی میں طوائف مرتبہ میں تنوع اور رنگارنگی تھی۔ اسی طرح مسائل نظری میں بھی ان فرقوں کے مابین یک رنگی مفقود ہو گئی جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں ہر فرقہ یا شیخ کے مریدین و متبعین کے لئے طریقت کے احوال گونا گوں اور

مقامات بوقلموں سے ایک مقام یا ایک حال کو پیر طریقت نے سلوک کا محور یا اساس قرار دیدیا۔ کسی شیخ نے توکل کو اپنی طریقت کی اساس قرار دیا، کسی نے مقام، رضا، کو نصب العین قرار دیا، کسی نے نظریہ دلالت، کو سلوک کا مہنی ٹھہرایا اور کسی نے ایشیاء، کو اس راہ میں اپنا مطمح بنا یا اور اس شیخ کے متبعین و مریدین یہ کہہ کر اس پر پورے انہماک سے کار بند ہو گئے کہ:-

بے نیجاہہ رنگین کن گرت پیرمضاں گوید کہ سالک کے خبرنورد راہ درسم منزل ہا

دنیا سے تصوف میں چوتھی صدی ہجری مختلف طوائف سر یہ کے خصوصی نظریات پر اجمال لکھا جا چکا ہے اور ہر ایک فرقہ کی انفرادی خصوصیت کو ہی نمایاں کر دیا گیا ہے اب آپ کی توجہ ایک ایسی قدر مشترک کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو تصوف کے تمامی طوائف میں پائی جاتی ہے اور اس میں انفرادیت کا رنگ نہیں ہے بلکہ ہر طائفہ تصوف نے اس کو اپنایا ہے اور آج بھی کہ مسلک تصوف پر بارہ سو برس سے زیادہ گزرا چکے ہیں وہ اسی طرح اپنے ابتدائی رنگ اور نہج کے ساتھ موجود ہے۔ یہ ہے سند شجرہ کرسی نامہ۔ یا کرسی نامہ، ہر طائفہ اپنے سلسلہ کے مشائخ مرشدین کو چند واسطوں کے ایصال کے ساتھ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے، امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ یہ واسطے کرسی نامہ یا شجرہ میں بڑھتے گئے ہیں اور اب تو بیسیوں اسمائے گرامی بطور واسطے کرسی نامہ میں مشترک ہوتے ہیں، پہلے صرف چند نام ہی ہوتے تھے اور شیخ کا سلسلہ نسبت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا تھا۔

سند یا کرسی نامہ کا طریقہ اس طریقے سے بالکل مشابہہ کہ علمائے حدیث، حدیث کی

صحت کے ثبوت کے لئے اپنے رواد کا سلسلہ سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔

جس میں کذب کا شائبہ نہیں ہوتا، صوفیائے برصغیر اور ایران کے اکثر و بیشتر سلاسل کا منہتی

امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ کی ذات گرامی سے، بعض سلاسل امیر المسلمین حضرت ابو بکر

صدیق رضی اللہ عنہ پر منہتی ہوتے ہیں، برصغیر ہندو پاک کا نقشبندی سلسلہ آپ ہی کی ذات گرامی

پر ختم ہوتا ہے، ان سلاسل کی درمیانی کڑیوں کے باور کرنے میں کوئی استحالہ بائیس و پنج کی گنجائش نہیں ہے! متعدد سلاسل کے یہ تمام واسطے ایک تاریخی حقیقت ہیں البتہ کسی واسطے سے تقدم یا تاخر کا احتمال ممکن ہے۔ ان سلاسل کی اسناد کا یہ صدق ہدایت اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ طریقت کی تعلیم کسی زمانہ میں بھی غیر اسلامی نہیں رہی ہے اور ہر سلسلہ کے واسطے ایسی بلند پایہ شخصیتیں ہیں جو شریعت میں بھی بلند مقام کی حامل رہی ہیں۔

## نصوف قرن پنجم میں

جس طرح قرون سابقہ سیاسی اور عمرانی ہرج و مرج کی داستانیں اپنے روز و شب کے دامن میں سمیٹے ہوتے ہیں ان فرقوں میں ہونے والی جنگوں، قتل و جدال، غارتگری کی قوتیں داستانیں تاریخ کے صفحات پر آج بھی درج ہیں، اس طرح قرن پنجم بھی سکون و پر امن ماحول کا پیام لے کر نہیں آئی بلکہ خلافت عباسیہ کے حکمرانوں کی فتنہ سامانیوں سے ہر روز ایک نئی تباہی کا عوام کو سامنا کرنا پڑتا۔ بغداد کبھی امن و امان کا گہوارہ، علم و فضل کا مرکز، شان و شکوہ کا مرقع تھا اب تباہیوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا استقلال و استحکام سلطنت نام کی کوئی چیز اب باقی نہیں تھی، عباسیوں کا عروج یکھد سالہ تیسری صدی ہجری ہوں دم توڑ چکا تھا، خلافت عباسیہ یا ملوکت عباسیہ کا آغاز ربیع الاول ۱۹۲ھ میں ہوا اور اس کے خاتمے کا سال ۶۵۶ھ ہے، سلطنت عباسیہ کا دور عروج ۱۳۳ھ سے ۲۳۲ھ تک بہند ہے یعنی سفاح کی تخت نشینی سے دابق باللہ ابن قسطنطین باللہ تک، عباسی حکومت کا یہ زوال کچھ غیر متوقع نہیں تھا، ہارون الرشید کے بعد ابن مامون کے مابین تخت سلطنت کے حصول کے لئے خونریز جنگ، امن کی شکست! اس جنگ میں ہزاروں بندگان خدا کا خون بہہ گیا، فتنہ خلق قرآن اور مسلمانوں کی بے بسی امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ پر جبر و تشدد اور زوال برعکس نے اس عروج سلطنت عباسیہ کو

زوال آشا بناریا اور اسی صدی میں صول تحت تاج کے لئے باپ کا بیدریغ سل یعنی مستنصر باند نے اپنے باپ المتوکل باللہ کو قتل کر کے تخت سلطنت حاصل کر لیا، ترکوں کا حکومت بر اقتدار اور عباسی بادشاہ کا ان کے اشارہ چٹم روبرد پر عمل کرنا منہدی باللہ کے دور کی شورشیں جن میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہ گیا، فرنگیوں کی بھرہ پر یلغار اور مسلمانوں کی تباہی، باطنیوں اور قرامطہ کا زور پکڑنا، اہل سنت و جماعت پر ظلم کی فراوانی، ابوطاہر قرامطی کے ہاتھوں مکہ معظمہ میں حجاج کرام کا بیدریغ قتل ۳۲۳ھ میں دیالہ کا عروج، ترکوں کے اقتدار کا زوال، شیعیہ سنیوں میں خونریز فساد، معز اللہ کی پشت پناہی اور شاہیر ملت کا قتل عام،

۳۵۶ھ میں تمام دمشق پر قرامطہ کا قبضہ ہزاروں سنیوں کا تہ تیغ ہونا۔ اقلیم مغرب، مصر اور عراق کا شیعوں کے قبضے میں چلا جانا ۳۹۸ھ میں پھر بغداد میں شیعہ سنی فساد اور عظیم خونریزی، ایران کا عباسیہ حکومت کے قبضے سے نکل جانا اور سلجوقیوں کا اکثر صوبہ ہائے ناریں پر قبضہ جس کے نتیجے میں ہزاروں سپاہیوں کا خون بہ گیا۔

یہ تھے تیسری اور چوتھی صدی کے شہر آشوب کا ایک اجمالی خاکہ، ۴۱۲ھ میں قائم ہوا شدہ تخت نشین ہوا اور دشمنوں کی بنیادوں کو فرد کرنے میں ہزاروں مسلمان کام آگئے ۴۵۷ھ میں سلطان ابراہیم بن سعود بن محمود بن سبکتگین اور والی خراسان کے ماہن عظیم جنگ کا برپا ہونا۔ سلطان ابراہیم کو کامیابی اس جنگ میں بھی ہزاروں سپاہی تہ تیغ ہوئے۔

ظفر بک سلجوقی کے انتقال کے بعد اس کا برادر نزارہ الپ ارسلان والی خراسان، اس کا جانشین ہوا، الپ ارسلان کے دور میں شیعوں کی چیرہ دستیوں کمزور پڑ گئیں ۴۶۰ھ میں اس نیک عادل اور رعیت پرور سلطان الپ ارسلان کا انتقال ہوا اور اس کا فرزند ملک شاہ سلجوقی سربراہی سلطنت ہوا۔ نظام الملک بدستور وزارت عظمیٰ پر فائز رہے۔ باغیوں کا زور بالکل نہیں ٹوٹا تھا اور ملک میں جگہ جگہ شورشیں برپا کرتے رہتے تھے اور تفرکاران ہی کے ہاتھوں ہی نظام الملک کو قتل واقع ہوا اور ملک میں عظیم پیمانے پر فتنہ و فساد اور قتل



وغارتگری کا دورہ دورہ شروع ہو گیا۔ ۱۹۲۲ء میں باطنیوں نے عراق میں ہر قوت پکڑی اور وہاں ان کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔

تیسری صدی ہجری سے پانچویں صدی ہجری تک ممالک اسلامیہ میں جو خلفشار، بد امنی اور قتل و غارتگری کا بازار گرم ہوا، اس کو بیان کرنے کے لئے سینکڑوں صفحات کی ضرورت ہے، میں نے تو ان فتنہ سامانیوں کے صرف عنوانات پیش کئے ہیں اور وہ بھی بہت ہی اختصار کے ساتھ، مستند تاریخوں کے اوراق ان خدائیں واقعات کی تفصیلات کے ساتھ ہیں ان دو شہزادوں میں خلیفہ خدایہ کے دلوں سے کون رخصت ہو چکا تھا، جان و مال اور عزت و ناموس، ایک آن کے لئے بھی محفوظ نہ تھے، دنیا و دولت دنیا کے حصول کے لئے بیدریغ خون بہا رہی تھی، مسلمانوں کا خون پانی کی طرح ارزاں تھا، اس خونریزی اور ابتلائے عظیم میں صرف صوفیائے کرام کے قلوب ایسے تھے جن کو سکون اور طمانیت مینہ تھی، دنیا و دولت دنیا کے لئے خون بہا رہی تھی لیکن یہ حضرات اس پر آشوب دنیا اور دنیا پرستوں سے دور اور بہت دور ویران گوشوں میں عبادت الہی میں مشغول تھے، اس وقت جبکہ ملکی سیاست کے شاطر جوع الارض سے مجبور ہو کر نت نئی چالیں چل رہے تھے، یہ اللہ والے گوشہ ہائے قناعت میں مراقب اور ذکر الہی میں اپنے روز و شب گزار رہے تھے، ان کو ان فتنہ سامانیوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ یہ حضرات متاع محبت الہی کو اپنے سینوں سے لگانے پر لقیقت اور معرفت کی راہ پر گامزن تھے، ان حضرات کی فائزیاں اور گوشہ ہائے عزت شکستہ خاطر اور اندر دل مسلمانوں کے لئے اپنی آغوش دایئے ہونے تھے جو یہاں آتا رہ ان کے دامن کم میں آکر آرام و سکون کی سانس لیتا ہے وہ اسباب تھے جن کے باعث ان دو صدیوں میں تصوف نے ترقی کی اور طریقت و معرفت کے متوجہ نظریات ہمارے سامنے آئے، میں تیسری اور چوتھی صدی کے نظریات معرفت، طریقت کو نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اب پانچویں صدی ہجری میں تصوف کے ارتقائی مراحل اور ترقی پذیر نظریات کو

ملاحظہ کیجئے۔

**قرن پنجم**۔ قرن پنجم کے صوفیائے کرام کے سلاسل اور ان کے مختلف طوائف، اپنے اپنے مخصوص نظریات، اعمال و مقامات اور طریق مجاہدہ میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان تمام طوائف اور افراد کو کسی ایک حکم کلی کے تحت نہیں لایا جاسکتا ہے جب اس قرن کے صوفیائے کرام کے اقوال و آثار کا گہری نظر سے جائزہ لیا جاتا ہے اور ایک جماعت کے نظریات کا دوسرے گروہ کے نظریات سے مقابلہ کیا جاتا ہے تو یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ ہر طائفہ کے اپنے مخصوص نظریات ہیں اور ایک خاص طرز مجاہدہ ہے اور ایک مخصوص زودحالی تعلیم ہے بہاں تک کہ بعض طبقات کے مابین افکار و خیالات میں بعد المشرقین بے مثلاً شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شطیبات کے اعتبار سے نہیں بلکہ شوریدگی حال اور مستحق کی بدولت اس وقت کے طوائف صوفیہ سے بالکل الگ تھلگ ہیں وہ دنیا سے کنارہ گیری عزت نشینی اور استغراق عبادت میں کوئی دوسرا گروہ ان کا مماثل اور ہمسر نہیں ہے۔

شیخ الطریقیت حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ قرن پنجم میں رحمت الوجودی نظریہ کے عظیم مبلغ ہیں وہ ایک عارف سر مست ضرور ہیں لیکن اہل دنیا کی صحبت سے نفور نہیں ہیں بلکہ وہ صحبت پسند ہستیوں میں ممتاز ہیں۔ سماع و شوریدگی و حال و وجد کے دلدادہ ہیں اسی صدی کے ایک اور بزرگ بابا طاہر عریاں ہیں وہ سراپا ایک عاشق سوختہ سامان ہیں انہوں نے اپنے شور باطن کو اپنے سراپا سوزر باعیات کے ذریعہ ظاہر کیا ہے، انہوں نے اپنی رباعیات میں تصوف کی اصل دولت، عشق و محبت کو لطیف ترین اور حقیقی پیرائی بیان میں ادا کیا ہے انہوں نے اپنی رباعیات کے دلوں میں آتش شوق کو شعلہ بار بنا دیا ہے قرن پنجم کے ایک اور بزرگ شیخ الطریقیت شیخ احمد غزالی دبر اور حجتہ الاسلام محمد غزالی ہیں، آپ کی کتاب، سوانح، آپ کے شوریدگی حال اور اس کی ترجمان ہے، آپ بابا طاہر عریاں کی طرح شوریدگی و مستی میں محبت سے نفور نہیں ہیں۔

شیخ الطریقیت حضرت ابوالقاسم قشیری صاحب رسالہ القشیریہ کا تعلق بھی اس قرن سے ہے آپ ایک اعتدال پسند پیر طریقیت ہیں حضرت ابوسعید ابوالخیرؓ اور حضرت بابا طاہر عرباں حبسی شوریدگی اور مستی آپ کے اندر نہیں ہے، آپ نے اس راہ میں اعتدال کے راستہ کو اپنایا ہے۔ "رسالہ قشیریہ" میں آپ کے اقوال باطنی تعلیم کے سلسلہ میں آپ کے اس اعتدال سے شاہد ہیں۔

شیخ الطریقیت حضرت علی بن عثمان البجوری الغزنوی رحمۃ اللہ علیہ المعروف "داتا گنج بخش لاہوری" ہیں جن کا تعلق قرن پنجم سے ہے مسک تصوف میں ایک اعتدال پسند بزرگ ہیں، شوریدگی و مستی سے آپ احتراز رکھتے تھے، صوفیہ کرام میں آپ ایک بلند مقام رکھتے ہیں، آپ کی مشہور زمانہ کتاب "کشف المحجوب" تربیت نفس اور اصول و طریقیت میں ایک شیخ کامل کی حیثیت رکھتی ہے۔

حجۃ الاسلام امام محمد غزالیؒ! آپ کی ذات گرامی تشریح اہل ظاہر صوفیؒ کی ہے ہر چند کہ ابتدائے حال میں شوریدگی کے باعث بڑوں آپ دیرانوں میں پھرتے رہے اس کے بعد مزاج میں اعتدال پیدا ہوا، آپ علوم شریعت کے ایک بحر ناپیدا کنار تھے، آپ کی تعلیمات پر فقہانہ رنگ کا غلبہ ہے شوریدگی سے آپ کے افکار کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ "احیائے العلوم" اور "کیمیائے سعادت" میں آپ ایک صوفی سے زیادہ ایک مصلح اور ایک معلم اخلاق کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، آپ نے تصوف کو تہذیب اخلاق اور اتباع سنت احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا مرقع بنا کر پیش کیا ہے۔

شیخ الاسلام احمد نامقی جامی المعروف بہ "زندہ پیل" بھی آواخر قرن پنجم کی ایک بزرگ ہستی اور شیخ الطائفہ ہیں، ان کے یہاں طریقیت سے مراد، گنہگاروں کو گناہوں سے تائب کرانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر استقرار و قیام یعنی محاسبہ ہے اسی طرح اس قرن پنجم میں اور ایسے متعدد اصحاب طریقیت ہیں جن کے یہاں یہ نظری اختلاف

یا انفرادی خصوصیت موجود ہے جب آپ ان حضرات کی مکمل سوانح حیات کا مطالعہ کریں گے یہ فرق آپ پر بخوبی واضح ہو جائے گا۔

اس قرن پنجم میں ارباب طریقت اپنی ذات اور اپنے نظریات تصوف نیز اپنے مریدین کو ان مجادلات و مناظرات اور مذہبی تعصب سے بالکل دور رکھا۔ اس صدی میں اصحاب ظاہر کا ایک شیوہ رفتہ بن گئے تھے البتہ انہوں نے یہ کوشش ضرور کی کہ وہ مسلک تصوف کو جس پر بعض ماخذین نے غیر مذہبی نظریات کا حامل ہونے کی تہمت لگائی ہے، اس تہمت سے بری اور پاک ثابت کریں اور تصوف کو مذہبی رجحانات و نظریات سے قریب ترین نظریہ کی صورت میں پیش کریں جیسا کہ اصل میں وہ ہے چنانچہ اس قرن کے اصحاب قلم صوفیہ نے ایسی کتب کی تصنیف و تالیف کی طرف توجہ کی جس میں ہر ایک عرفانی موضوع یا اصل طریقت کو محض قرآنی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسناد سے شریعت کے جن مطابقت ثابت کیا اس طرح ان حضرات نے بعض ماخذین تصوف کے اس اعتراض کو باطل کر دیا۔ کہ تصوف کا مبنی اور ماخذ حکمت اشراق فلسفہ نوافلاطون اور بدانت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کی یہ ساعی بڑی ہر محل اور بروقت تھیں ورنہ آئندہ قرون میں تصوف پر ایسے اعتراضات کا ایک فتر مرتب ہو جاتا، اور ابن جوزی کہ تلبیس ابلیس نامی جیسی نامعلوم کنفی تنقیدیں اس مسلک پر کی جاتیں اور اس کو غیر اسلامی ثابت کرنے کی کوششیں جاری رہیں۔ اس قرن میں تصوف کے اصولی مسائل یا نظریات میں کوئی ابداع! طرح نو کا فرما نظر نہیں آتی لیکن تنوع ضرور پیدا ہوا اور رسائل عرفان و طریقت میں جیسا کہ پہلے عرض کیا جا

۱۰ : ملاحظہ کیجئے، علیہ الاویار از محدث و صوفی ابو نعیم مسغانی بجا مجلد، رسالہ قشیریہ از شیخ ابو القاسم قشیری، کشف المحجوب از حضرت داتا گنج بخش، حالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر، اسرار التوحید سوانح حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر، مونات الاحیان از فلکان، اخبار الاخیار از حضرت محدث دہلوی نغیات الانس از حضرت جامی؟۔

چکا ہے۔ بڑی پختگی پیدا ہو گئی اور ایسی پختگی اور استحکام کہ انقلابات زمانہ اس کو اپنے نصب العین سے سرموبہ نہ ہٹا سکے اور قرونِ مابعد میں بزرگانِ طریقت کے روحانی اعمال و اشتغال نے اس میں مزید استحکام پیدا کر دیا۔

قرنِ پنجم میں تصوف کے موضوع پر ایک نکتہ اور قابلِ تفریح و تشریح ہے کہ اس قرن میں نظریہ تصوف نے شعر میں نفوذ پیدا کر لیا، قرنِ پنجم کو شاعری پر نظر ڈالئے یہ نفوذ آپ کو بھرپور طریقے پر کار فرما نظر آئے گا اور یہ اثر اتنا بڑھا کہ قرونِ مابعد میں شاذ و نادر ہی کوئی ایسا شاعر ہو گا جس کی شاعری، مضامین عرفان و معرفت سے خالی ہو یہ نفوذ کسی ایک زبان کی شاعری سے منحصر نہیں ہے بلکہ عربی و فارسی، ترکی یہاں تک کہ اردو زبان میں ہی اس کے بہترین نمونے موجود ہیں ہر چند کہ اردو شاعری گیارہویں صدی ہجری کی پیداوار ہے اور اس کا تعلق صرف برصغیر پاک و ہند سے ہے۔

پانچویں صدی ہجری اور اس کے بعد کی صدیوں میں جبکہ تصوف شاعری میں نفوذ کر چکا تھا، فارسی شعرا میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا کہ انہوں نے قرنِ چہارم کی مصطلحات بلکہ صرفیانا نہ زبان کو بعینہ اپنی شاعری میں جگہ دی لیکن یہ فرق ضرور پیدا ہوا کہ اب یہ الفاظ اور مصطلحات جو محض مجازی تخیل اور استعارات و کنایات کے دوسرے پہلو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے تھے ان میں مزاج پہنچ گئے کہ ایسے اشعار کا سمجھنا عوام کے فہم سے خارج چیز بن کر رہ گیا، ان اشعار کو اس وقت تک نہیں سمجھا جاسکتا جب تک تصوف کے اقوال و مقامات سے آگاہی نہ ہو

وحدت الوجود کے مسائل اور مصطلحات نے ہی عربی اور فارسی میں استقدر نفوذ کیا کہ ان دونوں زبانوں کی شاعری میں اس کے اثرات نمایاں نظر آنے لگے، اردو شاعری

میں بھی ان مضامین کو اور مصطلحات کو فارسی شاعری کی تقلید میں جگہ مل گئی۔  
اس بحث کو ختم کرتے ہوئے ایک نکتہ کی طرف بحث کی توجہ اور مبذول کراؤں گا کہ  
قرن پنجم کے صوفیائے کرام، بحیثیت مجموعی ہفتادو ملت کے تنازعات و مجادلات سے بالکل  
انگ تھگ ہے، وہ صرف اپنے نظریات کی تکمیل یعنی حبابی، ذکراہی اور خدمت خلق ہی میں  
مصروف رہے اسی وجہ سے وہ سلاطین زمانہ، امراء و اعیان اور عوام و خواص کی نظر میں مورد  
احترام اور مستحق تائش سمجھے جاتے رہے! سلاطین زمانہ ان کا احترام اس طرح بجالاتے کہ امراء  
و اعیان سلطنت حیران رہ جاتے، کتب تاریخ تصوف اور تاریخ ملوکیت و سیاست میں متعدد  
ایسی حکایات اور احترام کے واقعات موجود ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات کی پاکیزہ  
زندگی سلاطین زمانہ اور امراء عظام کی نظر میں کس قدر مورد احترام و اکرام رہی ہے مثلاً سلطان  
عمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہو " کے سفر میں شیخ طریقت شیخ ابوالحسن خرقانی کی خانقاہ میں  
حاضر ہونا اور شیخ سے طالب دعا ہونا، بے سلطان طغرل سلجوقی کا بابا باطاہریاں سے ہمدان  
میں ملاقات کرنا اور طالب نصائح ہونا۔ اس قبیل کے متعدد واقعات، کتب تاریخ میں منضبط  
ہیں یہاں ان کی تفصیل میں نہیں جاسکتا۔ صرف اتنا عرض کروں گا کہ ان حضرات کی مثالی  
زندگی نے سلاطین و اعیان سلطنت کو ان کی طرف متوجہ کیا خود ان حضرات نے ان کے تقرب کی  
کبھی خواہش نہیں کی جبکہ علمائے کرام ہمیشہ اس تقرب کے خواہاں رہے، چونکہ صوفیائے کرام زہد و  
تواضع اور دنیا سے ہے خلوت کے عالم میں زندگی بسر کرتے تھے اس لئے ان کو اس تقرب کی ضرورت  
نہیں تھی دوسرے یہ کہ یہ حضرات دوسرے فرقوں سے بحث و جدل میں کبھی نہیں پڑے ان کا  
مسک تمام فرقوں کے ساتھ صلح اور صفا، کا تھا ایک دوسرے کی بدگوئی و تفسیق و تکفیر سے یہ  
ہمیشہ محترز رہے اور نہ انہوں نے حکومت وقت کے خلاف سازش یا علم بغاوت بلند کرتے  
ہیں کبھی تعاون کیا جس کے ہر وقت مواقع موجود رہتے تھے، ان حضرات کو مراقبہ اور یاد الہی  
کے سوا ان پوج اور پوج کاموں کے لئے نہ فرصت تھی اور نہ ضرورت!

قرن پنجم کے ایسے باکمال عرفا اور صلحاء میں یہ حضرات بہت بلند اور نمایاں مقام رکھتے ہیں، ہر چند کہ ان میں سے بعض حضرات کا ذکر میں مختلف نظریات تصوف کے ضمن میں مختصراً کر چکا ہوں لیکن یہاں اس عنوان کے تحت ان کا ذکر کا اعادہ ہو جائے گا تاکہ سررشتہ سخن ہاتھ سے نہ جائے :

قرن پنجم کے تحت جن صوفیائے کرام کا ذکر کیا جا رہا ہے ان میں سے بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے قرن پنجم میں صرف چند سال حیات مستعار کے گزارے، بعض ایسے حضرات ہیں کہ قرن پنجم کے آخری سالوں میں ان کی ولادت ہوئی لیکن ان کی تربیت قرن ششم میں ہوئی لیکن چونکہ انہوں نے قرن پنجم کو پایا ہے اس لئے ان کا شمار بھی قرن پنجم میں بھی کیا ہے۔ چنانچہ شیخ الطریقیت حضرت ابوعلی دقاق رضی اللہ عنہ نے ۴۰۵ھ میں وصال فرمایا لیکن آپ کو پانچویں صدی ہجری کے صوفیائے کرام ہی میں منسوب کیا جاتا ہے۔

حضرت شیخ ابوعلی دقاق قدس سرہ العزیز، شیخ طریقیت اساذ ابو القاسم قشیری صاحب رسالہ قشیریہ، شیخ طریقیت اور ان کے استاد ہیں۔ استاد ابو القاسم قشیری رضی اللہ علیہ کو ان کی دامادی کا شرف بھی حاصل ہے!

شیخ الطریقیت پیر ابو الفضل مرخس قدس اللہ سرہ: آپ قرن پنجم کے مشہور شیخ الطریقیت ہیں، آپ حضرت شیخ ابوسعید ابو الخیر قدس سرہ کے پیر طریقیت ہیں، حضرت ابوسعید ابو الخیر کی تربیت آپ ہی نے فرمائی۔ شیخ الطریقیت نے شہر مرخس میں سکھ میں وصال فرمایا۔ شیخ الطریقیت شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ نیشاپوری صاحب "طبقات الصوفیہ" آپ عارف بزرگ حضرت ابوسعید ابو الخیر قدس سرہ العزیز کے پیر طریقیت ہیں شیخ ابو الفضل مرخس کے وصال کے بعد حضرت ابوسعید ابو الخیر نے آپ سے آگے کتاب فیض کیا۔ جب حضرت ابوسعید ابو الخیر آپ کی خدمت میں منازل عرفاں طے کر چکے تو حضرت عبد الرحمن سلمیٰ نے اپنے دستِ خاص سے آپ کو فرقہ پہنایا اور اجازت قربت مریدان سے نوازا، اس طرح حضرت ابوسعید

ابوالخیر قدس اللہ سرہ کے پیر شیخ بیعت پیر ابو الفضل سرخی رحمۃ اللہ علیہ، اور پیر فرقہ حضرت شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ نیشاپوری ہیں۔ اس سلسلہ میں مزید توضیح بفرع "اسرار التوحید" میں موجود ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ شیخ الطریقیت ابو عبد الرحمن سلمیٰ قدس اللہ سرہ نے ۱۲۱۲ھ میں وصال فرمایا۔

شیخ ابو عبد اللہ داتانی قدس اللہ سرہ۔ آپ شیخ ابوالحسن خرقانی کے معاصرین اور اقران سے ہیں آپ نے ۱۲۱۲ھ میں وصال فرمایا۔

شیخ الطریقیت ابو علی سیاه رُ آپ شیخ ابو علی دقاق کے اقران و معاصرین سے ہیں آپ نے ۱۲۲۳ھ میں وصال فرمایا۔

شیخ الطریقیت شیخ ابوالحسن خرقانی قدس اللہ سرہ۔ آپ اصحاب شکر میں بلند مقام کے حامل ہیں، طریقیت و سلوک میں آپ حضرت بایزید بظامی قدس سرہ کے مدرسہ فکر کے متبعین میں سے ہیں ۱۲۲۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

شیخ ابواسحاق ابراہیم بن شہر بارگازرونی، آپ شیخ ابوالحسن خرقانی کے اقران و اصحاب سے ہیں ۱۲۲۶ھ میں آپ کا سال وفات ہے۔

محدث عظیم حافظ ابو النعمان صفہانی، صاحب احلیۃ الاولیاء، چار ضخیم جلدوں میں، آپ نے ۱۲۳۳ھ میں وصال فرمایا۔

شیخ الطریقیت ابو سعید فضل اللہ بن ابی الخیر قدس اللہ سرہ آپ کی ولادت محرم ۵۵۰ھ میں شہر سرخس میں ہوئی اور شعبان ۶۰۳ھ میں شہر میہنہ میں تراسی سال کی عمر میں وصال فرمایا آپ کے تفصیلی حالات "اسرار التوحید" میں ملاحظہ کیجئے، شیخ الطریقیت شیخ ابو عبد اللہ شیرازی المعروف یہ ابن، باکو یہ و بابا کوہی، آپ کا وصال ۱۲۲۲ھ میں ہوا۔

شیخ الطریقیت شیخ ابوالقاسم گورگانی دیاگرگانی، قدس اللہ سرہ آپ نے ۱۲۵۰ھ میں وصال فرمایا۔ آپ شیخ ابو سعید ابوالخیر کے اصحاب و اقران سے ہیں۔



شیخ بابا طاہر عریاں رحمۃ اللہ علیہ:۔۔۔ طریقت میں آپ کا بلند مقام ہے آپ کو باعزت  
منازل طریقت اور حقایق عرفان کے ترجمان ہیں ۱۲۵ھ میں آپ کا انتقال ہوا، صبح سال وفات  
کاتعین نہیں ہو سکا ہے

شیخ الطریقت اساذ ابوالقاسم قشیری قدس اللہ سرہ آپ کی تصنیف رسالہ قشیریہ تصوف  
کی بلند پایہ کتابوں میں شامل ہے اور مشہور زمانہ ہے آپ کا سال وفات ۱۲۶۵ھ ہے۔

شیخ الطریقت ابوالحسن علی بن عثمان ہجویری الغزنوی قدس اللہ سرہ "کشف المحجوب"  
کے مصنف ہیں فارسی زبان پر تصوف کے موضوع پر پہلی کتاب ہے، آپ شیخ القاسم قشیری  
کے معاصرین سے ہیں آپ نے شہر لاہور میں قریباً ۱۲۸۰ھ میں وصال فرمایا۔

شیخ الطریقت ابوعلی فارمدی قدس اللہ سرہ آپ شیخ الطریقت ابوالقاسم قشیری اور  
شیخ ابوالقاسم گرگانی کے تربیت یافتہ اصحاب میں سے ہیں اور حجۃ الاسلام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ  
کے شیخ طریقت ہیں ۱۲۸۶ھ آپ کا سال وفات ہے۔

شیخ الطریقت خواجہ عبداللہ انصاری ہردوی مولف کتاب طبقات الصوفیہ و منازل السائرین  
آپ کا وصال ۱۲۸۱ھ میں ہوا۔

شیخ الطریقت شیخ ابوبکر نیاج: آپ شیخ احمد غزالی کے استاد طریقت و مرشد ہیں، آپ  
ہی شیخ ابوالقاسم گرگانی کے تربیت یافتہ ہیں، ۱۲۸۶ھ آپ کا سال وصال ہے۔

حجۃ الاسلام شیخ ابو حامد محمد غزالی قدس اللہ سرہ: صاحب، احیاء العلوم، کیمیائے سعادت  
الہیائۃ الفلاسفہ، المنقذ من الضلال، آپ کثیر التصانیف، شیخ طریقت ہیں آپ کا سال ولادت  
۱۲۵۰ھ ہے اور سال وفات ۱۲۰۵ھ ہے، زندگی کا قریب قریب تمام ترقیہ قرن پنجم میں گزرا،  
اس لئے آپ کا شمار قرن پنجم کے صوفیائے کبار میں کیا جاتا ہے۔

حضرت ابوالمجد محمد ودا بن آدم سنائی غزنوی قدس اللہ سرہ: صاحب حدیقہ الحقیقت  
وہر فارسی زبان میں موضوع معرفت پر شاہکار ثنوی ہے، آپ کی پیدائش امام غزالی کی طرح قرن پنجم

کے وسط میں ہوئی اس لئے آپ کا شمار بھی صوفیائے قرن پنجم میں کیا جاتا ہے۔

شیخ الطریق محمد الدین ابوالفتوح احمد غزالی قدس سرہ بھی پانچویں صدی ہجری کے صوفیائے کرام میں شامل ہیں، آپ کی تصنیفات میں "سوانح العشاق"، "الذخیرہ فی العلم البصیرہ" زیادہ مشہور ہیں اور طباعت پذیر ہو چکی ہیں۔ آپ کے مکتوبات بھی ہیں جو... مکاتیب من القضاہ ہمدانی کے نام سے مشہور ہیں، رسالہ غینیا اور تازیانہ سلوک بھی آپ کی تصنیفات سے ہیں لیکن "سوانح العشاق اور الذخیرہ فی العلم البصیرہ" زیادہ مقبول ہیں آپ نے ۱۲۲۰ھ میں انتقال کیا۔

شیخ الاسلام احمد تامقی جامی قدس سرہ المعروف بہ زبیر، پیل بھی قرن پنجم کے مشائخ طریقت میں سے ہیں آپ کی ولادت ۱۲۲۱ھ میں ہوئی قرن پنجم کے اواخر میں آپ نے تمام مراحل طریقت و سلوک طے کر لئے تھے، آپ پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا غلبہ تھا... اس لئے لوگوں کے احتساب میں پیش پیش رہتے تھے۔

یہ تھے قرن پنجم کے شاہراہ باب سلوک اصحاب طریقت، مذکورہ اصحاب طریقت و مشائخ کرام علاوہ بھی اس صدی میں دوسرے اصحاب طریقت گزرے ہیں، یہاں صرف مشاہیر کا ذکر کیا گیا ہے، تمامی حضرات کا ذکر اس مختصر مقدمہ میں ممکن نہیں تھا۔ آپ نے یہ بات مطالعہ کی ہوگی کہ اس قرن پنجم میں مشائخ کرام کی توجہ تصنیف و تالیف کی طرف زیادہ ہے، تصوف کی بہترین اور بلند پایہ کتب جتنی اس صدی میں تصنیف کی گئیں قرون مابعد میں تصنیف نہیں ہوئیں، جیسا کہ سابقہ اور ماضی میں عرض کر چکا ہوں "تصوف" کے اصول و مبانی میں قرن پنجم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی جبکہ تصنیف و تالیف کی طرف زیادہ توجہ رہی، تصنیف و تالیف میں زیادہ تر شرف اصحاب صوفیاء کو رہا، ہر ایک شیخ طریقت نے قلم نہیں اٹھایا، حضرت شیخ الطریق ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ نے ابتداء سے حال میں قلم اٹھایا تھا اور اپنی بعض تصانیف کے سلسلہ میں پیش نظر رکھی تھیں لیکن ایک روز عالم شروستی میں اپنے مسودے امدان تمام قلمی کتابوں کو جو آپ کے پاس تھیں زمین میں دفن کر دیا، دفن کرنے وقت آپ ان کتب کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے جاتے تھے:-

نعم الدليل انت والاشتغال بالدليل بعد الوصول محال  
بے شک خدا شناسی کہ تم ایک ایسی دلیل ہو لیکن وصل الی اللہ کے بعد تم میں مشغول ہونا ایک  
امر محال ہے۔

حضرت ابوسعید ابوالخیر نے یہی سبب ہے کہ آپ کی یادگار کوئی تصنیف نہیں ہے  
کوئی تصنیف یادگار نہیں چھوڑی۔ آپ کی ذات سے منسوب جو یہ دو کتابیں ہیں یعنی  
"سخنان ابوسعید ابوالخیر اور اسرار التوحید" یہ آپ کے ملفوظات اور آپ کی سوانح حیات  
ہیں، اس سلسلہ میں مزید وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مقدمہ ان ہی دو کتابوں کا  
ایک تحقیقی جائزہ ہے۔

## اسرار التوحید

دوسری صدی ہجری سے پانچویں صدی ہجری کے اواخر تک تصوف کی نظریاتی  
تاریخ اور ہر قرن میں اس نظریہ کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیاں اور ان کے حضرات و  
متقیات آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کر دیئے ہیں تاکہ جب آپ پانچویں صدی ہجری  
کے مشہور شیخ طریقت حضرت ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ العزیز کی مفصل اور مدلل سوانح حیات  
اسرار التوحید کا مطالعہ کریں تو دوران مطالعہ پیش آنے والے اوقات تصوف، مختلف نظریات  
اور ہر عصر و قرن کی خصوصیات پر آپ کی پوری پوری نظر ہو اور آپ اس سہ صد سالہ دور  
کی ادبی، علمی اور فکری تاریخ کے علاوہ سیاسی تاریخ سے بھی واقف ہوں۔

چونکہ اسرار التوحید میں شیخ الطریقت خواجہ ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ سرہ کی زندگی  
اور باطنی احوال کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور یہ کتاب آپ کو وفات کے قریب  
ایک سو سال بعد مرتب ہوئی ہے اور مرتب و مولف اس خاندان کا ایک فرد ہے اپنے بزرگوں  
کی زبانی جو کچھ شیخ الطریقت کے بارے میں سنا اس پر یقین نہ کرنے کی بظاہر کوئی وجہ نہیں،

اس لئے ان روایات کو پورے وثوق کے ساتھ کتاب کے مندرجات میں شامل کر لیا گیا۔  
اس لئے میں حضرت شیخ قدس اللہ سرہ کی سوانح حیات کے سلسلہ میں کچھ بھی عرض نہیں کروں گا کہ اسرار التوحید اس سلسلہ میں سند کا درجہ رکھتی ہے البتہ بعض روایات کے سلسلہ میں کچھ کہنے کی ہیں نے جسارت کی ہے علاوہ ازیں، شیخ قدس اللہ سرہ کے سلسلہ میں لکھی جانے والی دونوں مشہور کتابوں کا آپ سے تعارف بھی کر رہا ہوں یعنی حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیرؒ اور اسرار التوحید جس کا ترجمہ میرے فاضل دوست پیرزادہ اقبال احمد فاروقی صاحب نے بڑی خوبی سے کیا ہے، عبارت کی روانی و دل نشینی کی خوبی کہیں ضائع نہیں ہونے دی ہے اور ان ہی کی فرمائش پر اس بارے میں شمس بریلوی نے یہ مقدمہ تحریر کیا ہے جو آپ کے سامنے ہے باوجود علالت کے مجھے محترمی فاروقی صاحب کے ارشاد کی تعمیل کرنا پڑی کہ

خیال خاطر اجاب چاہئے بر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آگینوں کو  
اب میں حضرت ابوسعید ابوالخیرؒ کی ان دونوں بلند پایہ سوانح عمریوں کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا تالیف کے اعتبار سے چونکہ..... حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیرؒ کو اولیت حاصل ہے اس لئے میں نے بھی اس تقدم زمانی کو پیش نظر رکھا ہے۔  
حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیرؒ: جیسا کہ میں اس سے قبل عرض کر چکا ہوں حضرت ابوسعید ابوالخیرؒ قدس اللہ سرہ نے تصنیف و تالیف پر قلم نہیں اٹھایا بلکہ آپ کے حالات اور سوانح آپ کے طریقہ تصوف پر یہ دو کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ دونوں کتابیں چھٹی صدی ہجری میں تصنیف ہوئی ہیں یعنی آپ کے وصال سے تقریباً ایک سو سال بعد، حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیرؒ کے مولف کمال الدین محمد بن ابی روح لطف اللہ بن ابی سعید ہیں جو شیخ قدس اللہ سرہ کے قریبی اصفاء و بزرگان سے ہیں، یہ کتاب ایک مقدمہ اور پانچ ابواب پر مشتمل ہے، ان ابواب کی تفصیل اس طرح ہے :-

باب اول: حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیرؒ کی ابتدائی زندگی اور اس کے سوانح :-

باب دوم: حضرت شیخ قدس اللہ سرہ کی ریاضیات اور ان کا قنوع اور کیفیت:-

باب سوم:- حضرت شیخ قدس اللہ سرہ کی کرامات:-

باب چہارم:- حضرت شیخ کے ارشادات گرامی اور ان کی گراں مانگی اور افادیت:-

باب پنجم:- حضرت شیخ قدس سرہ کے وصایا اور آپ کی وفات:-

یہ کتاب معمولی ضخامت کی ہے، یہ روسی مشرق زدوں کی کے اہتمام سے ۱۳۰۵ھ مطابق

۱۸۹۱ء میں پیرزیرگ سے شائع ہوئی، اس کے متن کی تصحیح پر خاص توجہ کی گئی ہے۔ فارسی

زبان میں کسی شیخ طریقت کی قدیم ترین سوانح حیات ہے، اس کتاب کی تاریخی اہمیت کے علاوہ

ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ قدیم سادہ نثر فارسی کی محدود سے چند کتابوں میں سے ایک

بند پایہ کتاب ہے غالباً اب تک اس کا اردو ترجمہ شائع نہیں ہوا ہے۔

اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید:- یہ کتاب عموماً اسرار التوحید کے نام سے مشہور

ہے، شیخ محمد منور بن ابی سعید بن ابی طاہر بن ابی سعید ابو الخیر کی تالیف ہے۔ اس کی تالیف

۵۸۰ھ میں ہوئی یعنی حالات و سخنان ابوسعید ابو الخیر کی تالیف کے چند سال بعد اس کو مرتب

کیا گیا! اس کے مولف ہی شیخ ابوسعید کے اصفاذ نمبرگان (پڑ پوتے) سے ہیں اور حالات و

سخنان ابوسعید ابو الخیر کے مولف شیخ محمد بن منور کے اعمام کی اولاد سے ہیں۔

کتاب اسرار التوحید، شیخ طریقت ابوسعید ابو الخیر کی ایک مفصل اور جامع سوانحی ہے

اور اس کی یہ خصوصیت قابل ذکر ہے کہ حالات و سخنان ابوسعید ابو الخیر کے بعد صرف یہی ایک

جامع سوانح حیات ہے جو فارسی زبان میں لکھی گئی ہے، اس کتاب کو بھی روسی مشرق زدوں نے

تصحیح کے بعد ۱۸۹۹ء مطابق ۱۳۱۷ھ میں پیرزیرگ سے شائع کیا ہے اور آٹانے بہن یار نے

اس پر ایک مفید مقدمہ لکھ کر تحقیق کا حق ادا کیا ہے، آٹانے بہن یار نے اس پر حواشی بھی تحریر

کئے ہیں، آٹانے بہن یار کے مقدمہ اور تصحیح کے ساتھ اسرار التوحید تہران سے شائع ہوئی ہے پڑ

ترجمہ علامہ اقبال احمد فاروقی صاحب مکتبہ نبویہ لاہور! کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ ترجمہ نہایت سلیقہ

اور شگفتہ ہے اور اردو زبان کے تمام محاسن کا حامل ہے۔

کتاب اسرار التوحید میں ابواب اور چند فصول پر مشتمل ہے جس کی تفصیل یہ ہے۔

باب اول :- حضرت شیخ الطریقیت کے ابتدائی حالات پر مشتمل ہے۔

باب دوم :- حضرت شیخ کی اواسط حیات کے ذائق اور حالات ابواب چار فصلوں پر مخصوص ہے۔

فصل اول میں شیخ کی کرامات اور آپ سے منسوب حکایات ہیں۔

فصل دوم میں وہ حکایات ہیں جن سے حکمت و معرفت کے فوائد متبذ ہوتے ہیں

فصل سوم میں حضرت شیخ قدس اللہ سرہ کے ارشادات و ملفوظات پر مشتمل ہے۔

فصل چہارم شیخ کے ارشادات کی اہمیت اور ان کلمات و ارشادات کی رفعت و ان ارشادات کے بعد شیخ کے دعاوی، مکتوبات اور شیخ کے اشعار ہیں۔

باب سوم :- شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ سرہ کے ظاہری زمانہ حیات کے ذائق ابواب بھی تین فصلوں پر مشتمل ہے۔

فصل اول میں آپ کے وصایا ہیں۔

فصل دوم میں شیخ طریقیت کی وفات محل سالہ ہے۔

فصل سوم شیخ طریقیت کی وفات کے بعد آپ کی کرامات پر مشتمل ہے۔

کتاب اسرار التوحید اپنی تاریخی اہمیت کے علاوہ ایک شیخ طریقیت کی فارسی زبان میں پہلی سوانح عمری ہے جو اس قدر تفصیل سے لکھی گئی ہے اس سوانح حیات میں شیخ سے متعدد معاصرین کا بھی مختصراً ذکر ہے جس کے باعث اس کی تاریخی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔

اسرار التوحید بہت سی مفید جغرافیائی معلومات پر بھی مشتمل ہے۔ علاوہ انہیں پانچویں صدی ہجری

کی اجتماعی زندگی پر ہی اس سے روشنی پڑتی ہے، یہ تالیف ہی اپنے طرز بیان و زبان کی شیرینی اور سادگی کے باعث قدیم نثر فارسی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔

اس میں شک نہیں کہ "اسرار التوحید" کے طرز پر پانچویں صدی ہجری تک کسی شیخ طریقت کے سوانح حیات معرض تحریر میں نہیں آئے تھے یہ دونوں کتابیں سوانح شیخ ابوسعید ابوالخیرؒ جو یکے بعد دیگرے تالیف ہوئیں اس انفرادیت کی حامل ہیں لیکن "اسرار التوحید" اپنی جامعیت کے اعتبار سے اول الذکر کتاب سے زیادہ بلند پایہ اور اہمیت کی حامل ہے۔

مشائخ طریقت کے سلسلہ میں عقیدت مندوں کا ہمیشہ سے دستور

مشائخ کی کرامات رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے شیخ کی نسبت ایسی حکایات اور روایات کو بھی قبول کر لیتے ہیں جس سے شیخ کی عظمت میں اضافہ کے بجائے اس کے منصب شوخیت پر حرف آتا ہے۔ اور جب ایسی حکایات اور روایات کی کسی کتاب میں کثرت ہو جاتی ہے تو وہ پایہ اعتبار سے گر جاتی ہے۔ "اسرار التوحید" میں ایسی متعدد حکایات موجود ہیں لیکن کم ہیں۔ ان میں بعض حکایات ایسی ہیں جو شیخ الطریقت کے ارفع و اعلیٰ مقام کے منافی ہیں مثلاً یہ حکایت جس کو "محمد بن مند" مولف کتاب "اسرار التوحید" نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

الحکایت: ہم درآں وقت شیخ "مادر" قاین بود، امے بود دیگر در آسخت بزرگوار اور امام خواجہ محمد قاینی گفتندے، چون شیخ ما آنجا رسید و بنزدیک شیخ آمد بہ سلام... بیشتر اوقات در خدمت شیخ بودے و بہر دعوتے کہ شیخ لا برودندے او بوافقت شیخ حاضر آمدے و بسماع نشے بروزے بعد از دعوت سماع می کردند، شیخ مارا حالتے پدید آمدہ بود و جملہ جمع درآں حالت بودند کہ وقت غوش پدید آمد، موزن بانگ نمازہ پیش گفت و شیخ ہچناں در حال بود و جمع در وجد و رقص می کردند بانعرہ می زدند در میان آن حالت امام محمد قاینی گفت، نماز ما شیخ ما گفت کہ مادر نمازیم و ہچناں در رقص بودند، امام محمد قاینی ایشاں را گذاشت وہ

مازہ فاضلہ، اسرار التوحید باب تہران صفحہ نمبر ۱۱۸۶

حیرت ہے کہ صاحب "اسرار التوحید" نے یہ روایت بغیر غور و فکر کے اسرار التوحید میں درج کر دی جبکہ شیخ طریقت ابوسعید ابوالخیر علوم دینیہ اور احکام شریعت کے پاسدار بھی تھے، وہ کس طرح اس وجد و رقص اور سماع کو "نماز" سے تعبیر کر سکتے تھے اور وہ یہ فرماتے کہ "ہماری نماز یہی ہے۔"

اس قبیل کی حکایات جب بزرگانِ طریقت سے منسوب کی گئیں تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ معاندین و مخالفین، تصوف کو بہت کچھ کہنے کا موقع مل گیا۔ ابن حمزہ کی "تلبیس ابلیس" ایسی ہے حکایات کو بزرگانِ طریقت سے منسوب کرنے کے نتیجہ میں موخذا نہ انداز میں لکھی گئی۔ عصر حاضر میں، تاریخ تصوف اسلام کے مولف میرے خواہر زادے پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے اپنی کتاب میں شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ سرہ سے منسوب ایسی ہی لہجہ اور غیر مصدقہ روایات کا سہارا لے کر تنقید کی ہے۔ حضرت شیخ قدس اللہ سرہ کی دوسری سوانح عمری "حالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر" میں بھی بعض ایسی ہی غیر مصدقہ روایات کو شیخ الطریقت سے منسوب کیا گیا ہے مثلاً وہ ایک مستند حوالہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ :-

از جدم شیخ الاسلام ابوسعید راشنیدم کہ یک روز شیخ راسخن می رفت دانشمندے فاضل حاضر بود، آہستہ گفت کہ این سخن کہ شیخ گفت در ہفت سبع قرآن پہنچ جائے نسبت، شیخ گفت این سخن در سبع ہشتم است :- آں دانشمند گفت سبع ہشتم کدام است؟ گفت این ہفت سبع آنت کہ یا ایہما الرسول بلغ ما أنزل إلیک؛ و سبع ہشتم آنت کہ فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدہ مَا اَوْحٰی۔ تھانیدار یہ کہ سخن خدائے تعالیٰ معدود و محدود است، آں در حصر و عدد متناہد و منقطع نہ گرد و ہر لحظہ از سبے رسوے بدل بندگاں می ماند چنانکہ پیغمبر علیہ السلام خبر داد، اتقوا فراسد المؤمن فانه لا یبصر الا بؤر اللہ



پس گفت مرا تو راحت جانی معائنہ، نہ خیر کرا معائنہ باید، خیرچہ سو دکنڈہ

(حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر باب ۲۵، صفحہ ۵)

یہ حضرات سمجھتے ہیں کہ ایسی حکایات کسی شیخ سے منسوب کر دینے سے شیخ کے مرتبہ میں اضافہ ہوگا اور لوگ اس کو شیخ کامل سمجھنے لگیں گے جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ خواص اور ارباب علم و فہم میں اس سے سونہن پیدا ہوتا ہے، پس ایسی حکایات کو شیخ الطریقیت سے منسوب کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔

ہر چند کہ شیخ الطریقیت حضرت ابوسعید ابوالخیر کامسک، وحدت الوجود ہے جیسا کہ اس سے قبل صراحت کی جا چکی ہے، اُن کے متعدد ارشادات اور ملفوظات سے اس کا بخوبی اظہار ہوتا ہے حضرت شیخ کا اس سلسلہ میں صرف ایک ارشاد یہاں نقل کرتا ہوں فرماتے ہیں۔

چند گاہ ایں بود کہ حق رامی جستم، گلے بودے کہ یافتے دگاہ بودے کہ نیافتے،  
اکنوں چناں شدم کہ ہر چند خود رامی جویم فی یایم، ہمہ او شدم زبرا کہ ہمہ اوست؛

(اسرار التوحید صفحہ ۲۵، باب تہران)

حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ سرہ کے ارشادات و ملفوظات کے سلسلہ میں، صاحب مقدمہ اسرار التوحید نے بہت کچھ لکھا ہے جس کا ترجمہ قارئین کرام مطالعہ فرمائیں گے، میرا یہ مقدمہ چونکہ بہت طویل ہو چکا ہے لہذا میں اس سلسلہ میں مزید کچھ عرض نہیں کروں گا، صرف ایک نکتہ ابھی اور پیش کرنا ہے اور وہ ہے شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ سرہ کی شاعری۔ عام طور پر آپ کو ایک نغز گو معرفت طراز شاعر سمجھا جاتا ہے، اس پر صغیر پاک و ہند میں شیخ ابوسعید ابوالخیر کی شہرت کا طنطنہ گونجنا رہا۔ اور عرصہ تک پنجاب یونیورسٹی کے امتحان منشی فاضل میں یہ مجموعہ رباعیات داخل درس ہوا لیکن تحقیق کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ رباعیات شیخ الطریقیت کی نہیں ہیں بلکہ جب آپ وابستگان طریقیت سے مصروف گفتگو ہوتے تو اثنائے کلام میں آپ وضاحت سخن یا زور کلام پیدا کرنے کے لئے اپنے بزرگان طریقیت سے سنا ہوا۔

دوسرے بزرگوں کا کلام پیش فرمادیتے تھے، آپ کے ملفوظات کا اظہار کرنے والے حضرات یا بعد میں اس کلام کا مطالعہ کرنے والے اصحاب حال وازباب طریقت لے اس کو آپ کی ذات گرامی سے منسوب کر دیا حالانکہ سوانح نگار حضرات نے اس خصوص میں وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ حضرت ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ سرہ شکرگوئی سے شنف نہیں رکھتے تھے، صارہ اسرار التوحید لکھتے ہیں کہ

”دیویشے بودہ است در نیشاپور کہ اورا، حمزۃ التراب“ گفتہ سے روزے از تواضع کہ در او بود شیخ مارا، قعہ نوشت، بر سر رقعہ تواضع و نوشت کہ، خاک تراب قدم شیخ ما بر ظہر رقعہ بہ نوشت، گرتو خاکی، خاک ترا، خاک شدم چون خاک ترا خاک شدم پان شدم، اسی سلسلہ میں صاحب اسرار التوحید کہتے ہیں کہ:-

”جدید عاگوئے خواجه ابوسعید آور وہ اند کہ جماعتے گمان بر مذ کہ بیت ہائے در میان سخن بزرگان مبارک شیخ رفته است، او کفہ است نہ چنان بہت کہ اورا چنداں ستغراق در حالت شاہدہ حتی پوشے نہ ویز پرانے تفسیر در بیت نمود در ہمہ عمر الامایں یک بیت کہ بر پشت قعہ حمزہ نوشتہ است“  
”ایں دیوہ در بیت (رباعی)“

جاں! بزین خابراں خائے نیت کش با من در روز کار من کاے نیت  
بالطف و نوازش و خیال تو... مرا در دادن صد ہزار جاں عارے نیت  
دگر ہرچہ بزبان اور رفته است، ہمہ آں بودہ است کہ از پیران خویش یاد داشتہ است؟  
اسرار التوحید چاپ تہران صفحہ ۱۶۷-۱۶۶

یہاں میں شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ سرہ کی ذات گرامی سے منسوب چند رباعیات کو پیش کر رہا ہوں حالانکہ یہ آپ کا کلام نہیں ہے بلکہ اثنائے کلام اذیقین و مواعظت کے

دقت آپ اپنے مشائخ سے سُنا ہوا یہ کلام، ملفوظات میں شامل فرمادیا کرتے تھے تاکہ ان  
میں زور و شور اور سوز و ساز پیدا ہو جائے!

### چند رباعیات

مارا بجز ایں جہاں، جہانے دگر بہت  
قلاشی دعا فقیش، سرمایہ ماست  
جز دوزخ، فردوس، مکانے دگر بہت  
قرآنی و زاہدی، جہادے دگر بہت

موراہ یگانگی نہ کفرست و نہ دیں  
اے جانِ جہاں تو راہِ اسلام... گزریں  
یک گام ز خد بردوں ہنہ و راہ یہ بن  
بامارسیہ بہ نشین و با خود... بہ نشین

خواہی کہ کسے شوی، زستی کم کُن  
بازلف بُتاں و راز دستی کم کُن  
نا خوردہ شرابِ وصل، مستی کم کُن  
بُتِ راجہ گنہ، توبت پرستی کم کُن

اے دوست ترا بھلگی گشتم بن  
گر تو ز وجودِ خود، بُروں جُستی چاک  
حقاکہ دریں سخن نہ زرق است نہ فن  
شاید صنما! بجائے تو، ہستم... من


حضرت ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ سرہ سے ایک رباعی اور منسوب ہے، بعض ارباب  
سلوک و اصحاب طریقت نے اس کی شرحیں بھی تحریر کی ہیں۔  
رباعی یہ ہے :-

حور بنظارہ نگارم صف زد  
یک خالی سیدہ برآںِ رضانِ مطرف زد  
رضوان ز تعجب کف خود بر کف زد  
ابدال ز بیم چنگ در مصوف زد

حضرت شیخ الطریقیت جہانگیر اثرت سمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گرانقدر ملفوظات موسوم  
بر لطائف اثرتنی میں اس کے معانی بسط و تفصیل تفصیل کے ساتھ تحریر فرمائے ہیں، میری نظر  
سے وہ تفصیل گزر چکی ہے۔ خواجہ عبید اللہ بن محمود شاتہی متوفی ۸۹۵ھ نے بھی اس رباعی  
کی شرح لکھی ہے اور بہت تفصیل سے اس رباعی کی شرح کو انہوں نے ایک رسالہ کی صورت  
میں مرتب کیا ہے اور اس رسالہ کا نام، رسالہ مورلیہ، رکھا ہے لیکن جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے تمام  
کلام شیخ الطریقیت سے منسوب کر لیا گیا ہے اور یہ آپ کا طبع زاد کلام نہیں ہے۔۔۔۔۔  
"کتاب اسرار التوحید" کے ابواب اور فصول کی تشریح گذشتہ ادراک میں پیش کر چکا ہوں  
ان ابواب اور فصول کے مطالعہ سے شیخ الطریقیت کے سوانح احوال، آپ کی ریاضت اور آپ  
کے مقام کے سلسلہ میں تمام تر معلومات سے آپ بہرہ ور ہو سکتے ہیں، میں نے اس سلسلہ میں  
قلم نہیں اٹھایا ہے بلکہ۔۔۔۔۔ شیخ کے مسک تصوف کو قرن دوم سے قرن پنجم ہجری تک پیش  
کر دیا ہے اور اس تین سو سالہ دور میں اس نظریہ میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں ان کی وضاحت  
کر دی ہے اور حضرت شیخ الطریقیت کے معاصرین اور اس عصر تک ظہور میں آنے والے  
طوائف الصوفیہ، کا ذکر کیا ہے بعد کہ یہ مقدمہ قارئین کی دلچسپی اور معلومات میں اضافہ کا  
موجب ہو گا۔ فقط۔۔

ناچینز  
شمس بریلوی

۶۱ بی / ۱۱  
نیڈرل بی ایریا۔ کراچی



# اسرار التوحید سے مقامات صوفیاء تک

پیرزادہ اقبال احمد فاروقی ایم اے

یہ کتاب ایضاً ابو سعید فضل اللہ بن ابی النخیر المعروف بہ ابو سعید طینی نور اللہ مرقدہ و قدس سرہ  
المحرم ۱۳۵۷ھ شعبان ۱۳۳۰ھ کے احوال و مقامات پر ایک قدیم دستاویز ہے جسے شیخ کے نواسے  
محمد بن منور بن ابی سعد بن ابی طاہر بن ابی سعید طینی نے شیخ کی وفات کے ایک سو تیس سال (۱۵۷۰ء بعد  
پیر و قلم کیا تھا۔ ایک عرصہ تک یہ کتاب نوکِ قلم اور سویدِ خطی سے مزین ہو کر اہل ذوق کو فروغِ عرفان  
سے نوازتی رہی ہے۔ تصوف کے خانوادوں کے کتاب خانے اس کتاب کے مختلف قلمی نسخوں کے امین  
رہے ہیں۔ اور اہل تصوف نے اپنی نگارشات میں اس کتاب کو ایک قابل قدر حوالہ کی حیثیت سے جگہ دی  
ہے۔ ہمارے سامنے فارسی کی مطبوعہ کتاب اسرار التوحید فی مقامات ایضاً ابو سعید کا ایک مستند نسخہ ہے۔  
ڈاکٹر ذبیح اللہ صفار نے اپنے اہتمام میں ترتیب دے کر ۱۹۸۲ء میں تہران۔ ایران سے شائع کیا تھا۔  
اور زیر نظر اردو ترجمہ کی عمارت انہی بنیادوں پر اٹھائی گئی۔

۲۔ ایضاً ابو سعید ابوالخیر المینی رحمۃ اللہ اپنے دور کے بلند پایہ صوفی تھے تصوف کی اکثر کتابوں میں  
آپ کو دنیائے تصوف کے اولین اور متقدمین صوفیاء اسلام میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت خواجہ ابوالحسن  
البخاری الغزنوی رحمۃ اللہ المعروف بہ داتا گنج بخش لاہوری نے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے  
کشف المحجوب میں پورا باب پر قلم کیا ہے۔

شیخ کا دور علم و عرفان کا اسلامی دنیا میں ایک شاندار دور مانا گیا ہے۔ دنیائے اسلام میں جہاں  
مختلف علوم و فنون کی ہمہ جہت ترقی ہوئی وہاں تصوف و عرفان کی، ضیاءِ باریوں نے چاروں طرف عالم  
کو منور کر دیا تھا۔ انہی ایام میں ایک طرف محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں شعراء اور ادبا قصائد  
و مناقب میں بے مثال کارنامے سرانجام دے رہے تھے تو دوسری طرف ایوان تصوف میں

ابوالحسن خرقانی۔ ابوسعید ابوالخیر۔ ابوالقاسم قشیری اور امام احمد غزالی جیسے بلند پایہ صوفیاء علم و عرفان کی شمعیں روشن کئے ہوئے تھے یہ حقیقت ہے کہ محمود غزنوی کے دربار کے بعض علماء فقہانے شیخ ابوسعید اور ان کے حلقہ نشین صوفیاء پر ان کے بعض اختلافی نظریات کی وجہ سے تنقید و تفسیک کی۔ وہاں نیشاپور اور طوس کے جلیل القدر علماء ملکشاہ اور سنجر سلجوقی کے زیر سایہ شیخ کی خانقاہ سے توحید و عرفان کے امور سے آگاہی حاصل کرنے میں مشغول تھے آپ اس روحانی میراث کے تقسیم کار تھے۔ جو بایزید بسطامی سے ہوتی ہوئی ابو عبد اللہ داستانی اور ابوالحسن خرقانی کو پہنچی تھی۔ اسرار التوحید کی اپنی ہی ایک روایت کے مطابق حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ اکثر مسائل تقنوت کی تشریح کے لئے حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر المبینی رحمۃ اللہ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ صاحب چہار مقالہ نے شیخ ابوسعید کی اس ملاقات کا تفصیلی ذکر کیا ہے جو اس دور کے عظیم فلسفی ابو علی سینا سے ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے بعد ابو علی سینا نے اعتراف کیا تھا کہ ہرچہ میں می دانم شیخ می بیند“

صاحب اسرار التوحید نے یہ روایت بھی درج کی ہے کہ ایک بار ابو علی سینا اپنے شاگردوں کو لے کر حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ کی مجلس و عظم میں خاموش بیٹھے ہتھے رہے حضرت شیخ نے ابو علی سینا سے پوچھا کہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ بات کیوں نہیں کرتے۔ نہایت ادب سے جواب دیا۔ ایک مطلب کو بیان کرنے کے لئے دو ترجمانوں کی ضرورت نہیں ہوتی؟

صاحب نور العلوم نے حضرت ابوالحسن خرقانی اور شیخ ابوسعید۔ ابوالخیر کی اس ملاقات کا شہود سے ذکر کیا ہے۔ جس میں شیخ ابوسعید حضرت خرقانی کو ملنے آئے تو آپ نے اپنے صاحبزادہ احمد کو اپنے مریدوں کی جماعت کے ساتھ شیخ کے استقبال کے لئے کئی منازل آگے بھیجا تھا۔

حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے معاصر صوفیاء اور علماء کے برعکس ذکر بالجہر کے ترجمان تھے اور محفل ذکر و سماع کو برپا رکھتے۔ مریدوں کو تلقین سماع فرماتے۔ اور سماع۔ وجد اور رقص کو اس حد تک لازم قرار دیا کرتے تھے کہ بعض اوقات ضروری مشاغل چھوٹ جاتے۔ ابوالحسن

عرفانی اور امام ابراہیم القاسم قشیری کو ابتداء کے کار میں شیخ کے رقص و سماع سے شدید اختلاف تھا مگر ایک وقت آیا کہ دونوں حضرات شیخ کے سماع کو مباح قرار دینے لگے۔ ایک دفعہ حضرت شیخ سے علماء و صوفیاء نے دریافت کیا کہ یہ رقص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ رقص وہ کہے کہ اگر وہ پاؤں زمین پر مارے تو اسے تخت شریٰ تک ہر چیز نظر آجائے۔ اور اگر آستین اٹھائے۔ تو اس کی نگاہ عرش پر پڑے۔ اگر اسے یہ کیفیت حاصل نہیں تو اسے چاہیے کہ بایزید بطامی۔ جنید بغدادی۔ اور شبلی کے چشمہ سے پانی پیئے اور رقص نہ کرے۔ شیخ اپنے احباب کو فرمایا کرتے تھے۔ کہ اگر لوگ پوچھیں کہ تم رقص کیوں کرتے ہو تو انہیں بتا دیجئے کہ ہم تو اپنے پیر و مرشد کی موافقت اور اتباع میں کرتے ہیں۔ حضرت شیخ نے خراسان کے صوفیاء میں رقص و سماع کو رواج دیا۔ اور اس بات کی پرواہ نہ کی۔ کہ فقہاء اور علماء ان کی مخالفت میں کیا کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحسین زرین کوب نے اپنی مشہور تصنیف "جستجو در تصوف ایران" میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ ابوسعید فضل اللہ بن ابی النخیر المعروف بوسعید مہنہ یا پیر مینہہ ادبیات عرفانی میں امامت کا درجہ رکھتے تھے۔ آپ کو ایران کی سرزمین میں بڑی شہرت ملی۔ وہ پہلے صوفی ہیں جنہوں نے سماع۔ قوالی۔ غزل کو خراسان کے صوفیاء میں رواج دیا۔ آپ کے اس اقدام پر علماء و صوفیاء کو اس قدر اختلاف تھا۔ کہ آپ کی شکایت محمود غزنوی کے دربار میں کی گئی۔ دربار سے اتنے شدید احکامات جاری ہوئے کہ آپ کو اور آپ کے درویشوں کو زندیق اور فاسق کہا جانے لگا۔ ابراہیم التوحید کی روایات کی روشنی میں آپ مینہہ روم اور مرخس کے درمیان واقع ہے (چار شعبان ۳۲۰ھ میں فوت ہوئے۔ ہزار ماہ زندگی گزارے۔ اس طرح آپ کی ولادت محرم ۳۵۶ھ کو ہوئی آپ کے والد ابو النخیر مینہہ میں عطاری کا کام کرتے تھے۔ یہ پیر عطار صوفیاء کی مجلس میں شریک ہوتے۔ اپنے بیٹے کو ان پاکیزہ مجالس میں لے جاتے مجالس سماع میں بھی حاضری دیتے۔ اپنی مجالس سماع کا اثر تھا کہ شیخ ابوسعید سماع کے رسیا تھے حضرت شیخ کی ابتدائی تعلیم ابوالقاسم کے بشر یا سین (م ۳۸۰ھ) مکتب میں ہوئی پھر ایک مجدد بلقان مرغسی نے آپ کی طبیعت پر اثرات مرتب کئے آپ

ان دنوں علم حدیث و فقہ کی تفصیل میں مصروف تھے آپ اسی جذبہ کے ساتھ مرو ہیں رہے اور پیر ابو الفضل سرخسی رحمۃ اللہ علیہ سے شناسائی ہوئی۔ جو ابو نصر سراج قدس سرہ کے فیض یافتہ تھے۔ اس طرح حضرت ابو سعید بوعلی نقہیہ سرخسی کے مدرسہ سے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خاتما ابو الفضل میں بھی حاضری دیا کرتے تھے آپ نے ان ایام میں سخت ریاضتیں کیں شب بیداری کی منازل سے گزے اور زہد و عبادت کا یہ دور کئی سالوں پر محیط رہا۔ ایک عرصہ کے بعد آمل میں آکر شیخ ابو العباس قصاب کی صحبت میں رہے۔ اور وہاں سے ہی فرقہ خلافت حاصل کیا۔ اور ریاضت شاقہ سے سوک کی منازل طے کرتے رہے اسی اثنا میں آپ نے حضرت ابو عبد الرحمن سلمی سے بھی فرقہ خلافت حاصل کیا۔ ظاہری علوم و فنون سے کنارہ کش ہو گئے اپنی کتابوں کو زمین میں دفن کر کے اس پر ایک درخت لگا دیا۔ اور اس طرح درویشوں کو کتابی علوم سے ہٹا کر مجاہدہ و ریاضت کی منازل طے کرانے لگے طوس اور نیشاپور میں آپ کی مجالس لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئیں۔ ان مجالس کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ دوسرے صوفیاء کے طریق سے بہت کم مجلس ذکر و سماع میں ذوق و شوق کو فروغ دینے میں مصروف رہے تو ال غزل و اشعار سنانے۔ درویش رقص و وجد کرنے اور حضرت شیخ پر تکلف و عوتوں کا اہتمام کرتے۔ ان مجالس کو جہاں اہل ذوق نے پسند کیا۔ وہاں شہر کے علماء و آئمہ نے ناراضگی کا اظہار کیا خصوصاً علماء احناف و کرامتیہ تو شیخ کی اس روش کو نہایت مکروہ خیال کرتے تھے۔ معتدل صوفیاء بھی جن میں حضرت ابو القاسم امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ پیش پیش تھے۔ شیخ کی مجالس سماع و رقص کو پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے اس شور و احتجاج کے باوجود شیخ نے اپنے اطوار میں ذرہ بھر تبدیلی قبول نہ کی وقت کے ساتھ ساتھ بعض صوفیاء اور علماء شیخ کے ہم نوا ہونے لگے اور عوام الناس بھی حضرت شیخ کی کرامات اور خوش گفتاری سے متاثر ہو کر آپ کے حلقہ ارادت میں آنے لگے۔ ایک وقت آیا کہ نیشاپور۔ طوس۔ مرو اور مینہہ جیسے شہر شیخ اور ان کے مریدوں کی شہرت سے گونج اٹھے۔ آپ کی مجالس سماع کی شہرت فراسان کی سرحدوں سے آگے پھیلتی گئی اور ساتھ ہی آپ کی کرامات اور حکیمانہ گفتگو زبان زد عام ہونے لگی۔ ابو الحسن فرقانی اسی شہرت سے متاثر ہو کر حج کو جاتے جاتے رک گئے شیخ الرئیس بوعلی مینا غزنی سے چل کر نیشاپور پہنچے



شیخ سے ملاقات کی۔ اور واپسی پر سلسلہ خط و کتابت ایک عرصہ تک جاری رہا۔

شیخ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد اور جانشینوں نے آپ کے طریقہ تصوف کو ایک عرصہ تک جاری و ساری رکھا۔ آپ کی کرامات اور مقامات کی تشریحات لکھی گئیں۔ زیر نظر کتاب فی مقامات ابی سعید سرال توحید جسے ہم مقامات صوفیاء کے نام سے اردو میں شائع کر رہے ہیں۔ آپ کے حالات و اقوال پر ایک قریب ترین ماخذ ہے شیخ اشعار اور رباعیات میں شہرت رکھنے کے باوجود کوئی دیوان مرتب نہ کر سکے۔ اور اس قدر حکیمانہ ذہن کے باوجود کوئی نثری تصنیف یا دگار نہ چھوڑ سکے۔ آپ فرمایا کرتے تھے۔ میری کرامات اور احوال کو عام نہ کیا جائے فرماتے "حکایت نویس نہ ہو۔ بلکہ زمانہ کی داستان بنو"۔ حضرت شیخ ابوسعید نے عربی۔ فارسی اشعار سے ہمیشہ اپنی مجالس کو مزین رکھا یہ اشعار متقدمین صوفیاء کا نتیجہ فکر ہوتے یا طبع زاد۔ آپ صوفیانہ رباعیات کے موجد مانے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے زمانے میں رباعیات ابوسعید ابوالخیر کے نام سے ایک مجموعہ شائع ہوا ہے۔ جس میں اکثر دہشتہ اشعار آپ کے علاوہ دوسرے اساتذہ سخن کے بھی جمع کر دیئے گئے ہیں۔ آپ کے اقوال اور واقعات کو ایک دوسری کتاب حالات و سخنان ابوسعید میں دیکھا جاسکتا ہے۔ ان واقعات میں شیخ کی زندہ دلی اور خوش روی مہلکتی ہے۔ ان واقعات میں مجھے پُر لطف اور دل نشین نکتے بیان کئے گئے ہیں۔

شیخ ابوسعید ابوالخیر آپ کے بعد آنے والے صوفیاء کی مدد و اور مرغوب شخصیت رہے ہیں آپ کے اقوال۔ لطائف۔ نکات صوفیاء کی مجالس کی رونق بنے اور آپ کے حکیمانہ اقوال نے کئی صدیوں تک علمی ذہنوں پر اپنا نقش قائم رکھا اور اس دریا سے بہریں جاری ہوتی رہیں اور اس شمع سے چراغ روشن ہوتے رہے۔ حضرت امام ابوالقاسم قشیری دیشیخ کے معاصر حضرت ابوالحسن علی بن عثمان جمہوری الغزنوی لاہوری۔ شیخ احمد غزالی (برادر امام غزالی) شیخ فرید الدین عطار۔ مولانا جلال الدین رومی ضوٰل اللہ علیہم اجمعین جیسے جلیل القدر صوفیاء آپ کی تعلیمات سے متاثر نظر آتے ہیں۔ اور آپ کے اقوال کی مہلکیاں ان بزرگوں کے اقوال و اشعار میں مہلکتی دکھائی دیتی ہیں۔

کتاب سرال توحید فی مقامات ابوسعید کے کئی ایک نسخے ہمارے سامنے آئے انقلاب ایران

کے بعد اسلامی لٹریچر کی از سر نو اشاعت ہونے لگی۔ تو جہاں ہمیں تصوف کی بے پناہ کتابوں سے دیدہ دل  
نومور کرنے کا موقع ملا۔ وہاں یہ کتاب ہمیں ان کتابوں میں ملی جو ہمارے فاضل دوست جناب سید  
مصطفیٰ موسوی نے زشت سے بھیجی تھیں۔ اس کتاب کی شہرت تو ایک عرصہ سے اہل علم کے حاشیہ  
ذوق پر اپنا نقش ثبت کر چکی تھی۔ مگر جب اس کتاب کا تازہ ایڈیشن پاکستان پینچا تو ہمارے کرم فرما دوست  
جناب سید امیر بخاری ایسے پر ذمیر گورنمنٹ کالج ربوہ نے اسے اردو لباس میں مزین کرنے کا اعلان  
کیا۔ بخاری صاحب صوفیاء اسلام کی تعلیمات سے اتنے شناسا ہیں کہ وہ مجلس میں اہل اللہ کے اقوال  
اس حدوت آمیز روانی سے بیان کرتے جاتے ہیں جیسے ابھی ابھی ان پاکیزہ مجالس سے اٹھ کر ہمارے  
سامنے آ بیٹھے ہیں وہ اس سے پہلے تصوف کی مشہور کتاب کتاب اللمع، کا ترجمہ کر چکے تھے۔ انہوں  
نے یہ کام شروع کیا۔ کئی صفحات کا ترجمہ کیا۔ مگر آخر کثرت کار اور ان کی تدریسی مصروفیات نے ان کے  
باہر قلم کو زنجیر بن کر ترجمہ کی شاہراہ پر چلنے سے روک دیا۔ یہ حادثہ اہل علم اور اہل محبت کی دنیا میں  
اکثر آتا ہے۔ کہ چلتے چلتے قدم رک جاتے ہیں۔ بار بار التجا کے باوجود فاضل مترجم وقت نہ نکال سکے  
اور کئی ماہ کی تعویق کے باوجود آپ کے تدریسی مشاغل نے اجازت نہ دی۔ حتیٰ کہ ایک دن ت ایسا  
آیا۔ کہ ہم اس قند قلم مترجم کی صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔

یہ کام میرے لئے نہایت مشکل تھا۔ مطالب تصوف کی سنگلاخ وادی کو طے کرنا میرے جیسے  
بچھڑاں کے لئے بڑا دشوار تھا۔ مگر بخاری صاحب کے ذوق ترجمہ کی کچھ چاشنی نوک قلم سے  
لگائے اتناں خیزاں روانہ ہوا۔ الحمد للہ یہ منزل طے ہوئی اور آخرین ابواب کے ترجمہ کی  
سعادت مجھے نصیب ہوئی۔ میں اپنی بے سرو سامانی کے باوجود ایک عظیم صوفی کی نگارشات فکر کو  
اردو لباس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قبول نظر ہو تو نہ ہے نصیب۔ ورنہ اچھے  
لوگوں سے بغزشتوں کو معاف کرنے کی توقع پر قدم بڑھانے کا حوصلہ رہتا ہے۔

اس سلسلہ میں ہمارے حلیل القدر مولف۔ مترجم اور کرم فرما فاضل جناب شمس ربیوی دامت  
برکاتہم بطالیہ کا احسان ہمیشہ یاد رہے گا۔ کہ انہوں نے کمال لطف و محبت سے ہماری درخواست پر

کتاب کے لئے ایک مہبوط مقدمہ سپرد قلم کیا جسے ہم ابتدائے کتاب میں ہدیہ ناظرین کر رہے ہیں یہ مقدمہ جہاں حضرت شیخ ابوسعید ابی الخیر کی ذات والا صفات پر ایک منفرد تعارف ہے۔ وہاں شیخ کے معاصرین بلکہ تصوف کے مختلف سلاسل اور مقتدر صوفیاء کے کار ناموں کا بھرپور جائزہ ہے۔ قارئین کتاب اس مقدمہ کو ایک قابل قدر اضافہ محسوس کریں گے۔

مکتبہ نبویہ نے جہاں مختلف موضوعات پر علمی کتابوں کی اشاعت میں نام پیدا کیا ہے وہاں علوم تصوف و تذکار صوفیہ پر متعدد کتابیں شائع کر کے اہل محبت سے داد وصول کی ہے۔ زیر نظر کتاب مقامات صوفیاء بھی اہل نظر اور اہل ذوق کی خدمت میں وہی مقام پائے گی جو مکتبہ نبویہ کی دوسری مطبوعات کو ملا ہے۔ ہم جہاں سید مصطفیٰ موسوی، پروفیسر سرار بخاری ایم اے اور جناب شمس بریلوی بالقابہ کے ممنون ہیں وہاں مکتبہ نبویہ کے اراکین کے پاس گزار ہیں کہ انہوں نے اس دگرگراں باری میں زر کثیر خرچ کر کے صدیوں قدیم صوفیاء کی تعلیمات کو شائع کیا۔

سدا المنۃ للذہ کہ درمیکدہ بازاست!



## مقدمہ

### ڈاکٹر ذبیح اللہ صفاء - تہران - ایران

قارئین آپ کی خدمت میں پیش کی جانے والی کتاب کا نام "اسرار التوحید فی مقامات ایشیخ ابی سعید فضل اللہ بن ابی الخیر المہدینی" ہے۔ اسے ادب فارسی میں اہمات کتب کا درجہ حاصل رہا ہے۔ اور یہ فارسی ادب کے اساتذہ کی زبان میں ضبط تشریح میں لائی گئی تھی۔ تحریر کی روانی، جملوں کی شگفتگی اور فصاحت و بلاغت میں اس کتاب کو بڑی شہرت ملی۔ اس کا سن تالیف چھٹی صدی ہجری کے آخری ایام میں ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فارسی ادب میں مصنوعی عبارت آرائی کا آغاز ہو چکا تھا تاہم اس کی تحریر میں تصنع کا اثر کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ چھوٹے چھوٹے جملے، پر مبالغہ کلمات، سادہ فارسی تراکیب، اور عمدہ ترکیبات کتاب کے صناعات پر جا بجا چھیلی نظر آئیں گی۔ واقعات اور سرگزشت کی مختلف کردیوں کو اس حسن و خوبی سے ترتیب دیا گیا ہے کہ قارئین کتاب کی نظریں جذب ہو کر رہ جاتی ہیں۔ عربی کے کلمات اور تراکیب بہت کم ملتی ہیں۔ اور زبان اور اسرار کی جاشنی سطر سطر سے چمکتی ہے۔

اسرار التوحید تین بابوں پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ فی زندگی کے ابتدائی حالات ہیں۔ دوسرے باب میں جوانی کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ اور تیسرے میں زندگی کے آخری ایام کا ذکر ہے تین بابوں میں خصوصاً دوسرے باب میں حضرت شیخ قدس سرہ کے اقوال۔ فارسی اشعار اور ملفوظات نقل کئے گئے ہیں۔ اس کتاب میں اس زمانے کی فارسی زبان کی نظم و نثر کے عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ دراصل فارسی زبان پانچویں صدی کے آغاز میں ایک خصوصی تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے۔ چونکہ اس کتاب میں ایک شخص کی زندگی کے حالات درج ہیں۔ بایں ہمہ اس وقت کے سیاسی اور روحانی حالات پر روشنی پڑتی ہے۔ تاریخ تصوف پر تحقیق کرنے والوں کے لئے ایک بہترین مطالعہ ہے۔

ابوسعید فضل اللہ بن ابی النخیر بن احمد مینہی قدس سرہ جن کے حالات زندگی اس کتاب کا سرمایہ عزیز ہیں۔ اپنے زمانہ کے مشاہیر علماء۔ محدثین میں شمار ہوتے تھے خراسان میں آپ نظریہ وحدت الوجود کے ترجمان تھے۔ آپ کی ولادت ۳۵۶ھ مینہہ میں جو خاوران کے دیہات میں سے تھا۔ ہوئی۔ آپ کی وفات ۴۲۰ھ میں اسی گاؤں میں ہوئی۔ آپ کے والد عطاری کا کام کرتے تھے۔ مگر صوفیاء کی مجالس میں نہایت عقیدت سے حاضر دیتے تھے۔ حضرت ابوسعید انہی مجالس صوفیاء سے متاثر ہوئے اور تربیت پاتے رہے۔ اور آپ اپنے والد کے ساتھ رہ کر تصوف کے ابتدائی حالات سے واقف ہوئے۔ ہوش سنبھالا۔ تو ظاہری علوم شرعیہ کی تحصیل کے لئے مینہہ مراد اور سزوں کے مدار سے وافر حصہ پایا۔ سرخس میں حضرت ابوالفضل محمد بن حسن سرخسی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ آمل میں آکر حضرت ابوالعباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا۔ ان عرصہ میں حضرت شیخ نے یاقت اور سلوک میں کئی منازل طے کیں۔ اور ایک طرف کامل کی حیثیت سے ابھرے۔ پھر مینہہ میں اپنی خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح کچھ عرصہ نیشاپور میں رشد و ہدایت کو عام کیا۔ آپ کا طرز بیان کشف اور کرامات معاشرے کے مختلف طبقات پر اثر انداز ہوئے۔

ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے بزرگ مشائخ میں سے تھے۔ آپ تفسیر، حدیث، فقہ اور ابیات و عظیم شہرہ آفاق ہوئے۔ ان علوم پر عبور حاصل کرنے کے بعد آپ کے فوق طیف ہدایت، طبع، حدت ذہن، طلب بیان اور بصیرت افزا باتوں نے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا اور وہ آپ کے قدموں میں سرسبی نہیں بد یہ دل بھی پیش کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ آپ کی مجالس و عطا شاعروں کے ابیات اور اشعار سے بڑھتی ہیں۔ فارسی ادب کے بہترین قطعات، عمدہ اشعار، اور برجستہ، باعیاات آپ کی زبان سے پھول بن کر جھڑتی ہیں۔ لوگ ان موتیوں سے جھوٹیاں بھرتے اور وجد و نشاط میں مجھوم مجھوم جاتے۔

حضرت شیخ ابوسعید بسا اوقات اپنے اشعار بھی سناتے ہم از روہ تحقیق کہہ سکتے ہیں کہ ایسے اشعار آپ سے پیشتر صوفیاء کی زبان سے نہیں سنے گئے تھے گویا آپ پہلے صوفی ہیں جنہوں نے اسرار تصوف کو شعری زبان سے بیان کرنے کا آغاز کیا۔ اندرین حالات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سلسلہ میں سنائی اور عطار کے پیشرو تھے۔ آپ کے اثر یافتہ صوفیائے بھی رباعیات اور اشعار میں صوفیانہ اسرار بیان کرنے شروع کئے۔ اس کتاب کے ایک حصہ میں آپ کے اپنے اشعار اور رباعیات کے علاوہ دوسرے شعرا کے ابیات اور اشعار بھی ملتے ہیں جو آپ کی زبان سے نکلے ایسے اشعار آپ کی مجالس و عطا کا حسن ہوتے۔ آپ کے مرید اور عقیدت مند ان اشعار کو مترنم آواز سے سناتے۔ اور از بکر کے دنیا کے اسلام کے گوشے گوشے تک لے گئے ہیں کہ ساتویں اور آٹھویں صدی ہجری کے شعرا نے بھی آپ کے اثرات سے دافر حسہ لیا۔ بین ہمہ میں تعجب ہے کہ اس کتاب کے مؤلف محمد منور رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کو فارسی شاعر ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

اس کتاب کے علاوہ حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ کے حالات، مقامات، کرامات اور اقوال پر ایک اور کتاب بھی ملتی ہے جو حالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر کے نام سے شہور ہوئی۔ زیر نظر کتاب کی بنیاد اور تخریج کتاب سے بعد میں ملتبات صوفیہ بسبی رجبہ چہارم، آثار البلاد

اخبار العباد ذکر یا بن محمد بن محمود قزوی، الانساب سمعانی، تذکرۃ الاولیاء، عطار، نفحات الانس  
رجائی، اور دوسرے تذکروں نے حضرت شیخ کے حالات لکھے ہیں مگر ان تذکروں کے آغاز و منابیح  
زیر نظر کتاب اور مذکور الہ مذکور کتاب ہے۔

حضرت شیخ ابوسعید کے حالات زندگی سب سے پہلے آپ کے پڑپوتے جمال الدین  
ابوروح لطف اللہ بن ابی سعد بن ابی طاہر بن ابی سعید مینہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے۔ ان  
کے متعلق اس کتاب میں لکھا ہے۔

”اس سے پہلے امن کے زمانہ میں امام اجل عالم بے بدل جمال الدین ابوروح لطف  
اللہ بن ابی سعد جو اس دعا گو کے چچا کے بیٹے ہیں نے ایک کتاب لکھی جو ایک عقیدتمند  
کی استدعا پر تیار کی گئی۔ اس کتاب میں پانچ باب تھے۔ ہر باب میں مستند حوالوں کے  
ساتھ روایات جمع کی گئی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب میں حضرت کے فضل و کمال  
کا تذکرہ کیا گیا ہے حضرت شیخ کے اقوال و احوال کو خصوصیت سے بیان کیا ہے“

یہ ابوروح لطف اللہ آٹھویں صدی ہجری کے اول حصہ میں زندگی بسر کر رہے تھے  
لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کب تک زندہ رہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ اسرار توحید  
زیر نظر کتاب کی تصنیف کے وقت زندہ نہیں تھے کیونکہ محمد بن منور مؤلف کتاب نے  
اپنی کتاب میں ان کا دوبار ذکر کیا مگر ایسے ذکر کیا جیسے فوت شدہ لوگوں کا کیا جاتا ہے  
آپ کی زندگی کے آخرین ایام جنہیں ہم محسوس کرتے ہیں ۵۳۴ھ ہے جب اتسرخوار شاہ  
سلطان سخر کی ختا کے کنارے شکست اور اس کی سلطنت کے زوال کا آنکھوں دیکھا حال  
بیان کرتے ہیں۔ اس واقعہ میں اتسرخوار شاہ خادراں میں گیا۔ اور اس نے ارادہ کیا کہ  
مینہہ کو غارت کر دے لیکن بعض مشائخ اور بزرگان دین نے اسے ایسا کام کرنے سے روک  
دیا۔ چنانچہ وہ تین دن تک مینہہ میں رہا۔ اس اثنا میں حضرت شیخ کی اولاد اور صوفیاء جو اس  
وقت وہاں موجود تھے۔ باہر نکلے۔ وہ بڑی عزت و اکرام سے پیش آیا۔ جمال الدین ابوروح

جو اس دعا گو کا علم زاد تھا۔ علوم فنون میں بے پناہ حصہ رکھنا تھا۔ انہوں نے حضرت شیخ کے حالات، کرامات، ریاضات اور اشعار جمع کئے۔ چنانچہ بادشاہ نے اور لوگوں کو تو لوٹا دیا مگر جمال الدین کو اپنے ساتھ رکھا۔ اور بعد از نماز عشاء حضرت کے مزار کی زیارت کو حاضر ہوا۔ زیارت کے بعد جمال الدین کو بھی واپس بھیج دیا۔ اور ہدایت کی کہ کل صبح پھر آئیں۔ اس طرح دو تین دن باقاعدگی سے حاضری دیتا رہا۔

حضرت جمال الدین ابوروح نے حضرت شیخ کے حالات و کلمات اگرچہ مختصر لکھے۔ مگر بڑے جامع اور مستند تھے یہ نہایت مفید حالات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان صفحات سے محمد بن منور نے اپنی کتاب اسرار التوحید کے لئے بہت سا مواد لیا ہے۔ اس کتاب کا آغاز حدیث نبوی سے کیا گیا۔ پھر اس حدیث کی تشریح کی گئی۔ پھر اعمال، کرامات، اقوال و ملفوظات حضرت شیخ بیان کی گئیں۔ اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ جو برطانیہ کے عجائب خانہ کی لائبریری میں موجود ہے۔ اسے روسی پروفیسر ایتن ژوکوفسکی مشہور مستشرق نے پٹریک (لینن گراڈ) سے ۱۸۹۶ء مطابق ۱۳۱۶ھ پہلی بار شائع کرایا تھا۔ پھر یہی کتاب دوسری بار تہران میں چھپی اور اس کا نام "حالات و سخنان شیخ ابوسعید" رکھا گیا۔ ابوروح کا طرز نگارش بھی زیر نظر کتاب کے مولف علام محمد بن منور کی طرح سادہ اور مختصر ہے۔

اس کتاب کے مولف حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ کے پڑپوتے محمد بن منور بن شیخ الاسلام ابن سعد بن ابی طاہر بن ابی سعید فضل اللہ بن ابوالخیر المینہی قدس سرہم ہیں۔ ابن منور نے اس کتاب کو حضرت شیخ قدس سرہ کے احوال، اخبار، اقوال اور کرامات سے مزین فرمایا ہے۔ یہ ساری چیزیں مختلف ذرائع سے جمع کیں اور اپنے زمانہ کے حکمران ابوالفتح غیاث الدین محمد بن سام بادشاہ غوری متوفی ۵۹۹ھ کے نام منسوب کیا۔

سلطان سنجر کو ۵۴۸ھ میں غزوں نے شکست دی۔ ان وحشیوں نے خراسان کی سرزمین میں قتل و غارت عام کر دی۔ بستیوں کو دیوانوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ فاضل مولف کا گھر مینہ



خصوصی طور پر ان کی بربریت کا نشانہ بنا۔ اس وقت کے شیوخ خاندان کے بڑھے حضرت شیخ ابو سعید کے مرید۔ رشتہ دار چچا کے لڑکے تمام کے تمام اسی جگہ موجود تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنی یادداشتوں سے اس کتاب کو مزین کیا۔ جمال الدین ابو روح کی کتاب بھی اس کتاب کی بنیاد بنی۔

پنچاچھم اس کتاب اسرار التوحید کا سال تالیف غزوں کے ۵۲۸ھ مصلوں کے بعد

قرار دیتے ہیں۔ اس قوم کی تباہ کاریوں کے اثرات ہی اس امر کا باعث ہیں کہ مولف غزوں نے ان واقعات کو حوادث کی گرد سے صاف کیا اور اسے کنزبئی شکل میں ترتیب دیا۔ پنچاچھم کتاب کے آخرین حصہ میں ان واقعات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ کتاب ان واقعات سے کئی سال بعد مکمل

ہوئی۔ مولف کتاب اپنے دادا کی کرامات بیان کرتے وقت محمد بن عبدالسلام جو حضرت شیخ کے خادم کے لڑکے تھے۔ کو نظر انداز نہیں کر سکے۔ یہ بزرگ غزوں کے ممالوں کے بار جو حضرت شیخ کے

روضہ اقدس پر پڑے رہے اور تقریباً بیس سال تک اس خانقاہ کے مجاور رہے۔ ابن منون نے انہیں سے آخری عمر میں اپنے دادا کی قبر پر طمانات کی۔ اور ان سے گفتگو کی۔ اور خصوصیت سے پوچھا کہ "اتنے عرصہ تک آپ حضرت کے روضہ پر رہے ہیں کوئی کرامت بھی دیکھی ہے؟"

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن منون نے اپنی کتاب کو غزوں کے حملہ کے بہت

بعد تقریباً چوبیس سال کی حدود میں تالیف کیا۔ یعنی ۵۷۰ھ کے تک بچک سال تالیف ہے۔ بعد میں اسے غیاث الدین غوری کے نام پر منسوب کیا مگر پروفیسر ژرد کو فسکی اسرار التوحید کا سال تالیف ۵۵۳ھ سے ۵۸۰ھ کے درمیان بتاتے ہیں۔

اس کتاب کو پروفیسر ژرد کو فسکی نے ۱۸۹۹ء، ۱۳۱۰ھ میں پیربرگ رینن گراڈ، لایبریری

سے قلمی نسخہ سے ترتیب دے کر طبع کرایا تھا۔ ان دو نسخوں کے درمیان جو اختلاف لفظی پایا جاتا

تھا۔ اسے کتاب کے حواشی میں واضح کر دیا گیا۔ پھر ۱۳۱۳ھ شمسی میں مرحوم احمد بہنیا راستہ

دانشگاہ تہران نے ژرد کو فسکی کے نسخہ کو بعض ترامیم اور حواشی کے ساتھ ترتیب دیا۔ اور ایک

گراں قدر مقدمہ لکھا۔ ژرد کو فسکی کے مقدمہ کو بھی کتاب کے آغاز میں طبع کرایا۔

۱۳۳۱ شمسی میں آقائی جعفری ناظم انشارات امیر کبیر نے راقم کو ایک نسخہ عنایت کیا تاکہ اسرار التوحید کو پروفیسر ڈوکونسکی کے انداز پر زور طبع سے مزین کیل چونکہ مجھے محض ایک نسخہ کو بنیاد بنا کر کام کرتے درست معلوم نہ ہوتا تھا۔ میں نے مزید تنگ و دو کی اور کوئی اور نسخہ بھی سامنے رکھنے کے لئے آگے بڑھا تاکہ یہ کتاب قارئین کے لئے مزید مفید ہو سکے۔ اتفاقاً انہی دنوں میرے فاضل دوست آقائی مجتبیٰ مینوی استاد دانشگان ہیران جو استنبول کے سفر سے واپس آئے تھے وزارتِ تعلیم سے ایک نادر نسخہ کا عکس لائے جو نہایت ہیربانی فرماتے ہوئے عنایت فرمایا میں ان کے احسان کے اظہار کے لئے قوت بیان نہیں پاتا۔

مذکورہ نسخہ قلمی جواب قومی لائبریری کی ملکیت ہے میرے پاس رہا۔ اور مجھے اسرار التوحید کو از سر نو ترتیب دینے کا شوق پیدا ہوا۔ اب استاد ڈوکونسکی کے دو نسخہ اور تیسرا یہ نادر نسخہ میرے سامنے رہے مجھے امید ہے کہ اہل تحقیق اسے زیادہ مفید پائیں گے۔ جہاں جہاں متن میں اختلاف نظر آیا۔ میں نے حاشیہ میں نشانہ ہی کر دی ہے۔

آغاز کار میں مجھے خیال پیدا ہوا کہ استنبول کے قلمی نسخہ کو پہلے دو نسخوں سے موازنہ کروں۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ان تین نسخوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام اختلافات کو بھی نظر انداز نہ کروں جو ان تینوں میں مطلب کی وضاحت کے لئے مناسب ہوں چنانچہ زیر نگاہ کتاب ان تینوں قلمی نسخوں کا بہترین مواد ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ عربی عبارات۔ عربی جملے۔ آیات قرآنیہ۔ احادیث نبویہ کو علیحدہ علیحدہ لکھوں۔ حضرت شیخ کے ان اشعار و ابیات کو بھی ایک حصہ میں ترتیب دوں۔ تاکہ قارئین کرام پوری طرح استفادہ کر سکیں۔



شیخ ابوسعید ابوالخیر

## حضرت ابوالحسن سید علی بن عثمان الجلابی البجوری

المعروف داتا گنج بخش اموی قدس سرہ — کی نظر میں

آپ متاخرین صوفیہ سے شہنشاہ مہمان ملک الملوک صوفیاء حضرت ابوسعید فضل اللہ بن محمد مہنی رضی اللہ عنہ ہیں سلطان وقت و جمالِ طریقت گزرے ہیں۔ تمام اہل زمانہ آپ سے سخر تھے کوئی آپ کے دیدار کا مشتاق رہتا۔ کوئی آپ سے حسن عقیدت رکھتا۔ کوئی آپ کی قوتِ حال کا قائل تھا۔ علوم و فنون میں مانے ہوئے عالم ہونے کے علاوہ اشراف قوم میں عظیم الشان درجہ رکھتے تھے۔ مزید برآں طریقت میں آپ کی نشانیاں اور برہان بے حد ہیں۔ چنانچہ آج تک آپ کے آثار کلمات اتنے ظاہر ہیں کہ دنیا جانتی ہے۔

ابتدائی زمانے میں آپ بغرض حصولِ علم مقام مہنہ سے مقام سرخس میں آئے اور حضرت ابوعلی رضی اللہ عنہ جابکسوار کی خدمت میں رہے۔ آپ کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ تین روز کا سبق ایک دن میں پڑھا کرتے اور تین دن عبادتِ الہی میں بسر فرماتے۔ امام ابوعلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کی یہ راست روی ملاحظہ فرمائی تو آپ کی عظمت فرمانے لگے۔ اور تعلیم میں کچھ یادتی کر دی۔ اس زمانہ میں دالی سرخس شیخ ابوالفضل حسن تھا۔ ایک دن حضرت فضل اللہ ابوسعید جو تبار نہر پر گلگشت فرما رہے تھے کہ ابوالفضل دالی سرخس سے دو چار ہو گئے۔

ابوالفضل حسن نے آپ سے کہا۔ ابوسعید جس راستے پر تم جا رہے ہو یہ تمہارا راستہ نہیں،

اپنا راستہ لو۔

حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف التفات نہ کیا اور سیر فرما کر اپنی قیام گاہ پر تشریف لے آئے۔ اور اپنے مشاغل ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو گئے۔ حتیٰ کہ حق تعالیٰ نے درہدایت کھولا اور حضرت ابو سعید کو مدارج علیا پر فائز فرمایا۔

شیخ ابو مسلم فارسی فرماتے ہیں کہ مجھے ابو سعید فضل اللہ سے دیرینہ خصومت تھی لیکن ان کے زہد و ورع کا شہرہ سُن کر جب ان کی زیارت کا شوق ہوا تو میں ایسی حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میرے جسم پر ایسا خرقہ تھا کہ میلا ہو کر چمڑے کی طرح ہو گیا تھا۔ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا آپ تخت مرصع پر روئے مصری ڈالے تشہف فرماہیں۔ میں نے اپنے دل میں یہ اعتراض لیا کہ یہ مرد دعویٰ بقریٰ کو کے اس قدر علائق دیباوی میں پھنسا ہوا ہے اور تمام علائق سے انقطاع کر کے مدلی فقر ہونے سے میری اس کے۔ عہد پر ملاحظت ہوگا

ابو سعید فضل اللہ اپنے نور مرآت سے میرے اس خطرہ سے واقف ہو گیا اور سزاٹھا کہ مجمع سے فرما۔ يَا أَبَا مُسْلِمٍ فِي أَيِّ دِلْيَانٍ وَجَدْتَ مَنْ كَانَ قَلْبُهُ قَائِمًا فِي مُشَاهِدَةِ الْحَقِّ يَنْقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْفَقِيرِ ابْنِ مَسْعُودٍ  
تم نے کس کتاب میں دیکھا کہ جب کسی کا دل خدا کے مشاہدہ میں قائم ہو اس پر نام فقر آتا ہے یعنی جو اصحاب مشاہدہ ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ غنی ہیں۔ اور جو فقیر ہیں وہ ارباب مجاہدہ کہلاتے ہیں۔

ابو مسلم نے کہا یہ جواب سُن کر میں اپنے دل میں خجل و پریشان ہوا اور اپنے بے جا دوسرے توبہ کی۔

آپ سے مروی ہے کہ فرمایا۔ التَّصَوُّفُ قِيَامُ الْقَلْبِ مَعَ اللَّهِ  
جِلْدًا وَاسْطَةً تَصَوُّفُ قِيَامُ دَلِّجِ كَانَامِ هِيَ جَوْلَادِ اسطہ ہو۔ اور یہ بھی مشاہدہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس لئے کہ مشاہدہ غلبہ دوستی سے ہوتا ہے اور شوق رویت و مشاہدہ استغراق

میں ہوتا ہے اور فنا جسے کہتے ہیں وہ بقا بحق کہلاتی ہے۔

اس بحث کو کتاب الحج کے عنوان سے مشاہدہ وجود کی تفصیل کے لئے علیحدہ باب میں بیان کیا جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

ایک بار حضرت ابوسعید فضل اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نیشاپور سے طوس کا قصد فرمایا۔ راستہ میں سردی سخت تھی۔ حتیٰ کہ موزوں کے اندر بھی پائے مبارک سردی محسوس کرنے لگے ایک درویش کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اپنی کمر کی پٹی کے دو ٹکڑے کر کے پائے مبارک میں پیٹ دوں۔ مگر میرے دل نے اس کا ٹٹنا گوارا نہ کیا۔ اس لئے کہ وہ بہت عمدہ تھی جب ہم طوس آگئے۔ ایک روز محفل میں میں نے عرض کی کہ حضور و سواں شیطانی اور اہام میں کیا فرق ہے۔ فرمایا۔ اہام وہ ہے جس میں تجھے کہا گیا کہ کمر پٹی کاٹ کر ابوسعید کے پیروں کو سردی سے محفوظ کر، اور سواں شیطانی وہ ہے جس نے تجھے اس کام سے روکا۔ اور اس قسم کی بہت سی باتیں متواتر ہیں۔ لیکن اس مختصر میں یہ ہی بس ہے واللہ اعلم بالصواب۔

اسرار التوحید

# فی مقامات شیخ ابی سعید

تالیف:

محمد بن منور بن ابی سعید بن ابی طاہر بن  
ابی سعید مہنی

<http://ataunnabi.blogspot.in>

for more books click on the link  
<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

## مقدمہ مؤلف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ نَوَّرَ قُلُوْبَ اَوْلِیَّیْهِ بِلَطَیْفِ  
اَنْوَارِهِ وَجَعَلَ سَرَایِرِ اَحْبَابِهِ وَبَوَاطِنِهِمْ  
كُنُوْزَ اسْرَارِهِ وَكَشَفَ عَنْ عَقُوْلِ اَصْفِیَّیْهِ  
وَحُجْبِ الطُّغْیَانِ وَاسْتَارَهُ وَالْمَصْلُوَّةِ  
وَالسَّلَامُ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَنَبِیِّهِ وَخَیْرِهِ  
مِنْ اَخْبَارِهِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاَعْوَابِهِ  
وَاَنْصَارِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِیْمًا كَثِیْرًا۔

بے شک اسی کی ذات اعلیٰ صفات نے بغیر کسی غرض یا طلب منفعت اپنے خاص مہر و کرم

کمال لطف و عنایت اور محدود قدرتِ کاملہ کے ساتھ اس عالم رنگ و بو کو پیدا فرمایا، پھر اسے  
نادرو بے مثال مجاہد سے آراستہ کیا اور اپنی عجائباتِ نادرہ میں سے اپنی نوع انسان کے باپ  
سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں مشقِ خاک سے وجود بخشا، ان کے سیاہ مٹی کے گائے سے بنے  
ہوتے قالب کو ساہا سال مکہ و طائف کے درمیان چھوڑ دیا، تا آنکہ اُس میں استعدادِ روح  
اور نفسِ انسانی کی تکمیل پیدا ہو گئی تو اُسے ”وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِيْ“ کے زیور سے سجا کر انبیت  
کے ناہ سے موسوم کیا، بعد ازاں، انسان، انس اور موانست جیسے متناسب کلمات کے سبب نعمت



بالغہ کا تقاضا تھا کہ اُسے کسی مونس و ہمدم کا محتاج کیا جائے تاکہ یہ تنہائی کی وحشت کو اپنے مونس کی رفاقت کے ذریعے دور کرے، لہذا اُمّ البشر حواء علیہا السلام کو آدم کے بائیں پہلو سے اپنے تخلیقی اجازہ کے ساتھ ظاہر فرما دیا، پھر شہوت جو نفسِ حیوانی کے عوارض میں سے ایک ہے کہ دونوں (آدم و حوا) کی سرشت میں دو لیت کیا تاکہ اس کے سبب اُن میں تو والد و تناسل کا سلسلہ قائم ہو اور اس قدر آدمی روئے زمین پر پیدا ہوں کہ وہ مختلف اقوام و نسل میں بٹ کر اپنی جدا جدا زبانیں بولیں۔ اُن کی اصل ایک اور شاخیں لا تعداد ہوں تاکہ یہ سب مل کر تنوع اور رنگارنگی میں اپنے پیدا کرنے والے کی خَلاتی و صنّاعی پر دلیل ثابت ہوں۔

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لِّهٖ آيٰتٌ ۙ تَدُلُّ عَلٰی اٰنۡهٖ وَاٰحٰدِ

ہر شے میں اُس کا نشان موجود اور ہر چیز میں اُس کے ایک ہونے کی دلیل ظاہر ہے، خالق برحق جل ذکرہ نے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ فرزندوں میں سے انبیاء و اولیاء و رسل علیہم السلام مقرر فرمائے جنہوں نے بندہ و معبود اور خالق و مخلوقات کے درمیان تعلق جوڑا، ان نفوس قدسیہ کو اس نے دنیا سے علیحدگی اور بلندی کی طرف جانے میں کمال عطا فرمایا یہ صورت میں خلق کے ساتھ اور صفت کے لحاظ سے حق تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں صیفت حق سے جوڑے اُسے لیتے ہیں اور نور نبوت سے مشاہدہ کرتے ہیں، لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف بلاتا اور انہیں گمراہی و سرکشی سے باز رکھنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، تاکہ وہ جہالت کے اندھیروں اور پیداشانی کے صحراؤں سے نکل کر ساحل نجات اور کنارہ ہدایت کو پالیں۔ اور حیوانیت بجز تہ کرانسانیت و حقویت کی صفات سے متصف ہوں، انبیاء و علیہم السلام کے بعد اولیاء کرام کا درجہ ہے کہ صاحب کرامات و مقامات ہیں اور اللہ سے مناجات کرتے ہیں۔ یہ طبقہ بالسنی انبیاء و رسل سے نزدیک ہوتا ہے اور ان کا باہمی فرق یہی کچھ ہے کہ انبیاء بیک وقت اللہ اور خلق سے تعلق قائم رکھے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ اولیاء اگر خلق سے تعلق قائم رکھیں تو تعلق باللہ میں خلل واقع ہو۔ دوسرے یہ کہ ہر نبی دعوت و ارشاد پر مامور ہوتا ہے جبکہ ہر ولی کا دعوت و ارشاد

پر مامور ہونا ضروری نہیں۔

اُس نے اپنے کمالِ کرم اور انتہائی حکمت کے ساتھ طبقہ اولیاء کو پیدا فرمایا کیونکہ ہر قرن میں بعثت انبیاء و رسل مشکل ہے لیکن اصحابِ کرامات و اربابِ مقامات کا وجود بروقت ممکن ہے اولیاء کا وجود اس لئے ہوتا ہے کہ لوگ اُن کے اقوال و اعمال کو سمجھیں اور ظاہر سے باطن کی دنیا کو آئیں، اور انہیں معلوم ہو کہ اس جہانِ ظاہری و بے معنی کے دُور سے ایک جہاں اور ہے کہ آدمی کو اُس کے لئے پیدا فرمایا ہے تاکہ بندہ اس دنیا میں اُس دنیا کا زاد اکتھا کرے خود میں اس سے طے کی صلاحیت پیدا کرے، اگر درجہ ملائکہ و روحانی تک نہ پہنچ سکے تو درجہ حیوانات سے تو بلندی اختیار کرے۔

معبودِ بَرُخِ جِسَلْ جِلَانُہ کی حمد بے حد اور شکر و سپاس بے اندازہ کے بعد دل کی گہرائیوں سے بے شمار تحیات و صلوات اور درود و آفرینِ روح پاک تربتِ مطہرہ و فتنہ معطر یہ انبیاءِ قدوۃِ اصفیاء محمد مصطفیٰ صلوات اللہ و سلامہ علیہ کی ذاتِ اقدس کو اس طرح مسلسل پہنچے کہ اگر تار سے رُک جائیں اور پہاڑ چل پڑیں تو بھی درود و سلام کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔

یہ درود عالمِ علیہ السلام پر درود کے بعد ہزاروں سلام و آفرین صحابہ طیبین اور اہل بیت کی مقدس ارواح پر کہ اُن میں ہر ایک آسمانِ ہدایت کا ستارہ اور رشد و عنایت کی شمع ہے یہ بندہ گنہگار محمد بن المنور بن ابی سعید بن ابی طاہر بن الشیخ الکبیر سلطان الطریقیت و برہان الحقیقت ابی سعید فضل اللہ بن ابی الخیر المہینی قدس سرہ عرض کرتا ہے کہ آغازِ بچپن و عنفوانِ شباب سے میری یہ کوشش رہی کہ :-

اپنے جدِ ماجد شیخ ابوسعید فضل اللہ بن ابی الخیر المہینی قدس سرہ کے آثار و احوال جمع کروں اور اس سلسلے میں، میں شیخ کی اولاد میں سے اکابر ہستیوں سے اُن کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے ان کی صحتِ سند میں حتی الامکان کوشش کرتا رہتا تھا۔ یہ عہدِ دین کی حکمرانی کا عہد اور طریقتِ شریعت کی تازگی کا زمانہ تھا، کیونکہ یہ عہد آسمانِ دین کے آفتابِ ائمہ کرام اور فلکِ یقین کے درخندہ ستاروں سے معمور تھا، زمینِ مشائخ کبار سے بھری پڑی تھی، مردانِ صادق جن کے ارادے طلبِ شریعت کے

پابند اور جن کی کوششیں راہِ طریقت کو پانے میں صرف ہوتی تھیں وہ اکثر حضرت کے ملفوظات و افعال کو یاد کرتے اور اُن کا ذکر کرتے رہتے تاکہ اُس کے ذریعے سعادت و برکت حاصل کریں اور یہ معلوم کریں کہ نفسانی خیالات اور اہامات ربانی میں کیا فرق ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے خاندان کے مشائخ کرام نے اُن ملفوظات اور آثار و احوال کے جمع کی طرف توجہ نہ دی کیونکہ ہر طرف ہر شخص کی زبان پر وہ جاری تھے اور کوئی محفل نہ تھی جو اُن کے ذکر و اذکار سے معطر نہ ہو لہذا انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ اُن ملفوظات کو کتابی صورت میں جمع کرتے۔

یہاں تک کہ فتنہ خراسان اور جنگ و جدل کا حادثہ رونما ہوا، خراسان میں بالعموم اس فتنہ کے مصائب ظاہر ہوئے مگر مہینہ میں جو بیعتی سو بیعتی اور جو مصیبتیں ہم نے اٹھائیں اُن کی شہرت خراسان میں اس قدر نہ تھی جتنی مہینہ میں، اور اس حدیث کہ "أَشَدُّ الْبَلَاءِ لِلْأَنْبِيَاءِ بِرُؤْيَا، ثُمَّ لِلْأَمْثَلِ فَالْأَمْثَلِ"، (شدید ترین مصائب انبیاء پر پڑتی ہیں پھر اولیاء پر پھر اُن حبیبوں پر اور اُن کے بعد اُن حبیبوں پر) کی حقیقت ہم پر اور تمام اہل خراسان پر مہینہ میں کھلی،

مختصر یہ کہ مہینہ میں ایک سو پندرہ افراد چھوٹے، بڑے شیخ ابوسعید کی اولاد میں سے طرح طرح کی سزاؤں مثلاً آگ اور مٹی وغیرہ کے ساتھ ہلاک کئے گئے، بعض کو تلوار سے شہید کیا گیا، کچھ دوسرے شہروں میں شہید ہوئے اور کچھ اس حادثے سے پیدا ہونے والے قحط و وبا سے چل بسے، خدا اُن سب کو اپنے جوار رحمت میں رکھے، اسی طرح مریمان صادق اور عجمان حقیقت شناس کو بھی اسی پر تپاں کر لیں کتنے بزرگانِ دین اور پیشوایانِ طریقت زیرِ خاک چلے گئے، زمانے میں غلبہ دین اور مسلمانوں کا قحط پڑ گیا، دین کو شدید دھچکا لگا، انتشارِ عظیم نے معاملاتِ دین کو متاثر کیا، ائمہ دین و پیرانِ طریقت باقی نہ رہے۔ اور حق تعالیٰ نے "أَوَلَمْ يَسْئُرُوا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا،" (ترجمہ: کیا انہیں سوچتا کہ ہم ہر طرف سے ان کی آبادی گھٹاتے آرہے ہیں، کا وعدہ پورا کر

۱۳ : ۲۱ ہم ان کے نقش قدم کی ہدایت کرتے رہیں گے

دکھایا۔ اور اس قول کی حقیقت کھل کر سامنے آگئی کہ: ان اللہ تعالیٰ لا ینزع العلم انتزاعاً ینتزعہ و لکن ینقبض العلم بقبض العلماء؛ اے شک اللہ تعالیٰ علم کو جڑ سے نہیں اکھیرتا مگر اُسے روک لیتا ہے علماء کے روک لینے کے ذریعے، طلب باقی نہ رہی اور عقیدے بگڑ گئے، بیشتر اہل اسلام برائے نام مسلمان رہ گئے اور طریقت و حقیقت سے رکھی تعلق باقی رہ گیا، اسی دوران اس حقیر کے دل میں جذبہ پیدا ہوا اور مریدوں کا مطالبہ اس بات کا باعث بنا کہ مقامات اور احوال و آثارِ جدا مجد سلطان طریقت شیخ ابوسعید ابی الخیر قدس سرہ کو یکجا کروں۔ جن سے طریقت میں آنے والوں کی رغبت بڑھے اور سائکوں کے لئے راہِ سلوک میں رہنما ثابت ہوں۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: "وَاَنَا عَلِيٌّ اِثَارَهُمْ هَمَّتْ دُونَ" (ترجمہ

ایک اور جگہ جماعت اصفیاء

کا ذکر یوں فرمایا: "اولئک الذین ہدی اللہ فہم اقتدہ" (ترجمہ

چونکہ بار بار

کی تباہی اور غارت گری کے واقعات نے میہنہ کے حالات اس قدر ابتر کر دیئے تھے کہ شیخ ابوسعید علیہ الرحمۃ کے آثار میں سے بجز تربت و خانقاہ اور کچھ باقی نہ رہا تھا، اس لئے تلاش بسیار و سعی مسلسل کے بعد کم مواد ہاتھ آیا اور ہر جانب سے منتشر معلومات میں جو حافظے میں محفوظ تھا وہ بھول گیا، اور شغلی الشیخ عن الشعر کے مصداق، توجہ سے ہی نکل گیا۔

شیخ ابوسعید کی عمر ہزار ماہ تھی جو کہ تیرا سی برس اور چار ماہ بنتے ہیں جیسا کہ خود دمِ رخصت اُن کی زبان سے ادا ہوا کہ اُن کو ہزار ماہ پورے ہو گئے اور ہزار سے اوپر یہ گنتی نہیں جائے گی۔ اب اس مدت کو کیونکر ضبط میں لایا جاتا ہے اپنی جگہ محال تھا کہ ان کی ساری زندگی کی حرکات و سکنات کو محیطہ تحریر میں لایا جاسکتا، بہر حال جس قدر اس دعا گو کے بس میں تھا اکٹھا کر دیا اور اس میں انتہائی کوشش کی،

یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اب تم ان کی راہنمائی میں آگے بڑھو۔

برہات کی سند کی تصحیح میں فایت درجہ احتیاط برتی، جس روایت کی سند میں ضعف یا شبہ پایا اُسے حذف کر دیا میری اس کوشش سے پہلے زمانہ امن میں میرے چچا زاد بھائی عالم اجل جمال الدین ابو روح لطف اللہ بن ابی سعد نے ایک مرید کی درخواست پر ایک مجموعہ سپرد قلم کیا تھا جس کے پانچ ابواب تھے اور اُن میں سند کے ساتھ واقعات و حالات بیان کئے گئے تھے۔ ہر باب میں بیان کردہ واقعات کی تشریح میں ایک ایک فصل قائم کی تھی، یہ کتاب اگرچہ مختصر ہے تاہم اپنے مندرجات کے لحاظ سے فاضل مولف کی فصاحت و بلاغت اور خلوص کلی کی آئینہ دار ہے میں یہ تو نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے مقابل کوئی کتاب مرتب کرتا مگر اس قدر ضرور کیا ہے کہ اُن کے جمع کردہ احوال و آثار اور اپنی معلومات، جن کو صحیح پایا انہیں ایک جگہ اکٹھا کر دیا، تاکہ یہ یادگار ہمارے بعد کے لوگوں میں باقی رہے اور فتنہ خراسان کے نتیجے میں جو نقصان ہوا اُس کی تلافی ہو سکے، کیونکہ جوں جوں روزگار زمانہ لوگوں کو ان سے دور کرتا جاتا ہے اُن کے ارادوں میں کمزوری واقع ہوتی جاتی ہے۔ سالیکن راہِ حقیقت کم ملتے ہیں اور علم ہر شخص کے ہاتھ نہیں آتا۔ عمل کرنا اپنی جگہ اکیس ہے، اس راہ کے چاہنے والوں کے لئے ہماری یہ کاوش بھی مفید ثابت ہوگی اور اُس بزرگ دین اور یگانہ عہد کی باتیں، ان کے سلسلے نوازتی رہیں گی اور مدعیانِ طریقت کے لئے باعثِ فرحت ہوں گی، جیسا کہ کہتے ہیں۔

گرتنگِ شکرِ سرمدی نتوانم - باری نگس از تنگِ شکرِ مے رانم  
ترجمہ: اگر شکر کی گون نہیں خرید سکتا تو آخر کار شکر کی گون سے مکھیاں تو ہٹاتا ہوں۔  
بزرگوں کا مقولہ ہے: نیکو کاروں کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے۔

جیسا کہ تمام انسانوں کے حالات و اعمال میں درجوں یعنی آغاز و وسط اور انجام سے خالی نہیں ہوتے اسی لئے میں نے بھی اس مجموعہ کو تین ابواب پر تقسیم کیا ہے۔

باب اول :- یہ باب حضرت شیخ علیہ الرحمۃ کے ایامِ طفولیت سے لے کر چالیس برس کی عمر تک کے احوال پر مبنی ہے جن میں اُن کی تعلیم، ریاضات و مجاہدات، مشائخ و پیرانِ طریقت سے اُن کی نسبتِ علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے سلسلہ طریقت کی تفصیلات درج ہیں۔

**باب دوم :-** یہ باب اُن کے درمیانی عرصہ زندگی سے متعلق ہے، اس کی تین فصلیں ہیں فصل اول میں ان کی کرامات کے واقعات ہیں جو میرے نزدیک ثقہ راویوں سے صحیح ثابت ہیں، فصل دوم میں وہ حکایات درج ہیں جن میں فوائد و نکات بیان کئے گئے ہیں اور بعض ملفوظاتِ مشائخ ہیں جن کا ذکر شیخ نے کیا فصل سوم میں فوائد، نکات، اقوالِ صوفیہ، ادعیہ، اشعار متفرق اور کچھ خطوط ہیں جو مجھ تک پہنچے ہیں۔

**باب سوم :-** یہ باب اُن کے آخری ایام زندگی پر مشتمل ہے۔ یہ تین فصلوں پر منقسم ہے فصل اول میں عند الوفات اُن کی وصیتیں مذکور ہیں، فصل دوم میں حالت و کیفیت وفات کا ذکر ہے اور فصل سوم اُن کرامات پر مشتمل ہے جو ان کی وفات کے بعد ظاہر ہوئیں ان میں وہ کرامات بھی شامل ہیں جن کی خبر انہوں نے زندگی ہی میں دے دی تھی۔

اس مجموعہ کا نام "سرار التوحید فی مقامات ایشخ ابی سعید" رکھا اللہ تعالیٰ سے اس کی تکمیل اور خلق کے لئے موجب ہدایت ثابت ہوگی دعا کرتا ہوں، اختصار کے پیش نظر اسانید حذف کر دی ہیں، اللہ اپنے لطف و کرم سے اہل عقیدہ کے مفصود کو اس سے پورا فرمائے، اور نقصان و غلطی سے اپنی امان میں رکھے،  
وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخَوْرِ بَعْدُ الْكُورِ فَاِنَّهُ خَيْرٌ مِّنْ مَّوْتِنٍ وَمُعِيْنٍ :-

میں اپنی اس کتاب کو بادشاہ اسلام سلطان معظم ابو الفتح محمد بن سام کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کرتا ہوں، چونکہ یہ تحفے مثل اور لافانی وغیر دنیاوی ہے اسی لئے میں امید رکھتا ہوں کہ شہنشاہ عالی مقام اس شایان شان نذرانے کو مقبولیت بخشیں گے، بادشاہ کی امور و فیہ میں دلچسپی ظاہر و باہر ہے اور اس لحاظ سے بھی اس کی مقبولیت کے ہم متوقع ہیں۔ یہ تحفہ لافانی و لافانی ہے کیونکہ اس جہان رنگ و بو میں سوائے متابعتِ سنتِ مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ و اتباعِ سیرتِ اولیاء، سب کچھ فلت سے ہمنار ہونے والا ہے۔ والحمد لله رب العالمین والصلوة علی نبیہ محمد وآلہ  
اجمعین وحسبنا اللہ وحده وهو نعم المولیٰ ونعم المعین :-

## باب اول

# شیخ ابوسعید کے ابتدائی حالات زندگی

ایک وضاحت :- یہاں ہم قارئین کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے شیخ قدس سرہ نے کبھی اپنا ذکر نہیں کیا، یا ہم کے الفاظ سے نہیں کیا بلکہ اپنی بابت یوں فرماتے کہ انہوں نے یوں کہا اور یوں کیا، اگر میں یہاں اس کتاب میں انہی کے الفاظ کو ان کے احوال و واقعات میں استعمال کرتا تو اس کے مطالب عامۃ الناس کے فہم سے قریب نہ ہوتے بلکہ اکثر لوگ ترتیب مفہوم اور سیاق کلام میں غلطی کر بیٹھتے اور کسی کو یاد ہی نہ رہتا کہ شیخ نے انہوں نے کہا، سے خود اپنی ذات مراد لی ہے۔ اور اسی ضمن میں کتاب کو آغاز سے مطالعہ نہ کرنے والے قاری تو ضرور مغالطہ میں پڑتے لہذا اس اندیشے کے پیش نظر اس دعا گو مؤلف کتاب نے جہاں جہاں شیخ نے اپنے بارے میں "انہوں نے کہا" فرمایا وہاں اس کی جگہ لفظ "ہم نے کہا" درج کیا، کیونکہ یہی انداز لوگوں میں معرّفہ و متداول اور ان کے فہم سے قریب تر ہے۔

شیخ نے خود کو "میں" یا "ہم" کے الفاظ سے کیوں نہیں یاد کیا اس میں ایک لطیف نکتہ پوشیدہ ہے، بس عقل مند کے لئے اشارہ ہی کافی ہے۔

شیخ ابوسعید کے والد محترم کا اسم گرامی ابو الخیر تھا جبکہ مہینہ میں انہیں بابا ابو الخیر کے نام سے پکارا جاتا تھا، پیشہ کے لحاظ سے عطار تھے۔ صاحبِ درخ و دیانت اور شریعت و طریقت سے کامل آگاہی رکھتے تھے اور اہل تفتون و طریقت سے وابستگی اور مستقل صحبت حاصل تھی۔

شیخ ابوسعید ابوالخیر علیہ الرحمۃ اتوار کے روز یکم محرم ۳۵۰ھ میں بمقام میہنہ پیدا ہوئے  
ولادت :- آپ کے والد ماجد صوفیہ کی ایک جماعت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اس جماعت  
کا یہ طریق تھا کہ ہفتہ میں ہر رات کسی ایک رکن جماعت کے ہاں اکٹھے ہوتے ماحضر اور اوردونماز  
سے فارغ ہو بیٹھتے تو محفل سماع برپا کرتے، ایک شب آپ کے والد کے ہاں درویشوں کی دعوت تھی  
آپ کی والدہ نے بابا ابوالخیر سے کہا کہ ابوسعید کو بھی ساتھ لے چلو تاکہ درویشوں اور صوفیوں کی نگاہ  
اس پر پڑے، آپ کے والد آپ کو ساتھ لے گئے اور سماع میں مشغول ہو گئے اسی وقت قوال نے  
یہ اشعار لکھے۔

ابن عشق حلی عطائی درویشانست . خود را کشتن ولایت ایشان است  
دینار و درم نہ زینت مردانست . جان کردہ نثار کار آں مردانست  
ترجمہ اشعار :- ۱۔ بلاشبہ عشق جیسی بخشش درویشوں ہی کو عطا ہوئی ،  
اور خود کو قتل کرنا ہی ان کی ولایت ہے۔

۲۔ درہم و دینار مردوں کی زینت نہیں بلکہ شیوہ مردان جان قربان  
کر دینا ہے۔

جو نہی قوال نے یہ دو شعر پڑھے درویشوں پر وجد طاری ہو گیا اور اس رات تا سحر انہی  
اشعار پر رقص کرتے رہے۔ قوال کے بار بار دہرانے سے وہ اشعار آپ کو یاد ہو گئے، اور جب والد  
کے ہمراہ گھر لوٹے تو آپ نے پوچھا کہ ان اشعار کا کیا معنی ہے جن کو سن کر درویش وجد و سرور  
میں آجاتے تھے۔ آپ کے والد ماجد نے فرمایا خاموش جس بات کا پتہ نہ ہو اس سے کیا مطلب بعد  
میں جب شیخ ابوسعید نے مقام حاصل کر لیا اور ان کے والد ماجد جو ارجمت میں چلے گئے تو آپ اکثر  
اپنی گفتگو میں ان اشعار کو دہراتے اور فرماتے کہ آج بابا ابوالخیر ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ اس  
وقت جو کچھ آپ نے سنا تھا اُسے خود بھی نہ سمجھا تھا۔

کہتے ہیں کہ آپ کے والد سلطان محمود غزنوی کے بڑے دوست تھے انہوں



نے میہنہ میں ایک محل تعمیر کرایا تھا جو اب بھی سرلئے شیخ کے نام سے مشہور ہے، جس کی دیوار پچھلے سلطان محمود غزنوی کا نام ان کے لاؤشکر اور خدمتگاران کا ذکر، کندہ ہے، ان دنوں شیخ کسمن تھے، والد سے کہا کہ میرے لئے اس محل میں ایک مکان علیحدہ تعمیر کرائیں جو صرف میرے لئے ہو، آپ کے والد نے فوری طور پر آپ کے لئے محل سراہ کے اوپر علیحدہ مکان کی تعمیر شروع کرائی۔ جب مکان مکمل ہو گیا تو شیخ نے کہا کہ اب اس مکان کی دیوار اور چھت پر اسم ذات اللہ، لکھ دیا جائے، والد نے کہا بیٹے اس کا کیا مطلب؟ آپ نے جواب دیا۔ ہر شخص اپنے گھر کی دیوار پر اپنے امیر کا نام لکھواتا ہے آپ کے والد کو یہ بات بہت پسند آئی اور فرمایا کہ محل سراہ کی دیواروں پر جو کچھ لکھا ہوا ہے۔ مٹا دیا جائے، اُس دن سے آپ کے والد ماجد نے آپ کو اور نظر سے دیکھنا شروع کیا اور دل کو آپ کے معاملات کی طرف متوجہ کیا،

شیخ ابوسعید علیہ الرحمۃ نے قرآن کریم ابو محمد غازی علیہ الرحمۃ سے پڑھا جو اپنے وقت کے صاحب ورع و اتقا، بزرگ ہونے کے علاوہ خراسان کے ممتاز قراء میں سے ایک تھے ان کا مزار مقدس شہر نسائی میں موجود ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب کہ میں قرآن پڑھتا تھا تو میرے قلم و ولایت کی جہان نبائی :- والد مجھے نماز جمعہ کے لئے ساتھ لے جاتے تھے ایک روز راتے میں پر ابوالقاسم بشریابین علیہ الرحمۃ سے ملاقات ہو گئی، یہ بزرگ وقت کے مشاہیر علماء اور کبار مشائخ میں سے تھے اور میہنہ میں سکونت رکھتے تھے، انہوں نے جوہنی مجھے دیکھا تو میرے والد سے فرمایا۔ اے ابوالخیر یہ بچہ کس کا ہے؟ میرے والد نے کہا، میرا، پھر وہ میرے قریب آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور میرے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لاکر آب ذیدہ ہو گئے، پھر فرمایا۔ اے ابوالخیر! میں ایسی حالت میں اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا تھا کہ ولایت کو خالی پاتا اور ان درویشوں کو ضائع ہوتا دیکھتا اب جبکہ تیرے اس بیٹے کو دیکھا تو مطمئن ہو گیا کہ اس بچے کو ولایت میں سے حصہ وافر ملے گا، جب نماز سے فارغ ہو لو تو اُسے میرے پاس لے آنا، ہم جب نماز ادا کر چکے تو

میرے والد گرامی مجھے اُن کی خدمت میں لے گئے، جب ہم اُن کی نشست گاہ میں گئے تو دیکھا کہ ایک طاقتور بہت بلند اُن کے حجرے میں تھا۔ وہ میرے والد سے کہنے لگے۔ ابو سعید کو کا ندھے پر بٹھا کر اونچا کر دو تاکہ طلپتھے میں پڑی ٹکیہ نیچے لے آئے، میرے والد نے شانے پر بٹھا کر مجھے اونچا کیا اور میں نے ہاتھ مار کر وہ ٹکیہ طلپتھے میں سے اٹھالی یہ جو کی ٹکیہ تھی جس کی گرمی کو میں نے اپنی ہتھیلی میں محسوس کیا، ابو القاسم نے وہ ٹکیہ میرے ہاتھ سے لے لی اور بچشمِ پُرْم اُسے دو نیم کیا ایک حصہ مجھے کھانے کو دے دیا اور دوسرا خود کھالیا جبکہ میرے والد کو اُس میں سے کوئی حصہ نہ دیا، میرے والد نے کہا۔ شیخ! کیا بات ہے کہ مجھے آپ نے اس تبرک سے کچھ عطا نہ کیا؟ ابو القاسم نے جواباً فرمایا۔ اے ابو الخیر مجھے یہ ٹکیہ اس طلپتھے میں رکھے ہوئے تیس برس ہو گئے اور مجھ سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ ٹکیہ جس کے ہاتھ میں پہنچ کر گرم ہو جائے گی۔ ایک جہاں اس کے ذریعے زندہ ہو جائے گا، اور اُس پر بات ختم ہو جائے گی۔

اب یہ بشارت پوری ہو گئی کہ وہ شخص تیرا ہی بیٹا ہو گا۔ بعد ازاں ابو القاسم بشر علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ اے ابو سعید! یہ کلمات یاد کرو اور ہمیشہ پڑھا کرو۔ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ۔

میں نے یہ کلمات یاد کر لئے اور مستقلاً اور دِزبان بنائے پھر ہم اُن کی مجلس سے باہر آ گئے میں نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے اُس روز کیا کہا تھا، تا آنکہ پیر ابو القاسم رحلت فرما گئے اور ابو سعید جب پختگی کو پہنچے تو اُن کلمات سے بے شمار فوائد حاصل کئے۔

شیخ ابو سعید فرماتے ہیں جب میں نے قرآن ختم کر لیا تو میرے والد نے فرمایا۔ کل تمہیں معلّم کی خدمت میں جانا چاہیے۔ میں نے اپنے استاد سے کہا میرے والدیوں کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا۔ مبارک ہو، پھر میرے لئے دعا کی اور فرمایا۔ یہ لفظ مجھ سے یاد کرو۔ لِإِنْ مَسْرُومَتُكَ عَلَى اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْكَ الشَّمْسُ،

اگر تیرا ارادہ اور توجہ پلک چھپکنے کی مدت کے برابر بھی اللہ کی جانب ہو جائے تو یہ سارے جہاں کی ملکیتوں سے بہتر ہے، میں نے ان کلمات کو یاد کر لیا، پھر استاد نے کہا۔ مجھے معاف کر دو میں نے کہا۔ معاف کیا اور انہوں نے دعا دیتے ہوئے فرمایا۔ اللہ جل جلالہ تمہارے علم میں برکت دے، اگلے روز میرے والد مجھے ابو سعید عنازیؓ کے پاس لے گئے، وہ امام، ادیب اور مفتی العصر تھے، ایک مدت ان کی خدمت میں رہا۔ اسی اثناء میں، شیخ ابوالقاسم بشر علیہ الرحمۃ کی صحبت میں پہنچا اور ان سے مسلمانوں کی تعلیم حاصل کی۔

آپ نے فرمایا کہ ایک روز شیخ ابوالقاسم بشر نے مجھ سے بندگی و مزدوری میں فرق :- کہا۔ اے ابو سعید! مجاہدہ کر و تا آنکہ لین و دین سے طمع کو نکال باہر کر دو کیونکہ اخلاص، طمع کے ہوتے ہوئے ہاتھ نہیں آتا۔ اس لئے کہ عمل، طمع کے ساتھ مزدوری اور اخلاص کے ساتھ بندگی کہلاتا ہے پھر فرمایا یہ حدیث یاد رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ نے شبِ معراج مجھ سے فرمایا :-

یا محمد ما یتقرب الی المتقرب  
الئی بمثل اداء ما افترضت علیہم  
ولا یزال یتقرب الئی العبد بالنوافل  
حتی احبہ فاذا احبہ کنت لہ  
سمعاً و بصرأ و یداً و مویدا  
فی یسمع و بی یبصر و بی یأخذ  
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرائض کی  
ادائیگی کے ذریعے قربت چاہنے والے اسی  
قدر قریب ہو سکتے ہیں جس قدر فرائض ادا کئے  
ہوں مگر نوافل کے ذریعے میرا بندہ مسلسل مجھ  
سے قریب ہوتا جاتا ہے تا آنکہ میں اسے  
چاہنے لگتا ہوں اور جب میں اسے محبوب  
رکھوں تو میں اس کی سماعت، بصارت، ہاتھ  
اور اس کا مؤید بن جاتا ہوں کہ وہ میرے ذریعے  
سننا دیکھتا اور پکڑتا ہے۔

پھر فرمایا۔ فریضہ کی ادائیگی بندگی ہے، اور نوافل ادا کرنا دوستی، بعد ازاں یہ شعر پڑھے :-

کمال دوست چه آمد دوست بے طعی      چه قیمت آورد آن چیز کش بہا باشد  
عطا دہندہ ترا بہتر از عطا بیقین      عطا چه باشد چوں عین کیمیا باشد

ترجمہ اشعار:- ۱۔ کمال دوستی کا دار و مدار بے طمع دوستی پر ہے۔

اور اس شے کی کیا قدر ہو سکتی ہے جس کی قیمت مقرر ہو،

۲۔ یقیناً تیرے لئے عطا کرنے والے کی ذات اس کی بخشش و عطا سے کہیں بہتر

ہے کیونکہ عطا کی کیا وقعت ہوگی جبکہ خود اس کا منبع کیمیا ہو۔

شیخ ابوسعید نے فرمایا۔ ایک روز ابوالقاسم بشر یا سین علیہ الرحمۃ کی خدمت

خدا سے باتیں:- میں حاضر تھا کہ انہوں نے فرمایا۔ بیٹے! کیا یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے ہمکلامی

کرو؟ میں نے عرض کیا۔ کیوں نہیں۔ فرمانے لگے، جب بھی تنہائی ملے یہ کہو کہ ۵

بے توجہانہاں تورا نتوانم کرد!!      احسان ترا شمار نتوانم کرد

گر بہ تن من زفان شود دھر موی      یک شکر تو از ہزار نتوانم کرد

ترجمہ اشعار:- ۱۔ میرے محبوب! تیرے بغیر چین نہیں آسکتا، تیرے احسان شمار نہیں کر سکتا۔

۲۔ او! اگر میرے بدن کا ہر رُبن موزہ بان ہو جائے تو بھی تیرے ہزار احسانوں کا

ایک شکر ادا نہیں کر سکتا،

میں یہ اشعار اکثر پڑھتا رہا جس کے نتیجے میں کم عمری ہی میں راہ حق مجھ پر کشادہ ہو گئی۔ ابوالقاسم

بشر یا سین نے ۳۸ھ میں بمقام میہنہ رحلت فرمائی شیخ ابوسعید جب بھی میہنہ کے گورستان جاتے

ابتداءً زیارت آپ ہی کے مرقد پر انوار سے فرماتے،

شیخ ابوسعید فرماتے ہیں۔ ایک نابینا بزرگ مسجد میں آکر بیٹھا اور اپنا عصا اپنی پشت

کے پیچھے رکھ دیا۔ اُس نے گفتگو کے دوران یہ بتایا کہ اُس کی مسجد فائقہ شیخ کے در پر ہے، ایک روز

میں اس کے قریب ہوا۔ اس حال میں کہ بستر میرے ہاتھ میں تھا کیونکہ اس وقت استاد سے پڑھ کر

آ رہا تھا، میں نے اس بزرگ کو سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ اور کہا۔ بابا ابوالخیر کے بیٹے ہو؟

میں نے کہا ہاں کہنے لگے۔ کیا پڑھتے ہو جو اب دیا۔ فلاں کتاب۔ کہنے لگے۔ مشائخ نے کہا ہے کہ حقیقۃ العلم ما کشف علی السرائر: مجھے تو معلوم ہی نہ تھا کہ حقیقت کا کیا معنی ہے؟ اور کشف کے کہتے ہیں تا آنکہ ساٹھ برس بعد حق تعالیٰ نے اس قول کا معنی مجھ پر نکشف فرمایا۔

جب شیخ ابو سعید علم لغت کی تھیسس سے فارغ ہوئے تو فقہ کی تحصیل علوم لغت وفقہ :- تعلیم پانے کے لئے مرو تشریف لے گئے۔ اور ایک روز اٹلنے

گفتگو میں فرمایا۔ اُس روز جب میں میہنہ سے مرو کی جانب روانہ ہوا تھا تو مجھے تیس ہزار شریا دتھے، مرو میں آپ نے فقہ کا درس حضرت امام ابو عبد اللہ الحضریؒ سے حاصل کیا، جو اپنے وقت کے امام اور مفتی ہونے کے ساتھ علم طریقت سے کمالاً بہرہ ور اور جملہ ائمہ کرام میں معتبر مانے جاتے تھے وہ ابن سراج کے شاگرد تھے، اور ابن سراج مرنوی کے شاگرد تھے۔ اور مرنوی، شافعی مطلبی رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔

آپ شافعی مسلک تھے، اور اسی طرح اکثر مشائخ جو امام شافعی کے بعد ہوئے فقہی مسلک :- وہ شافعی مسلک ہی تھے، اور اگر کسی شخص نے راہ تصوف اختیار کرنے سے پہلے کسی مسلک سے نمسک کیا بھی تو اللہ جل شانہ نے اپنے کمال لطف و کرم سے اُسے نوازا اور وہ بالآخر مسلک شافعی میں داخل ہوا جیسا کہ شیخ حصریؒ نے کیا، جو کہ بغداد میں تھے، ان کے علاوہ اور کئی شیوخ نے بھی ایسا ہی کیا، اگر ان تمام کے احوال یہاں بیان ہوں تو طوالت کا خدشہ ہے جہاں تک حضرت امام شافعیؒ سے قبل کے مشائخ کا تعلق ہے تو وہ سب کے سب اپنے اپنے مشائخ کے مسلک پر تھے۔

بعض نے کہا کہ شیخ کبیر بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ حنفی مسلک تھے، حالانکہ ایسا نہیں کیونکہ بایزید بسطامی منیر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے مرید اور ان کے سقہ تھے، یہی وجہ ہے کہ حضرت امام نے انہیں بایزید سقا کہا ہے، اور بایزید، مسلک امام جعفر صادق رکھتے تھے، کیونکہ وہ ان کے مرید اور خاندان مبارک مصطفیٰ سلوات اللہ علیہ وسلم علیہ کے امام تھے۔

طریقت میں کسی طرح بھی یہ جائز نہیں کہ مرید اپنے پیر کے علاوہ کوئی مسلک  
مسلک شیخ کی پیروی رکھے یا کسی طرح بھی اپنے مرشد کے عقیدہ اور حرکات و سکنات کے  
خلاف چلے،

ہماری اس بات سے کہ مشائخ عظام مسلک شافعی رکھتے تھے۔ یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ  
اس سے حنفی مسلک کو نقصان پہنچانا مقصود ہے۔ حاشا دکلا ہماری نیت میں مسلک امام سے متعلق ایسی  
کوئی مخالفانہ بات موجود نہیں اور ہم ہر اس غلط خیال سے جو کسی کے دل میں پیدا ہوا اللہ کی پناہ مانگتے ہیں،  
مقام امام ابوحنیفہؒ قدر کہ ہمارے علم میں ہے، بے شک وہ امت محمدیہ کے چراغ اور  
مقتدائے ملت تھے،

مذہب شافعی اور حنفی درحقیقت ایک جیسے ہیں، اور دونوں ائمہ کرام نے جو کچھ کہا قرآن کریم  
کی اتباع میں کہا اور جو کچھ کیا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں کیا، اور بڑھنہس ہی  
ان دونوں حضرات کے معاملے میں بے تعصب ہو کر غور کرے گا تو اسے یہ معلوم ہو گا کہ دونوں ایک  
ہیں اگر ان کے مابین فروعی اختلاف نظر آئے تو اسے اختلاف اہل بیت رحمتہ امیر امت کا باہمی  
اختلاف رحمتہ ہے، کے نکتہ نظر سے دیکھا جائے اور اگر دونوں میں سے کسی ایک نے دین کے بلے  
میں تباہل برتا ہوا ہے مَاجِعِلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ دین کے معاملہ میں  
تم پر کسی گناہ کو شرط قرار نہیں دیا گیا، کے مطابق مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے  
فرمان "بُعِثْتُ بِالْحَنْفِیَّةِ السَّهْلَةِ السَّهْلَةِ" مجھے راست، نرم اور فیاض دین  
دے کر مبعوث کیا گیا، کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے نہ کہ تعصب کو راہ دی جائے جیسا کہ اکثر و  
بیشتر ہوتا آیا ہے، اور یہ جان لینا چاہیے کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا حق کے مطابق فرمایا، اور یہ  
بزرگان کرام اُس تعصب سے جو ہماری طبائع میں رچ گیا ہوا ہے یقیناً پاک صاف تھے، جیسا کہ  
بإِسْنَادٍ صَحیح ہم تک یہ روایت ابوالدرداء اور دی سے پہنچی انہوں نے کہا: دَایْتُ مَبَالِغِ بْنِ

انس و اباحنیفة رضی اللہ عنہما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلوٰۃ العشاء الاخیریۃ و ہما یتذاکرا و یتدارسان حتی اذا وقفا احدهما علی القول الذی قال بہ و عمل علیہ امسک احدهما عن صاحبہ من غیر تعنتٍ و لا تعسفٍ و لا تخطئة لواء حد منہما حتی صلیا الغداۃ فی مجلسہما ذلک

ترجمہ: میں نے مالک بن انس اور ابوحنیفہ رضی اللہ عنہما کو بعد از نماز عشاء مسجد نبوی میں کسی معاملے پر بات چیت اور بحث و تمحیص کرتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ جب ان میں سے کوئی ایک کسی ایسے قول پر مطلع ہوا کہ جو قول و فعل رسول سے ثابت تھا تو وہ دوسرے کے حق میں بغیر اعتراض، تاویل، لاماصل اور غلطی کے دست بردار ہو جاتا اور یہ سلسلہ ان کے مابین جاری ہا تا آنکہ دونوں نے صبح کی نماز اکٹھے ادا کی۔

یہ جاننا ضروری ہے کہ طائفہ صوفیہ کا طریق احتیاط سنت پر عمل کی حیرتناک مثال: - روی ہے اور شایخ کرام نے ابتداء مجاہدہ میں اپنے اوپر اکثر بعض چیزیں واجب کر لی ہیں جن میں سے کچھ کا تعلق سنت سے اور بعض کا نوافل سے ہے جیسا کہ شیخ بو عمر سحوانی نے کہا ہے کہ سید الرسل صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی اس حدیث مبارک کہ: "الید الیمنی لا عالی البدن والید الیسری لا سافل البدن" دایاں ہاتھ بدن کے اوپر والے حصے کے لئے ہے اور بائیں ہاتھ بدن کے نچلے حصوں کے لئے" کے مطابق آج تیس برس ہو گئے ہیں کہ میرا دایاں ہاتھ کبھی زیر ناف نہیں پہنچا اور بائیں ہاتھ بالائے ناف نہیں پہنچا۔

بشرفانی علیہ الرحمۃ پاؤں میں جو تا کبھی نہیں پہنتے تھے، آپ کہتے تھے دھرتی کا احترام: - کہ قول باری ہے: "اللہ الذی جعل لکم

الارض بساطاً لہ ترجمہ

چونکہ زمین اللہ کا بنایا ہوا فرش ہے۔ لہذا میں یہ روا نہیں سمجھتا کہ اس کے بچھانے ہوئے فرش پر جوتے سمیت پاؤں دھروں، آپ ساری زندگی پا بربہ نہ ہی چلتے تھے اسی وجہ سے انہیں حافی (برہنہ پا) کے لقب سے پکارا گیا۔

شیخ ابوسعید قدس سرہ نے فرمایا۔ جو کچھ میں نے پڑھا اور کتابوں میں دیکھا یا سنا کہ اُس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا یا اس کے بجالانے کا حکم دیا اُس پر عمل کیا! اور پیغمبران عظام علیہم السلام کے جملہ اعمال پر بھی عمل کیا، رجن کی تفصیل اپنی جگہ پر آئے گی،

الغرض جملہ مشائخ کی زندگیاں سنت مصطفیٰ کے عملی مرقع صوفیہ اور مسلک شافعی :- تھیں، اور نوافل تو ان کا معمول تھے۔ وہ ہر اس عمل کو

اختیار کرتے جس میں مجاہدہ نفس اور احتیاط کا عنصر زیادہ شامل ہوتا تھا، یہی وجہ ہے کہ صوفیہ اکثر شافعی المذہب ہوتے تھے کیونکہ امام شافعی کے ہاں امور دین میں سختی اور شدت برتی گئی ہے۔ صوفیہ کرام کا شافعی مسلک اپنانا، اس مسلک میں مجاہدہ نفس پر زیادہ زور دینے کے سبب ہے نہ کہ اُن کے ہاں دونوں مسلوں میں کسی اختلاف یا فرق کی وجہ سے،

میرے نزدیک ائمہ اربعہ کی مثال نلفاء راشدین کی سی ہے، کہ سب کو حق پر گردانتا ائمہ اربعہ :- ہوں اور تہہ دل سے ہر ایک کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے فضائل و خصائل کو ماننا ہوں، اُن کی خلانت کی حقیقی گواہی دیتا ہوں کسی طرح انکار نہیں کرتا اور امت مسلمہ کے حق میں دُعا کرتا ہوں کہ ان کے دلوں سے صحابہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ سلف اور شائخ کبار رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بغض و عناد اور طعن و تعصب نکل جائے، اور وہ سب کو سچا مانیں، کہ ہر شخص کو اپنے سے بہتر تصور کرنا انتہائی نیک روش ہے، اور ہر حال میں اعتراض کرنے

لہذا وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو بھونا بنا دیا۔



سے احتراز بہت پسندیدہ عمل ہے، جو شخص دوسروں کے گناہ ٹوٹتا ہے۔ اس کے لئے اپنے نفس کی اصلاح زیادہ بہتر ہے۔

اللہ سب کو اپنے جو دو کرم کے ذریعے اپنی رضا سے قریب فرمائے شیخ ابو سعید نے پانچ سال مسلسل امام ابو عبد اللہ حسری سے مختلف و متفق احادیث کی تعلیم حاصل کی تعلیم مکمل ہوئی تو امام موسوف رحلت فرما گئے۔ ان کی قبر مرو میں ہے، بعد ازاں آپ نے مزید پانچ برس تک امام ابو بکر نقال مروزی سے فقہ کا درس لیا۔ درس نقال میں شیخ ناصر مروزی، شیخ ابو محمد جوینی اور شیخ ابو علی شنجی آپ کے ہم درس تھے جو مقتدائے جہان تھے، اس مدت میں آپ نے دو دروس امام نقال سے مکمل کئے۔ مرو کے بعد آپ نے سرخس کا ارادہ کیا جہاں امام ابو علی زاہد بن احمد سے مشرف تلمذ حاصل کیا، امام موسوف مفسر، محدث اور فقیہ تھے سرخس میں مذہب شافعی کو انہوں نے عام کیا۔

یہ ائمہ کرام ہی تھے جن کے نفوس قدسیہ کے دیسے سے ان کے علاقوں کے لوگوں نے فتنہ اعتزال سے نجات حاصل کی اور مذہب شافعی میں داخل ہوئے، جیسا کہ حمید محمودی نے شہرستانہ، فراہ اور نسا میں بو عمر اور فراہی نے استوا اور خوجان کے علاقوں میں ابو بابہ میہنی نے ایبورد اور خاوران کے شہروں میں اور بو علی فقیہ نے سرخس کے مقام پر اس کا رخیر کو انجام دیا۔ حجتہ اللہ علیہم اجمعین شیخ ابو سعید صبح کے وقت بو علی فقیہ سے تفسیر ظہر کے وقت علم اصول اور عصر کے وقت اخبار رسول کا علم حاصل کرتے تھے، بو علی فقیہ کی تربت سرخس میں ہے۔ آپ بو علی فقیہ سے اسی ترتیب کے ساتھ علم حاصل کرنے کے دوران لقمان سرخس کو دیکھا جو راکھ کے شیا پر بیٹھے اپنی پوستیں پر پوند سی رہے تھے، لقمان عقلائے مجاہدین میں سے تھے۔ ابتداء میں بہت ریاضات و مجاہدات کئے اچانک ایسا کشف ہوا کہ عقل جاتی رہی جیسا کہ شیخ نے کہا کہ نقمان ابتداء میں مرد مجتہد اور متقی تھے، بعد ازاں ان میں جنوں کے آثار ظاہر ہوئے جس سے ان کے مجاہدات کا تسلسل ٹوٹ گیا کسی نے نقمان سے پوچھا نقمان! وہ کیا تھا اور اب یہ

یہ سب بہ جواب دیا جس قدر بندگی زیادہ کی ہے۔ لازمی امر ہے کہ اسی قدر زیادہ تھک گیا ہوں گا۔ لہذا میں نے بارگاہ ایزدی میں عرض کیا۔ اپنی ابادشاہوں کا دستور ہے کہ جب اُن کے غلام بوڑھے ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینے میں تو غالب بادشاہ ہے اور میں تیری بندگی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اب مجھے آزاد فرمادے۔ اتنے میں ندا آئی کہ اے نعمان! تجھے آزاد کیا، اور آزاد اس طرح کیا کہ اُن کی عقل سلب کر لی۔

شیخ ابوسعید اشرف فرمایا کہ تھے کہ نعمان ایزدی سے اللہ کا آزاد کردہ ہے۔ شیخ نے کہا کہ میں نعمان کے نزدیک ہوا۔ وہ بدستور پوتین پر پیوند لگانے میں مصروف تھا اور میں اس کی طرف دیکھنے میں مشغول، شیخ اس طرح نعمان کے قریب کھڑے تھے کہ ان کا سایہ نعمان کی پوتین پر پڑ رہا تھا۔ جب نعمان نے پیوند لگایا تو کہا۔ اے ابوسعید! میں نے اس پیوند کے ساتھ نہیں بھی اس پوتین پر سی دیا ہے، پھر اٹھا میرا ہاتھ پکڑا اور پیر ابو الفضل حسن کی خانقاہ پر لے گیا، دروازے پر آواز دی، پیر ابو الفضل باہر آئے نعمان نے میرا ہاتھ اُن کے ہاتھ میں دے کر کہا۔ اے ابو الفضل! اس پر نو بندہ کرو کہ یہ تمہاری ملکیت ہے بلاشبہ پیر ابو الفضل اپنے عہد کے ملندہ پایہ صوفی تھے۔

پیر ابو الفضل حسن کے اس جہاں سے رخصت ہونے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ کے بعد جب کہ شیخ ابوسعید درجہ کمال کو پہنچے تو اُن سے سوال کیا گیا کہ یہ رتبہ بلند کہاں سے حفا ہوا؟ فرمایا۔ پیر ابو الفضل کی ایک نظر سے اور وہ اس طرح کہ اک روز میں سرخس میں بوعلی فقیہ نے تحصیل علم کے دوران، نہر کے کنارے بارہا تھا کہ سامنے سے پیر ابو الفضل آنکے، انہوں نے جگہ سے اسی اک نظر مجھ پر ڈالی اور اس روز سے آج تک جو کچھ بھی رکھتا ہوں انہی کی دین ہے۔

شیخ کہتے ہیں کہ پیر ابو الفضل نے میرا ہاتھ پکڑا اور خانقاہ میں اسم ذات کی جان نوازیوں سے گئے چوتڑے پر بیٹھے تو ایک جلد اٹھائی اور مطالعہ کرنے لگے میرے دل میں بہ نیاں گذر رہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کی عبادت ہوتی ہے کہ وہ کتاب کس فن میں

ہوگی، پیر کو معلوم ہو گیا اور کہا۔ اے ابوسعید! ایک لاکھ چوبیس ہزار مرسلین علیہم السلام جو اس دنیا میں آئے تو سب نے اپنی امتوں کے لئے ایک ہی نطق اللہ ہی کو مقصود ٹھہرایا اور کہا کہ میں اس کے ہوجاؤں، افراد جن کو سماعت حاصل تھی وہ یہی کلمہ کہتے رہے، تاکہ سر یا وہی کلمہ ہو کر رہ گئے، جب اپنے تمام وجود سمیت اس کلمہ کے ہو کر رہ گئے تو اسی میں منغرق ہو کر پاک صاف ہو گئے پھر یہی اسم ذات اُن کے دل میں ظاہر ہوا اور وہ اس کے زبانی کہنے سے بے نیاز ہو گئے۔ نیز فرماتے ہیں کہ اس بات نے میرا دل موہ لیا اور اُس رات نیند نہ آئی، حتیٰ کہ جب صبح کی نماز اور ادود وظائف سے نارغ ہوا تو سورج نکلنے سے پہلے پیر سے اجازت لی اور درسِ تفسیر میں شامل ہونے کے لئے بوعلی فقیہ کے درس میں بیٹھا، اس روز درس کا آغاز اس آیت سے ہوا۔ "قتل اللہ شو ذرہوفی خوضہم یلعبون"۔

شیخ کہتے ہیں کہ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے سینہ کو کھول دیا واد یہائے محبت : کیا ہے اور مجھے مجھ سے چھین لیا گیا، امام بوعلی فقیہ نے میرے باطن کے اس تغیر کو دیکھ لیا، کہنے لگے۔ کل کہاں تھے؟ میں نے عرض کیا پیر ابو الفضل حسن کے پاس فرمایا۔ اٹھو اور پھر وہیں چلے جاؤ کہ تیرا ان معانی بلند سے اس درس کی طرف آنا حرام ہے، میں پیر ابو الفضل کے پاس چلا گیا سخت حیران کہ سر اپا کلمہ اسم ذات ہو چکا تھا، جب پیر نے دیکھا تو فرمایا۔ اے ابوسعید! مست ہو گئے ہو کہ اب پس و پیش کا بھی پتہ نہیں، میں نے کہا۔ یا شیخ! کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا۔ آؤ، بیٹھو اور اس کلمہ کے ہوجاؤ کہ یہ کلمہ تجھ سے کئی کام رکھتا ہے۔ شیخ ابوسعید فرماتے ہیں کہ ایک مدت تک اُن کی خدمت میں گفتار حق کے ساتھ اس کلمہ کا حق ادا کرتا رہا۔ ایک روز پیر نے فرمایا۔ اے ابوسعید! اس کلمہ کے حروف کے دروازے تجھ پر کھول دینے گئے اب لشکر کے لشکر تیرے سینہ پر دھاوا بولیں گے، طرح طرح کی وادیاں دیکھو گے، پھر کہا تجھے

گئے اٹھو اور خلوت طلب کر دو اپنے اور لوگوں کی جانب سے منہ موڑ لو، اور نظارہ و تسلیم کی کیفیت میں کھو جاؤ۔ شیخ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے وہ سارے علوم و فنون ایک طرف رکھے اور میہنہ کیا، یہاں گھر کے اُس ایک کونے میں بیٹھ گیا، انہوں نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا، سات سال وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہا، جو نہی غفلت یا ادنگھ حملہ کرتی تو مخراب میں سے ایک سپاہی تیشہ، ہتھیار لے کر نکلتا اور انتہائی ہیبت و خوف طاری کر دینے والی آواز میں کہتا، ابو سید! استل اللہ! دکھو اللہ! میں دن رات اُس خوف سے سونہ سکتا، اور اللہ اللہ کرتا رہتا! آنکہ میرے پوسے وجود میں سے اللہ اللہ کا آوازہ بلند ہونے لگا، اور میں پھر پیر ابو الفضل حسنؒ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیر ابو الفضل حسنؒ، شیخ ابو سعید کے پیرِ صحبت تھے، جبکہ خود پیر ابو الفضل شیخ ابو نصر سراج علیہ الرحمۃ کے مرید تھے، جنہیں طاؤس الفقرا کہا جاتا ہے، علمِ طریقت و حقیقت میں اُن کی تصانیف ہیں، ان کا مسکن لوس تھا۔ مرتدہ بارک بھی وہیں ہے۔ ابو نصر سراجؒ نے ابو محمد عبد اللہ بن محمد تمش کے ہاتھ پر بیعت کی تھی یہ عظیم صوفی اور یگانہ عصر بزرگ تھے، بغداد میں دنات پانی شیخ المرشید سید الطائفیؒ کے مرید تھے اور جنیدؒ سری سقطیؒ کے مرید تھے، سری سقطیؒ معرفت کرخیؒ کے مرید تھے اور وہ داؤد ظانیؒ کے مرید تھے۔ اور وہ حبیب حجازی کے مرید تھے اور وہ حسن بصری کے مرید تھے اور وہ امیر امرئین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے مرید تھے جبکہ حضرت علیؒ سید الاولین و الاخرین محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مرید اور داماد تھے،

جیسا کہ گزر چکا کہ آپ دوسری بار شیخ ابو الفضل حسنؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنی خانقاہ میں انہیں ایک جگہ عطا فرمائی، اور سلسلِ آپ کے انعام پر نظر رکھتے ہوئے تہذیبِ اخلاق اور ریاضات میں آپ کی نگرانی فرماتے رہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ایک رات جماعت سورہی تھی، خانقاہ اور قبضے کے سب دروازے بند تھے اور میں پیر ابو الفضلؒ کے ساتھ چوتھے پر بیٹھا تھا، معرفت کی گفتگو جاری تھی کہ ایک مسئلہ میں اشکال پیدا ہوا۔ اتمانؒ کو دیکھا کہ خانقاہ کی چھت سے اُڑ کر نیچے ہمارے درمیان بیٹھ گئے اور اس طرح سے مسئلہ کی تشریح بیان کی کہ میرا

اشکال رفع ہو گیا اور وہ دوبارہ اُڑ کر دشندان سے نکل گئے۔ پیر ابو الفضل نے کہا اے ابوسعید! اس شخص کی خانقاہ میں منزلت دیکھتے ہو؟ میں نے کہا۔ دیکھتا ہوں، کہا کہ پیر دی گئے جانے کے قابل نہیں! میں نے کہا۔ کیوں؟ کہا۔ اس لئے کہ علم نہیں رکھتا۔

شیخ ابوسعید نے جب ایک مدت خانقاہ ابو الفضل میں گزار دی تو

عشق کی تنہائیاں پیر مے اُن سے کہا کہ وہ ان کی خلوت گاہ میں آجائیں، پھر ایک مدت تک پیر نے اُن کے ریاضات و مجاہدات کی نگرانی فرمائی بعد ازاں اُنہیں ان کی جلسے سکونت

یہنہ بھیج دیا اور حکم دیا کہ والدہ کی خدمت میں لگ جاؤ، شیخ ابوسعید میہنہ چلے آئے اور اپنی خلوت گاہ میں بیٹھ گئے زہد پر دوام کیا، اس دوران اس قدر وسواس پیدا ہوا کہ درو دیوار تک کو دھو ڈالتے

اور وزن کرنے میں کتنے ہی لوٹے پانی کے صرف کر ڈالتے، ہر نماز کے لئے غسل کرتے کسی دیوار پر تکیہ نہ کرتے کسی بستر پر پہونہ رکھتے اس سارے عرصے میں اُن کے پاس ایک ہی پیرا ہی تھا جب

بھی پھٹ جاتا اس پر ایک پیوند لگا دیتے یہاں تک کہ پیوند لگاتے لگاتے اُس کا وزن بیس سیر کو پہنچ گیا، کبھی کسی سے جھگڑا نہ کرتے ضرورت پڑنے پر بھی کسی سے بات نہ کرتے، دن کے وقت

کچھ نہ کھاتے اور زمان کے ایک ٹکڑے سے افطار فرماتے، رات کو بیدار رہتے، اپنی خلوت گاہ کی ایک دیوار میں اپنے قد کے برابر جگہ بنالی ہوئی تھی۔ دروازے بند کر کے اُس میں کھڑے ہو جاتے

اور ذکر و فکر الہی میں مشغول ہو جاتے، کانوں میں روئی ٹھونس لیتے کہ کچھ سننے نہ پائیں، اور اس طرح اُن کی توجہ منتشر نہ ہو، اپنے باطن پر اس طرح سے توجہ کرتے کہ دل میں سوائے اللہ کے کسی شے

کا گزرتک نہ ہوتا، خلق سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کر لی تھی، مسلسل اسی تجرد و انفرادی زندگی سے اُن میں لوگوں سے ملنے کی تاب باقی نہ رہی اور بالآخر وہ کوہِ دیبا بان کی طرف نکل گئے وہیں

رہتے اور مباحات جنگل میں سے تناول فرماتے ایک ماہ بیس دن گم رہے، ادھر اُن کے والد ماجد دن رات تلاش کرتے مگر کہیں پتہ نہ پاتے، آخر کسی کارواں یا دوہقان نے انہیں دیکھ لیا اور آپ کے والد کو اطلاع کر دی وہ فوراً گئے اور انہیں واپس لے آئے والد کی خوشنودی کی خاطر وہ

آگے مگر شہر میں پھر گزارہ نہ کر سکے اور دوبارہ صحرا کی جانب نکل گئے، کئی لوگوں نے شیخ کو بیابان میں سفید لباس میں بطوس ایک بارعب بزرگ کے ہمراہ دیکھا، بعد میں جب کسی نے پوچھا کہ وہ شیخ پیرساں کون تھے تو جواب دیا کہ خضر علیہ السلام تھے میں نے شیخ ابوالقاسم جنید بن علی الشرمقانی کے ہاتھ سے لکھی ایک تحریر دیکھی جس میں انہوں نے کہا تھا میں شیخ ابوسعید کے ساتھ میہنہ کے راستے میں جا رہا تھا کہ انہوں نے پہاڑ کے سامنے مجھ سے کہا۔ اے ابوالقاسم یہ پہاڑ وہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر لے گیا جیسا کہ فرمایا: **وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا**۔

پھر اُس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا جو کہ ادریس علیہ السلام کی مسجد کے نام سے مشہور ہے، اور وہاں سے دو فرسنگ کے فاصلہ پر حرد اور تیاران کے مقامات ہیں پھر کہا کہ اس پہاڑ میں کچھ لوگ مشرق و مغرب سے آتے ہیں اور رات کو یہیں ہوتے ہیں، اور انہوں نے کئی مساجد یہاں بنا رکھی ہیں میں بھی کئی مرتبہ اس جگہ رہا ہوں، ایک رات کو میں اسی پہاڑ پر تھا اور اُس میں ایک تو وہ ایسا پہاڑ ہے باہر کو نکلا جواب ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں جائے اور نیچے کو نگاہ کرے تو خوف سے بے ہوش ہو جائے اس تو دے پر میں نے سجادہ بچھایا اور خود سے کہا کہ دو رکعت نماز میں سب اقرآن کریم اللہ کی توفیق کے ساتھ ختم کروں گا، اسی لمحے یہ خیال بھی دل میں آیا کہ اگر نیند آگئی تو نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا، جب میں نے قرآن کریم کا ایک حصہ پڑھ لیا اور سجدے میں گیا تو نیند نے غالب کیا حالت خواب میں نیچے گر گیا، جب خواب سے بیدار ہوا تو خود کو ہوا میں معلق پایا، میں نے امان کی درخواست کی، اور حق تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ مجھے پہاڑ کی چوٹی پر لے آیا۔

اکثر دہشتیز شیخ ابوسعید کی نشست رباط کہن میں ہوتی تھی اور یہ ابورد کے راستے میں میہنہ کے کنارے ایک سراپے ہے۔ ہمارے شیخ نے اکثر ریاضات و مجاہدات یہیں مکمل کئے۔ مرد کے راستے میں میہنہ کے دروازے سے نزدیک ایک اونچائی ہے جسے زعقل کہتے ہیں، اسی طرح حطوس

کے رتے میں سرکلہ کے نام سے میہنڈ سے دو فرسنگ کے فاصلے پر دامن کوہ میں ایک اور سراپے ہے اور ایک سراپے گورستان کے نام سے میہنڈ کے دروازے پر واقع ہے

آپ نے کہا کہ ایک روز خوب دلدل ہو رہی تھی، میرا دل حد درجہ تنگ ہو رہا تھا اور کیفیت حضور مغمود تھی، پکے سے نکلا اور اپنے گھر کے دروازے پر آن بیٹھا، میری والدہ نیچے آئیں اور آواز دی کہ اندر آ جاؤ، میں نے اچھا سا جواب دیا جب مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ چلی گئیں تو اٹھا جوتا ہاتھ میں لیا اور رباط گورستان چلا گیا، کچھ آگے پہنچا تو دیکھا کہ پانی چل رہا ہے۔ پاؤں دھو کر جوتا پہن لیا اور دروازے پر دستک دی، نگہبان نے در کھول دیا، وہ میرے جوتے کو دیکھتا جاتا تھا اور متعجب ہو کر کہتا تھا، اس کیچڑ و دلدل واسے دن میں اس کے جوتے خشک ہیں، الغرض میں داخل ہوا، اندر ایک مکان تھا میں اُس میں داخل ہوا اور دعا کی کہ اے بار خدایا! تجھے تیری خدائی خدانہی عظمت، جلال کبریائی، سلطانی، پاکی و کامرانی کا واسطہ ہے کہ جو کچھ تیرے بندگان خاص نے چاہا اور تو نے انہیں عطا فرمایا اور ہر دہ چیز جو انہوں نے نہیں چاہی اور ان کی سمجھ اس تک نہیں پہنچی مگر تو نے اُن کے لئے مخصوص فرمائی اور وہ شے جو تیرے پوشیدہ علم میں ہے کہ کسی کو اُس کی خبر نہیں، نہ کوئی اسے پہچانتا اور جانتا ہے مگر صرف تیری ذات برحق، کہ تو اُس سے اس نبی کو محروم نہیں فرمائے گا، جب میں نے یہ دعا کی تو پھر باہر آیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ مذکورہ تمام مقامات حضرت شیخ کی عبادت گاہیں تھیں جب میہنڈ میں ہوتے تو اکثر اپنی جگہوں میں رہتے اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہیں ایسی ہیں کہ اُن کا ذکر باعث طوالت ہوگا، ان جگہوں کے ذکر سے سوائے اس کے اور کوئی فائدہ مقصود نہیں کہ اگر کسی کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ اُن کی زیارت کرے۔

الغرض شیخ اکثر لوگوں سے بھاگ کر ان جگہوں پر تنہا عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے اور ان کے والد ماجد مسلسل اُن کو ایک ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ کے بعد واپس لاکر خوب نگہداشت کرتے تاکہ وہ تنگ نہ آجائیں۔

پدیشے کے اندیشے اور عشق کی رازداریاں: جب میں نماز سے فارغ ہوتا تو گھر

آپ کے والد بیان کرنے میں کہ ہر رات کا دروازہ بند کر کے زنجیر ڈال دیتا اور کان لگائے رکھتا کہ ابو سعیدؓ سو جاتے، جب وہ سڑک یا یہ پر رکھ لیتا اور میں یہ جان لیتا کہ وہ سو گیا ہے تو میں بھی سو جاتا۔ ایک مرتبہ نصف شب کو میری آنکھ کھلی تو ابو سعیدؓ کو کمرے میں نہ پایا، اٹھا اور پورے گھر میں تلاش کیا مگر بے سود، دروازے پر گیا تو زنجیر نہیں لگی تھی۔ پھر آکر سو گیا، صبح کی اذان کے وقت وہ دروازے پتے داخل ہوا۔ اور آکر سو گیا چند راتیں میں نے کان لگائے رکھے اور وہ اسی طرح کرتا رہا میں نے بھی اُس سے کوئی ذکر نہ کیا، بلکہ یہ ظاہر کرتا رہا کہ مجھے علم ہی نہیں، مگر ہر رات اس کی اس طرح نکل جانے سے مجھے شفقت پدیری کے باعث طرح طرح کے اندیشے لاحق ہو گئے، کیونکہ الصدیق موعِ بسؤال شن اور میں خود سے کہتا تھا کہ جو ان ہے اور الثاب شعبۃ من الجنون کے مصداق کہیں شیاطین جن یا انس نے اُس کا راہ نہ روک لیا ہو، مختصر یہ کہ میں نے سٹے کر لیا کہ ایک رات اُس کا تعاقب کر کے پتہ چلا لوں کہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے، اپنے معمول کے مطابق ایک شب جب وہ اٹھا اور نکل کھڑا ہوا تو میں بھی فاصلہ رکھ کر اس طرح اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ اُسے میرا پتہ نہ تھا وہ رباط ہیں پہنچ کر اس کے اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ میں اس رباط کی چھت پر چڑھ گیا، وہ رباط کے اندر کی مسجد میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر لیا، میں اُس جگہ روشنہ ان سے دیکھنے لگا، مسجد میں ایک جگہ رسی لکڑی سے بندھی پڑی تھی اُس نے رسی اور لکڑی اٹھائی اور مسجد کے ایک کونے میں کنویں پر چلا گیا، رسی اپنے پاؤں میں باندھ کر اُس لکڑی کو کنویں کے منہ پر اُفقار رکھ کر خود کنویں میں اُٹا لٹک گیا پھر قرآن کو ابتداء سے تلاوت کرنا شروع کیا میں سنتا رہا آنکہ سحر ہونے تک قرآن کریم ختم کر لیا پھر خود کنویں سے باہر نکل آیا، لکڑی کو اپنی جگہ رکھا دروازہ کھول کر باہر آ گیا، اور رباط کے درمیان وضو کرنے میں مشغول ہو گیا، میں چھت سے فوراً اُترا اور گھر آ کر آرام سے لیٹ گیا، تھوڑی دیر بعد وہ آیا اور حسب عادت سر رکھ کر سو گیا، الغرض میں اپنے ہمیشہ کے معمول کے مطابق اس کو بیدار کرتا



اور جماعت میں شامل ہونے کو اکٹھے باتے، اس کے بعد چند راتیں میں نے اس پر نگاہ رکھی تو اس کو اسی معمول پر قائم پایا۔ اور ایک مدت وہ ایسا ہی گزارا۔

ایک معمول ابو سعید کا یہ بھی تھا کہ ہاتھ میں جھاڑو لئے مساجد میں صغافی کرنے رہتے اور کمزوروں و ضعیفوں کا ہاتھ بٹاتے، کئی راتیں شہد مقدس کے دروازے پر لگے درخت سے نود کو معلق کر کے ذکر و نکر میں گزاریں، ہر حال میں اور سخت موسم سرما میں بھی ٹھنڈے پانی سے غسل فرماتے اور درویشوں کی خدمت خود کرتے تھے۔

ایک مرتبہ شیخ نے کہا۔ میں یہ کہا کرتا تھا کہ عم، عمل اور مراقبہ کی کیفیت پیدا ہو چکی اب ان تمام سے خود کو غائب کرنا چاہیے تاکہ ان کا اساس بھی فنا ہو جائے۔ تلاش شروع کی مگر سوائے خدمت درویشان کسی چیز میں اس کیفیت کا حصول ممکن نہ پایا۔ جب اللہ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کو نفس کو زیر کرنے کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، پس میں خدمت درویشان میں مصروف ہو گیا اُن کے بیٹھنے و نگو کرنے اور پاخانہ کی جگہ کو سانا، کزنا، ایک ٹوکرو اٹھانے رکھنا اور سارا گند اُس میں ڈال کر باہر لے جانا۔ ایک عرصہ جب اسی معمول پر قائم گذر گیا، اور یہ میری عادت میں داخل ہو گیا، تو درویشوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ کیونکہ کوئی چیز نفس پر اس سے بھاری میں نے نہیں دیکھی، جو مجھے دیکھتا پہلے پہل تو ایک دینار دیتا تھا۔ اور کچھ عرصہ گذر جاتا تو یہ معاوضہ گھٹ جاتا اور ایک دانق رہ جاتا، پھر اس قدر گھٹنا کہ ایک کشمش کے دانے تک آ پہنچتا، اور بالآخر کچھ بھی نہ رہتا، ایک روز جماعت درویشان آئی اور کوئی کشادگی کی صورت پیدا نہیں ہو رہی تھی، میرے سر پر دستار تھی میں نے وہ اُن کو پیش کر دی۔ اس کے بعد جو تاج ڈالا، پھر جبہ کا اندرونی استر اور اس کے بعد بیرونی استر بھی اُن کے لئے بیچ ڈالا۔ میرے والد نے ایک روز مجھے سر پہنہ اور بخیر جبہ کے دیکھا تو کہا۔ بیٹے! آخر اس انداز کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا۔ یہ میہنہ کے اس نوجوان کی وہ باتیں ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے،

شیخ ابو سعید پر اب مساجد میں جھاڑو پھرتے اور اپنا مال و جاہ درویشوں اور خلقِ خدا پر خرچ کرتے

رہے، چاہے ایک لقمہ نان کیوں نہ ہوتا جب کبھی کوئی مسئلہ مشکل پیش آجاتا تو فوراً اپنے پیر ابو الحسن سن کے پاس مرخس تشریف لے جاتے اور اشکال رفع ہو جاتا تو واپس آجاتے۔

آپ کے ایک مرید شیخ عبدالصمد کی زبانی یہ صحیح روایت ہم تک پہنچی کہ بسا اوقات جب مرخس جاتے تو ہوا میں اڑ کر جاتے، مگر سوائے ارباب تقویٰ کے کوئی اور انہیں اس حالت میں نہ دیکھ سکتا، پیر ابو الفضل حسن کے ایک مرید احمد نامی تھے انہوں نے ایک روز آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا تو پیر ابو الفضل کے پاس جا کر آپ کے آنے کی اطلاع دی، اور کہا کہ ہوا میں معالق آ رہے ہیں پیر نے پوچھا تو نے انہیں دیکھا، کہا میں نے دیکھا، پیر نے فرمایا۔ دنیا سے رخصت نہ ہو گئے جب تک اندھے نہ ہو جاؤ، شیخ عبدالصمد کہتے ہیں کہ احمد آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے جیسا کہ شیخ ابو الفضل نے اشارہ کیا تھا۔

شیخ ابوسعید نے ایک مدت اسی طرح مجاہدہ جاری کہا، اور پیر ابو الفضل حسن کی خدمت میں ایک بار پھر مرخس چلے گئے، ایک سال مزید وہاں رہے جس کے دوران پیر نے انہیں دُرح طرف کی ریاضتوں سے گزارا۔

کہتے ہیں کہ پیر ابو الفضل حسن نے آپ کو فرقہ خفایت عطا فرمایا مگر یہ روایت درست نہیں کیونکہ ان کی پوری زندگی کے دوران آپ مجاہدات میں مشغول رہے فرقہ پنہنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ پیر ابو الفضل حسن اللہ کو پیار سے ہو گئے۔ بعد ازاں آپ شیخ عبدالرحمن سلمی علیہ الرحمۃ کی خدمت میں پہنچے اور انہی سے فرقہ پایا اور شیخ عبدالرحمان سلمی علیہ الرحمۃ نے ابو القاسم نصیر آبادی علیہ رحمۃ سے انہوں نے ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ سے انہوں نے یہ الطائفہ جنید علیہ الرحمۃ سے انہوں نے سری سقطی علیہ الرحمۃ سے انہوں نے معروف کوفی علیہ الرحمۃ سے انہوں نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنے والد محمد باقر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنے والد علی زین العابدین رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنے والد امیر المؤمنین حسین رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنے والد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے خود مصطفیٰ صلاوات اللہ وسلامہ علیہ کے دست اقدس سے

### فرقہ پینا۔

ایک ضعیف روایت یہ ہے کہ جب شیخ نے فرقہ خلافت پہن لیا تو پیر ابو الفضل کی خدمت میں آئے انہوں نے فرمایا۔ اب مجاہدہ تمام ہوا۔ میہنہ جا کر لوگوں کو وعظ و تلقین کر کے اللہ کی طرف بلانا چاہیے۔ پیر کے حکم پر آپ میہنہ چلے آئے۔ مگر مجاہدات و ریاضات میں مزید اضافہ کر لیا کیونکہ پیر کا یہ کہنا کہ اب مجاہدہ تمام ہوا۔ انہیں کچھ دل کو نہ لگا، اسی دوران لوگوں میں آپ کو قبول عام حاصل ہوا۔ جیسا ایک مجلس میں آپ کے بارے میں یہ بات چلی کہ ایک روز کسی نے آپ سے اس آیت کے بارے میں استفسار کیا۔ "شُرُّرُدُّوْا لِي اللّٰهُ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ" پھر فرشتے پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولیٰ اللہ کی طرف۔

آپ نے کہا کہ یہ آیت فرشتوں سے متعلق ہے، اور وہ جس جگہ لے جاتے ہیں وہ مقام وہیں ہے، کہ تمام مجاہدات، عبادات، سفر، حضر، رنج اور ذلت و رسوائی کے بعد ہاں جانا ہے، اور ان تمام مقامات سے ایک ایک کر کے بندے کو گزرا جاتا ہے، پہلے اُسے توبہ کے دروازے پر لایا جاتا ہے۔ جہاں وہ توبہ کر کے مالک کو خوش کرتا ہے۔ پھر لذتِ نفس میں مشغول ہوتا ہے، ہر طرح کے رنج اٹھاتا ہے اور اُسی قدر لوگوں کو آرام پہنچاتا ہے۔ پھر ہر طرح کی طاعت میں مصروف ہو جاتا ہے رات کو بیدار اور دن کو بھوکا رہتا ہے، شریعتِ حق کے حقوق پورے کرتا ہے، ہر روز نئی جدوجہد کرتا اور خود پر چیزوں کو واجب گردانتا ہے، میں نے بھی یہ سب منازل طے کیں، ابتداء میں اٹھارہ چیزیں میں نے اپنے لئے واجب ٹھہرائیں اور ان اٹھارہ چیزوں پر اٹھارہ ہزار مخلوقات جتنی مداومت خود اپنی ذات سے طلب کی، ہمیشہ روزہ سے رہا، تقویٰ حرام سے پرہیز کیا، ذکر الہی پر ہمیشگی اختیار کی۔ رات کو بیدار رہتا۔ زمین پر پہلو نہیں رکھا۔ بیٹھے بیٹھے نیند کر لیتا۔ قبلہ رو ہو کر بیٹھتا۔ تکیہ نہیں لگایا۔ امرد کو بڑی نظر سے نہیں دیکھا۔ محرمات پر نظر نہیں ڈالی۔ انسانی اخلاق کی جستجو

کی گدائی نہیں کی۔ قناعت کی، اور کیفیت مشاہدہ میں تسلیم کی حالت میں رہا۔ بروقت مسجد میں رہتا۔ بازار نہیں گیا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین جگہ بازار ہے اور بہترین جگہ مسجد ہر عمل میں تتبع سنت رہا۔ ہر دن رات میں ایک بار قرآن مجید ختم کرتا۔ بیٹا ہو کر نابینا رہا۔ سننے کے باوجود سیرہ رہا۔ گویائی میں گنگ رہا۔ ایک سال کسی سے بات نہ کی۔ لوگ دیوانہ کہنے لگے اور میں برداشت کرتا رہا کیونکہ روایت ہے کہ بندے کا ایمان اُس وقت مکمل ہوتا ہے جب دنیا کے لوگ اُسے دیوانہ سمجھنے لگیں۔

**اطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم:** ہر وہ کام جس کے بارے میں سنا اور پڑھا تھا کہ سیدہ الرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اُس کا حکم فرمایا، اُس پر عمل کیا، یہاں تک کہ میں نے سنا تھا کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں زخم پہنچا تھا جس کی وجہ سے آپ پاؤں پر نہیں کھڑے ہو سکتے تھے اور نماز انگلیوں کے بل کھڑے ہو کر ادا فرمانے میں پریمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں چار سو رکعت نفل پاؤں کی انگلیوں کے بل ہو کر ادا کئے۔

اپنا ہر ظاہری و باطنی عمل سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق و مطابق راستہ کیا۔ بلاغرا اتباع سنت میرے رگ و پے میں سج گیا، فرشتوں کے جس عمل کے بارے میں سنا تھا وہ بھی ابتداء میں انجام دیا۔

میں نے سنا اور کتابوں میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو نیچے **حقی عبادت:** ہو کر عبادت کرتے ہیں، ان کی موافقت کرنے کی خاطر میں نے ابو طاہر کی انگلیوں کے بل کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ میرے کمرے کا دروازہ مجھ پر بند کر دیا۔ پھر میں نے بارگاہِ رب العزت میں عرض کیا۔ بار خدا یا! مجھے اپنا آپ نہیں چاہیئے، مجھے اس سے بات

سنا: آپ کے فرزند ہیں۔ مترجم

عطا فرما، بعد ازاں ختم قرآن کریم کا آغاز کیا۔ جب اس آیت پر پہنچا کہ

فیسکفیکہم اللہ وھو السبع

آیت کہ یہ تلاوت کرتے ہی میری آنکھوں سے خون

باری ہو گیا، اپنی خبر تک نہ رہی اور سب کچھ کھیر بدل گیا

العلیم

اسی طرح کی کئی دیگر ریاضتیں اور مجاہدے جو میں نے کئے میں اپنے تئیں یہ خیال کرتا رہا کہ وہ

میری کوشش کا نتیجہ تھے حالانکہ یہ میرا پندار تھا حقیقت یہ ہے کہ مجھ پر بعد میں یہ واضح کر دیا گیا کہ

وہ سب کچھ فضل خداوندی اور توفیق ایزدی کے بموجب تھا۔ اُس میں میرا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ ایسا اگر کوئی

یہ کہے کہ یہ سب مجاہدات و ریاضات نہیں کرنے چاہئیں کیونکہ یہ پندار ہے تو ایسا نہیں بلکہ ان کا نہ کرنا

پندار ہے کیونکہ جب تک کوئی ان سے نہ گزرے اُس پر حقیقت حیاں نہیں کی جاتی اور خود اس پندار کو

بھی اس پر ظاہر نہیں کیا جاتا، جب تک شریعت کو سپر نہ بنایا جائے خود بینی اور غرور کو بندہ محسوس ہی

نہیں کہ پاتا حالانکہ یہ خود بینی دینی کام انجام دیتے وقت بندے میں موجود ہوتی ہے اب اگر شرعی احکامات

پر عمل نہ کریں تو کفر اور اگر اختیار کریں لیکن اپنے عمل پر نظر رکھیں اور خود بینی

وغرور میں مبتلا ہوں تو شرک، کیونکہ تو بھی ہو، وہ بھی ہو تو دو وجود لازم آتے ہیں اور یہ شرک ٹھہرتا

ہے، پس چاہئے کہ تو برے سے خود کو ہی فنا کر دے تاکہ کفر و شرک دونوں سے بچے رہو۔

ایک مرتبہ اس حال میں بیٹھا تھا کہ اپنی فنا کا عاشق ہو چکا تھا، اتنے

عشق کی نیرنگیاں میں ایک روشنی ظاہر ہوئی جس نے میری ہستی کو مٹا ڈالا اور خداوند

عزوجل نے مجھ پر ظاہر فرمادیا کہ نہ وہ تو تھا اور نہ اب تو ہے بلکہ وہ (یعنی فنا سے عشق) میری عذاب

سے تجھے ملنے والی توفیق تھی اور یہ ہستی کا ٹٹنا، میرا فضل یہ، سب بری رو بہت اور نظر عنایت

ہے اس وقت میری حالت پر یہ اشعار صادق آئے تھے۔

ہمہ جاں تو بینم چو دیدہ باز کم - ہمہ تنم دل گردو کہ با تو را ز کم

لہ ۱۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ہاں ہے اور وہ سننے والا اور علم والا ہے

حرام دارم بادِ یگر ان سخن گفتن ۔ کجا حدیث تو آمد سخن دراز کم  
ترجمہ اشعار :- ۱۔ چشم خاکروں تو ہر شے میں تیرے نس کے جلوے دکھائی دیتے ہیں میرا سا  
تن دل بن جاتا ہے کہ تجھ سے لڑکی باتیں کر دوں۔  
۲۔ دوسروں سے بات کرنی حرام جانتا ہوں اور جہاں تیری بات آجاتی تو  
بات لمبی کر دیتا ہوں۔

بعد ازاں ایسی عزت عطا ہوئی کہ لوگ آتے اور میرے ہاتھ پر تائب ہو جاکے جلتے ہمسائے  
میری حرمت کے پیش نظر شراب نہ پیتے، یہاں تک نوبت پہنچی کہ میرے ہاتھ سے فروزے کا پھلکا  
جو گر جاتا تو اسے بھی بیس دینار میں خرید لیتے، ایک روز خچر پر سوار جا رہا تھا اور لوگ خچر کی خواست  
کو سرا در چہرے پر ملنے۔ اس کے بعد مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ میں نہ تھا، مسجد سے آواز آئی کہ اَلْم  
يَكْفُ بِرَبِّكَ، اک نور میرے سینے میں جلوہ رینہ ہوا اور کئی حجاب اٹھ گئے، پھر اک نور  
آیا جب ان تمام لوگوں نے مجھے زد کر دیا جنہوں نے میری عقیدت مندی کے جان باندھے تھے۔ بلکہ  
قاضی شہر کے ساتھ مل کر میرے کافر ہونے کی گواہیاں دینے لگے، اور جہاں سے میرا گزر ہوتا تو کہتے،  
اس شخص کی نحوست سے اس زمین پر سبزہ نہیں اُگے گا، یہاں تک کہ مسجد میں بیٹھا تھا تو عورتوں نے  
چھت سے مجھ پر گندگی پھینکی، اور ساتھ یہ آواز میرے کانوں میں آئی کہ ادسو یکنف بر ربک،  
مسجد میں میری موجودگی سے مقتدیوں نے جماعت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے جب  
تک یہ دیوانہ مسجد میں ہے ہم جماعت میں شامل نہ ہوں گے اور میں دل میں یہ کہتا تھا۔

تا شیر دم شکار من بود پلنگ      پیر دزد بُدم بہر چہ کردم آہنگ  
تا عشق ترا بہر در آوردم تنگ      از پیشہ بدون کردم را در بہ تنگ  
ترجمہ اشعار :- ۱۔ جب تک شیر تھا، خونخوار بھڑیے میرا شکار تھے، اور جس طرف بھی متوجہ  
ہوتا کامیاب ہوتا۔

۲۔ یہاں تک کہ تیرے عشق نے ہر دم میرے اوپر تنگ کر دیا اور مجھے لشکر دی لٹری

نے جنگل سے نکال دیا۔

اس طرح میرے اوپر قبضے کی حالت ہماری ہو گئی تو کامل نیت کے ساتھ قرآن کریم کو کھولا ،  
سننے یہ آیت تھی۔

” دنبلو کسہ بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون“

قرآن نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ تو آزمائش ہے چنب خیر ہے یا چابے شر خیر و شرکی خواہش ترک  
کر کے میرے ساتھ ہو جاؤ، اس کے بعد میں نہیں تھا سب اسی کا فضل تھا سہ

امروز بہر حال، بغداد بخارا است - کجا میر فراسان است پیرزی آنجا است

ترجمہ:- آج بہر حال میں بغداد و بخارا ہے، جہاں فراسان کا میر ہے فتحمدی وہیں ہے۔

یہ ساری باتیں حضرت شیخ ابوسعید علیہ الرحمۃ نے ایک مجلس میں خود بیان فرمائیں، اور اُن

دنوں آپ کے والدین انتقال کر گئے تھے تو وہ رد کاوٹ بھی راستے سے دور ہو گئی جو اُن کو خوش

رکھنے کے باعث درمیان میں آجاتی تھی، اور آپ نے باورد و سرخس کے مابین ایک بیابان میں سات

سال ریاضات و مجاہدات کئے کسی نے آپ کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم ہو سکا کہ اس عرصے میں

وہاں آپ کی خوراک کیا تھی۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور علاقے میں بھی یہی مشہور ہے کہ

آپ کی خوراک جھاڑ کے پتے تھے۔

جب آپ مجاہدات و ریاضات کے دور سے نکل کر منصبِ رشد و ہدایت پر جلوہ گر ہوئے

ان دنوں کا واقعہ ہے کہ آپ محفل میں تشریف فرماتے کچھ مریدانِ باصفاء فریوزہ پھیلتے اور اُسے شکر

لگا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے جاتے، ایک شخص جسے یہ بات پسند نہ تھی وہاں سے گزرنے لگا

تو کہا: ”یہ جواب کھارے“، یہاں سے اسی ذائقہ رکھتا ہے اور اُس کا ذائقہ کدما تھا جو سات برس بیابانوں

میں کھاتے رہے۔ شیخ نے جواب دیا۔ دونوں ذائقوں کا اپنا اپنا وقت ہے، اگر وقت بسط سے

لے اور ہم نہیں بمانا اور نیکی کے نعمتوں سے آزمائش میں ڈالیں گے۔ اور تم نے  
ہماری طرف موٹنا ہے۔

ہمکنار ہو تو جھاڈ کے پتے اور جنگل کے کانٹے بھی کھانے میں اس میٹھے خربوزے سے زیادہ شیریں ہوتے ہیں، اور اگر حالت قبض کی ہو تو یہ خربوزہ اُن کانٹوں سے بھی بڑا نفع لگے۔

اسی ضمن میں شیخ نے مزید فرمایا جس شخص نے مجھے ابتدائے حال میں دیکھا **صدیقی اور زندقی** وہ صدیق ٹھہرا اور جس نے آخر میں دیکھا وہ زندقی ہو گیا۔ یعنی اول حال میں تو صوفی ہر دقت ریاضت و مجاہدے میں ہوتا ہے لوگ چونکہ اکثر ظاہر میں اور صورت پرست ہوتے ہیں، جب وہ میری عبادات و ریاضات کو جو حق کے لئے ہوتے شاہدہ کرتے تو ان کے صدق میں اضافہ ہوتا رہتا اور درجہ صدیقان کو پالیتے تھے، اب جبکہ ریاضات و مجاہدات کے ثمرات اٹھانے اور سکون و راحت کی کیفیت کا وقت آ گیا ہے اور وہ پہلی حالت کے برعکس دیکھتے ہیں تو بدظن ہو کر اس دوسری کیفیت کا انکار کر بیٹھتے ہیں حالانکہ یہ حالت بھی حق ہے، اور حق کا انکار زندقی ہے۔ اس کے دلائل بسیار ہیں جن میں سے ایک یہ ہے، اگر کوئی یہ خواہش کرے کہ بادشاہ وقت کا محرم راز و صاحب خاص بنے، تو اُس کے لئے لازم ہے کہ کئی آزمائشوں اور تکالیف سے گزرے، گرمی و سردی کی مشقتیں برداشت کرے، ہر کس و ناکس کی سخت سست باتیں سنے، مضائب پر صبر کرے، بلکہ بے ضار و غبت تکالیف اٹھاتا جائے، ہر خفا کے بدلے خدمت کرے۔ ہر کالی کے عوض دس دعائیں دے، تا آنکہ اس مرتبہ کو پہنچ جائے کہ بادشاہ کا قرب پالے اور بادشاہ کی نظر میں ہزار مردم سے بھی فزوں تر ہو۔ جب اس مرتبہ کو پہنچے تو پھر اس کی اس قدر خدمات بجالائے کہ بادشاہ کو اُس پر کامل اعتماد ہو جائے، اور اسے اپنا قریبی راز دار اور محبوب خاص ٹھہرائے تو کسر اُس کی مشقتوں اور خدمتوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے وہ ہر مشرف و منزلت اور نعمت و آسائش سے بہرہ ور ہوتا ہے، ایسے شخص کی اس مرتبہ پر سولہ بادشاہ کے حضور میں ہمہ وقت حضور کی اور



کوئی طویل فرائض نہیں ہوتے، اور یہ بھی اس لئے تاکہ جب بھی بادشاہ اُسے کوئی راز بتانا چاہے یا اُس سے کوئی بات کرنا چاہے تو وہ حاضر ہو بے شک یہی بندے کا روشن ترین مرتبہ ہوتا ہے۔

شیخ ابو العباس قصاب علیہ الرحمۃ :- کوئی اشکال پیش آتا رہتا ہے کہ جب بھی شیخ ابوسعید علیہ الرحمۃ کہا کرتے تھے کہ جب بھی

ابو الفضل حسن علیہ الرحمۃ کے پاس سرخس حاضر ہو جایا کرتا اور رات ہی کو واپس میہنہ بھی آجاتا تھا۔ جب شیخ ابو الفضل حسن رحلت فرما گئے تو میرا یہ سلسلہ شیخ ابو العباس قصاب علیہ الرحمۃ کے ساتھ

جاری رہا کیونکہ اُس وقت وہی بقیۃ السلف تھے، شیخ ابوسعید کی نظر میں جو مرتبہ شیخ ابو العباس قصاب علیہ الرحمۃ کا تھا وہ کسی اور کا نہ تھا، مگر اپنا پیر ابو الفضل حسن ہی کو کہتے تھے۔ آپ نے کہا

کہ اس کے بعد میں نے مقام آمل کا قصد کیا جو باورد اور نساک پہلو میں واقع ہے تاکہ بعض مشائخ کرام کے مزارات کی زیارت کروں، احمد بن حنبل اور محمد بن فضل میرے ہمراہ تھے، یہ محمد بن فضل ترابا

عقیدت کیش شیخ ابوسعید تھے، ادران کا مزار سرخس میں واقع ہے۔ پھر حال ہم تینوں باورد میں وارد ہوئے اور درہ گز کی جانب سے شاہ میہنہ کا قصد کیا، شاہ میہنہ درہ گز کے پرگنوں میں سے

ایک ہے۔ پہلے اُسے شامینہ کہتے تھے، جب شیخ کا گزر ہوا تو پوچھا اس کا کیا نام ہے۔ وہاں کے باشندوں نے بتایا شامینہ، آپ نے فرمایا اسے شاہ میہنہ کہو، اُس دن سے اس دیہات کا نام

شاہ میہنہ پڑ گیا، آپ نے فرمایا۔ میرا ارادہ شیخ ابو علی کے مزار پر جانے کا تھا مگر دل میں اک اندیشہ سا پوشیدہ تھا، جب اُن کے مزار کے قریب پہنچا تو وہاں ایک ندی تھی جس کے کنارے میں نے وضو

کیا، درگاہ ادا کیا، بعد ازاں وہاں ایک رُک کے کو دیکھا کہ ہل چلا رہا ہے اور ایک بوڑھا کھیت میں چھینہ رباریک دانے کا غلہ کا بیج بکھیر رہا ہے، جب اُس کا رخ ابو علی کے مزار کی طرف ہوتا تو

ایک نعرہ باند کرتا۔ میرے سینے میں اُس وقت سخت اضطراب تھا، وہ بوڑھا، میرے سامنے آیا سلام کیا۔ اور کہا۔ کیا آپ اس بوڑھے کا بوجھ ہلکا کریں گے؟ میں نے کہا انشاء اللہ پھر اُس نے

کہا اس وقت میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر خداوند تعالیٰ اس دنیا میں کوئی مخلوق پیدا نہ

فرماتا: مشرق تا مغرب اور زمین تا آسمان اسے چھینے کے بیج سے بھر دیتا۔ پھر ایک پوندہ پیدا کرتا اور اُسے کہتا کہ ہر ایک ہزار سال بعد اس غلہ میں سے ایک دانہ تیرا رزق مقرر ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک بندہ پیدا فرماتا جس کے دل میں درد و سوز بھر دیتا۔ پھر اسے کہتا کہ جب تک یہ پوندہ روئے زمین کو اس غلہ سے خالی نہیں کر لیتا تو اپنے مقصد تک نہیں پہنچے گا اور تو اسی طرح اس درد و سوز کے عالم میں بے قرار رہے گا، تو پھر بھی حصولِ مراد کے لئے یہ مدت بہت کم ہوتی۔

یہ کہہ کر شیخ نے کہا کہ اس بوڑھے کی اس مثال سے میرا اندیشہ دور ہوا اور مجھ پر حقیقت آشکار ہو گئی،

اس کے بعد میں ابو علیؑ کے مزار پر گیا تو فیوضاتِ فاکرانات سے شاد کام ہوا۔ بعد ازاں قصبہ نسا کی طرف روانہ ہوا، جب شیخ یہاں پہنچے تو شہر کے کنارے اندر جس نامی گاؤں میں فردکش ہونے کا ارادہ فرمایا، مگر جب پہنچا کہ اس گاؤں کا کیا نام ہے اور لوگوں نے بتایا اندر مان، تو شیخ نے فرمایا۔ اس کے اندر نہیں جاؤں گا کہ کہیں اندر ہی نہ رہ جاؤں۔ آپ اس دیہات اور شہر نسا میں داخل نہ ہوئے بلکہ ان کے اطراف کی جانب سے روانہ ہوئے دیہات میں عیسویہ کی جانب پڑاؤ کیا۔ اُس وقت شیخ احمد نصر جو کبار مشائخ میں سے تھے شہر نسا میں گورستان کے کنارے خانقاہ مراد می میں رہتے تھے، جو شہر کے بالائی حصہ میں پہاڑ پر واقع ہے یہاں پہاڑ پر جہاں بزرگوں کے مزارات ہیں، استاد ابو علی دقاق علیہ الرحمۃ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادے کے مطابق ایک خانقاہ بنائی تھی، جب استاد ابو علی دقاق شہر نسا میں آئے تھے تو یہاں مشائخ کے قبرستان کے پاس صوفیہ کے لئے کوئی جگہ نہ تھی، رات کو سوئے تو خواب میں سید المرسل علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان سے فرمایا کہ کہ صوفیوں کے لئے اس جگہ ایک رہائش گاہ تعمیر کرو، اور جہاں اب خانقاہ ہے وہاں اپنے دستِ اقدس سے خط لکھنی کہ فرمایا کہ اس طرح تعمیر کرو، دوسرے روز صبح استاد ابو علیؑ اس جگہ پہنچے تو وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا تھا بدستِ خود وہاں موجود تھا، اپنے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اُس

خط کو دیکھا اور ہدایات کے مطابق وہاں خانقاہ تعمیر کرائی، اس کے بعد بے شمار صوفیہ کرام کے قدم وہاں تک پہنچے۔

اس خانقاہ کے پہلو میں وہ مشہور گورستان ہے جہاں چار سوا دلیا کرام کے مقبرہ اولیاء :- مزارات ہیں یہی وجہ ہے کہ صوفیہ شہر نسا، کو شام کو چک (یعنی چھوٹا شام)،

بھی کہتے ہیں کیونکہ شام میں انبیاء علیہم السلام کی تربیتیں ہیں تو نسائیں اولیاء کرام کے مزارات ہیں۔ خاکِ نسا صوفیہ کو بہت عزیز ہے کہ اس اکابر مشائخ سے گہرا تعلق رہا ہے۔ مشائخ بیان کرتے ہیں جب بھی کوئی وہاں یا فقہ شہر نسا کا رخ کرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے اور میں نے تو اپنی زندگی میں باہا اس کا شاہدہ کیا، کہ ۳۹ برس میں جس قدر قتل و غارت اور فسادات ہوئے، اس دوران جب ان فتنوں کا رخ نسا کی طرف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کے طفیل انہیں دفع فرمایا، آج بھی جبکہ دنیا ہی کا قحط ہے خصوصاً خراسان میں کہ تصوف کا نام باقی ہے نہ عملِ صالح ہے نہ قالِ شہر نسا میں شکوہ کا مشائخ اور صاحبِ حال بزرگوں کا وجود باقی ہے، خدا تعالیٰ ان کے وجود کو تا دیر باقی رکھے، بلاشبہ شہر نسا میں بہم یزقون و بہم ملیطون کا نظارہ دیکھنے میں آتا ہے، بے شمار صاحبِ مرتبہ و مقام پوشیدہ مشائخ بھی اس علاقہ میں فردکش ہیں، کہ کہیں اور اس قدر نہ ہوں گے، اگرچہ بیشتر اولیاء کرام "تحتِ قہامی لایز فہم غیر ی، کے مسداق پس پردہ رہنے میں مگر ان کے برہمات و فیوضات عام ہیں۔

اسی خانقاہ سراوی میں شیخ احمد علیہ الرحمۃ رہتے تھے جن کی عبادت کا شیخ احمد علیہ الرحمۃ :- اب بھی خانہ شیخ کے نام سے یہاں موجود ہے شیخ احمد نے ایک مرتبہ

اپنے عبادت خانہ سے سر باہر لگانا اور چبوترے پر بیٹھے صوفیوں سے کہا جس نے شاہباز طریقت کو دیکھا ہو وہ شہرِ یسیمہ کا قصد کئے تاکہ وہ اسے دیکھے شیخ ابو سعید کہتے ہیں کہ جب شہر نسا میں تھا تو وہاں سے یسیمہ کا ارادہ کیا کہ وہاں شیخ احمد علی کے مزار پر حاضر ہوں۔

یسیمہ نام کا گاؤں نسا کے شہر سے دو فرسنگ کے فاصلہ پر ہے۔ شیخ احمد علی خراسان کا عالم صوفیہ میں سے تھے اور وہ شیخ عثمان حیری کے مرید تھے، شیخ عبدالرحمان سلمی نے اپنی کتاب

طبقات الصوفیہ“ میں ان کا نام محمد علیان نسوی درج کیا ہے، جبکہ شہر نسائی میں وہ احمد علی کے نام سے مشہور ہیں ان کے حالات و واقعات خاصے معروف ہیں اور ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جب شیخ ابو سعید نے اپنے بڑے بیٹے ابوطاہر کو کسی مصلحت سے شہر نسائی روانہ کیا۔ وہاں پہنچے تو ان کے پاس یہ اس قدر درد شروع ہوا کہ حرکت نہ کر سکتے تھے، ابوطاہر کی غیر موجودگی میں شیخ ابو سعید کے ہاں ایک فرزند متولد ہوا جس کا مظهر نام رکھا، اور انہیں اپنی فراست و کرامت کے ذریعے یہ علم تھا ان کے بڑے بیٹے ابوطاہر کے پاؤں میں درد ہے، انہوں نے ایک درویش کو بلوایا کہ کہا کہ فوری ابوطاہر کو میرا پیغام شہر نسائی میں جا کر پہنچا دو، آپ کے خط میں لکھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عنقریب ہم تمہارا بازو تمہارے بھائی سے منبسط کریں گے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ پاؤں میں درد ہے چاہئے کہ عیسیمہ میں شیخ احمد علی کے مزار پر حاضری دو تاکہ اللہ کے ارادے سے درد بتا رہے جب یہ خط ان کے بڑے بیٹے ابوطاہر کو ملا تو عیسیمہ جانے کا قصد کر لیا، انہیں پانکی میں دہاں لے جایا گیا۔ ایک رات شیخ احمد علی کے مزار پر گزاری، دوسرے روز اللہ تعالیٰ نے شہر نسائی دی اور درد نائل ہو گیا۔ شیخ ابو سعید کہتے ہیں ایک مرتبہ شیخ احمد علی کے مزار پر حاضری دینے سے فارغ ہوا تو عیادتہ میں سارے برپا ہو گیا، دیہات میں چلا گیا تاکہ اُس کی دوسری طرف سے نکل جاؤں کہ ایک قصاب کو دوکان پر بیٹھا دیکھا۔ وہ میرے سامنے آیا، سلام کیا اور اپنا ایک شاگرد میرے پیچھے کر دیا تاکہ معلوم کرے کہ میں کہاں اترتا ہوں، پانی کے کنارے ایک مسجد تھی وہیں قیام کیا۔ اور وضو کر کے نماز ادا کی اتنی میں وہ بوڑھا قصاب کھانے کو پہنچ گیا، جب کھانے سے فارغ ہوا تو اُس نے سوال کیا کہ کوئی ہے جو میرے مسئلہ کو حل کرے؟ اُس کا اشارہ میری جانب تھا، پھر اُس نے پوچھا شرط بندگی اور شرط مزدوری کیا ہے؟ میں نے علم شریعت سے جواب دیا اُس نے کہا: کوئی اور علم بھی ہے، میں نے طریقت اور اقوالِ مشائخ سے جواب دیا کہ کوئی اور چیز نہیں جس سے جواب دو؟ جو اب میں خاموش دیکھتا رہا پھر اُس نے ہیبت سے میرے اوپر نظریں جما کر کہا: مطلقاً سے صحبت اختیار نہ کرو۔ میں نے پہلا سوال کیا اور تم نے شریعت سے جواب دیا اگر علم ظاہر کو طلاق دے دی ہے تو پھر اس کی طرف رجوع

مت کر دو۔ جب شیخ ابوسعید کو شیخ لقمان، ابوالفضل حسن کے پاس سرخس لے گئے تو اپنے تمام احوال اور  
مجاہدات کا حال انہیں سنایا، اُس کے بعد شیخ قائل سے حال کی جانب پھر گئے اور جو کچھ کتابوں میں پڑھا  
اور لکھا تھا، زیر زمین دفن کر دیا، اور اُس کتابوں کے دہیسنے کے اد پر ایک شاخ  
لگادی جو تھوڑے عرصے میں ہر ہو گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ درخت بن گئی، جو بعد میں  
ہمارے زمانے تک لوگوں کے لئے باعث برکت تھا اور لوگ بچوں کی ولادت اور مردوں کی تعمیر و  
تعمیر کے وقت وہاں سے ٹہنی توڑ کر لے جاتے تھے۔ غز کے زلزلے میں جو حادثہ خراسان میں پیش  
آیا اُس کے باعث حالات رد و زخواب ترہوتے جا رہے ہیں۔ اور تباہی و بربادی کے اس سیلاب میں  
بزرگوں کے کئی نشان بھی مٹ رہے ہیں۔

ایک مجلس میں شیخ نے کہا۔ ابتداء میں جب میں اس ماہ کی طرف  
مخون قلب اور کتابیں :- نکلا تو کتابوں کی طرف بہت توجہ تھی، کتب خانہ بھرا ہوا تھا۔  
وقت کتابوں کے مطالعہ میں غرق رہتا۔ مگر سکون ہرگز نہ پاتا۔ اللہ کے حضور درخواست گزاری  
یا رب مجھے ان کتابوں کے پڑھنے سے باطنی کشادگی حاصل نہیں ہوتی اور ان میں مشغول رہنے  
مے مجھ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوں مجھے کسی ایسی چیز کے ساتھ غنی کر دے کہ جس کے ذریعے تجھے  
وں، اللہ نے فضل کیا اور وہ تمام کتب کیر سامنے سے ہٹا ڈالیں، دل کو چین نصیب ہوا اور  
قرآن کریم کے حقائق کو جاننے کے لئے سورہ فاتحہ سے آغاز کیا تا آنکہ سورہ انعام تک پہنچا اور  
یہ آیت پڑھی :-

قُلِ اللّٰهُ تَشْرَدُ رَهْمًا فِي  
خَوْفِهِمْ يَلْعَبُونَ ه ۛ

اللہ کہو پھرا نہیں چھوڑ دو اسی کی بیہودگی  
میں انہیں کھیتا۔

لے دہی زکوں کی ایک قوم ہے جس نے سلطان سنجر کے زمانے میں خراسان کو تاراج کیا تھا : مترجم

اور اس آیت کہ میرے بعد میں آگے تلاوت نہ کر سکا۔

جب شیخ نے اپنی ساری کتابیں زیر زمین دفن کر کے اُن پر پانی چھڑک رہے تھے تو کسی نے اُن کے والد شیخ ابوالخیرؒ کو خبر کر دی کہ ابوسعید ساری کتابیں زیر زمین دفن کر رہے ہیں تو وہ آئے اور بیٹے سے کہا۔ ابوسعید! یہ کیا کر رہے ہو؟ شیخ نے جواب دیا۔ آپ کو یاد ہے کہ جس روز میں نے آپ کی دکان میں آپ سے پوچھا تھا کہ ان فریٹیوں اور چمڑے کے تھیلوں میں کیا پھپھار رکھا ہے تو آپ نے کہا تھا۔ اے بلخی تو یہ معلوم نہ کر، میں اب آپ سے اس قدر عرض کروں گا کہ آپ کی وہ بات دراصل یوں تھی کہ اے مہنگی دیمہنہ کے رہنے والے، تو باقی نہ رہ۔

جب کتابوں کو زیر زمین دفن کر رہے تھے تو ساتھ کہتے جاتے تھے: "نعوذ باللہ من انت والاشغال بالبدلیل بعد الوصول محال" "بہترین رہنا تو ہے اور منزل پر پہنچنے کے بعد کسی اور رہنا میں مشغول رہنا محال، اسی دوران آپ نے مزید فرمایا: "بدا من هذا الامر کسر المحابر وحرق المدفات ونسیان العلوم" "اس امر کے سبب دواتوں کا ٹوٹنا، کتابوں کا پھٹنا اور علوم کا بھول جانا ظاہر ہوا۔"

کتابوں کو دفن کرنے کے موقع پر کچھ بزرگوں سے شیخ سے کہا گیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ یہ کتابیں کسی کو دے دیتے تو وہ ان سے فائدہ اٹھاتا؟ اس کے جواب میں شیخ نے کہا۔ ہم کسی کو یہ کتابیں دے کر اس سے ملاقات کے دوران اپنے احسان و بخشش پر نظر رکھنے سے دل کو خالی رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ایک روز خواجہ امام محمدؒ ان کے معاملات پڑھ رہا تھا کہ مجھے بتایا گیا اس کتاب کے جو کو رہنا چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ تجھی ہی کتاب دے کر لوٹا دوں، بعد ازاں میں نے توبہ کی اور استغفار کرتا رہا، یہاں تک کہ، مجھے معاف کر دیا گیا۔

شیخ ابوسعید کے ایک مُرید نے بیان کیا کہ ایک رات شیخ ساری رات اپنے عبادت خانہ میں روتے رہے۔ میں اُس رات سونہ سکا اور پریشان رہا۔ اگلے روز جب شیخ کمرے سے باہر آئے تو میں نے عرض کیا۔ رات کیا بات تھی کہ آپ ساری رات روتے رہے؟ شیخ نے کہا پچھلے روز میں

نے ایک دانشمند سے کتاب لے کر پڑھی اس کے سبب مجھے گزشتہ شب دانتوں کے درد میں مبتلا کر دیا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ کیوں اُس کے نزدیک گئے، چہرہ طلاق دے چکے تھے۔

شیخ ابوسعید نے کہا اُس بوڑھے قصاب نے کہا تھا جب تک آزاد نہ ہو گئے بندہ نہ ہو گے اور جب تک ناصح و مصلح مزدور نہ ہو گے بہشت نہ پاؤ گے۔ حناء بے ماکانوا یعملون۔ بے شک میری مشکل اس بزرگ نے حل کر دی تھی۔

بعد ازاں شیخ ابوسعید آمل چلے گئے اور ابو العباس قصاب کی خدمت میں ایک سال تک رہے۔ ایک روایت دو سال تک رہنے کی بھی ہے مگر پہلی روایت درست ہے۔ شیخ ابو العباس قصاب کی خانقاہ میں ایک الگ گوشہ تھا جہاں بیٹھ کر انہوں نے کتابیں برس تربیتِ خالق کی، اگر اُن کی خانقاہ میں کوئی درویش رات کو بہت زیادہ عبادت کرنے لگتا تو اس سے کہتے بیٹے! سو باؤ! یہ بوڑھا جو کچھ کہتا ہے تمہارے لئے کہتا ہے وگرنہ اسے اس کی چنداں ضرورت نہیں لیکن آپ نے کبھی شیخ ابوسعید کو کثرتِ عبادت سے نہ روکا، اور شیخ ابوسعید ہر رات صبح تک نوافل پڑھتے اور مسلسل روزہ سے رہتے۔ شیخ ابو العباس نے ہمارے شیخ ابوسعید کو اپنے حجرے کے باہر حجرہ دے رکھا تھا۔ وہ شب بھر عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے اور کمرے کی درمیانی دیوار میں شکاف تھا جس سے وہ شیخ ابو العباس کے احوال کا مشاہدہ کرتے رہتے۔ ایک روز شیخ ابو العباس نے فصد کیا وائی تھی۔ رات کو رگ پر بندھی پٹی کھل گئی اور رگ کھل گئی جس سے شیخ کے سارے کپڑے خون آلود ہو گئے۔ شیخ ابوسعید ان کی اس حالت کو دیکھ چکے تھے وہ اپنے حجرے سے باہر آ گئے اور شیخ ابو العباس کے ہاتھ دھوا کر انہیں صاف کپڑے پہنائے۔ پھر خون آلود کپڑے دھو سکھا کر شیخ کی خدمت میں پیش کئے۔ شیخ ابو العباس نے کہا یہ کپڑے تم خود پہن لو۔ آپ نے عرض کیا۔ شیخ اپنے ہاتھ سے پہنادیں۔ اور شیخ نے انہیں اپنے ہاتھ سے فرقہ پہنایا، یہ آپ کا فرقہ دوم تھا، یہاں کسی کو یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بار فرقہ پہننے کے بعد کسی اور سے فرقہ نہیں پہننا چاہیے تھا کیونکہ اگر کوئی پیرِ طریقت فرقہ دینے کی اہلیت رکھتا ہو یعنی اس کی اقتداء کی جاسکتی ہو، علم شریعت، علم طریقت اور

علم حقیقت سے بہرہ ور ہو اور ان پر کمال عمل بھی کرتا ہو، اور اس راہ کے تمام مراحل و مقامات اور کیفیات سے گذرا ہو، صفات بشریت سے پاک ہو چکا ہو، کوئی نفسانی چیز اس میں باقی نہ ہو جیسا کہ شیخ ابو الحسن خرقانی نے ہمارے شیخ ابو سعید کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اس مقام کو پہنچ گئے ہیں کہ وہاں بشریت باقی نہیں رہتی، نفس باقی نہیں رہتا، وہاں سب حق ہی تن ہے، الغرض اگر کوئی مذکورۃ الصدر اہلیت کا حامل ہے طریقیت اپنے مرید یا محب کے احوال سے مطلع ہو اور اپنی بصیرت و فراست سے یہ جان لے کہ وہ صلاحیت و استحقاق رکھتا ہے کہ اُسے اپنی خدمت سے بنا کر آگے لے آئے تاکہ وہ طائفہ صوفیاں میں بیٹھ سکے اور یہ بھی دیکھ لے کہ مرید میں اس قدر استعداد پیدا ہو گئی ہے کہ اُسے درجہ ریاضت و مجاہدہ سے آگے لے آئے تاکہ وہ صوفیہ کی صف میں شمار ہونے کے لائق ٹھہرے اور یہ ضروری ہے کہ مرید کی اہلیت شیخ کی تربیت کے نتیجے میں اُسے حاصل ہوئی ہو تو شیخ اس بات کا مجاز ہے کہ اپنے مرید کو فرقہ عطا کرے اور کہے کہ یہ شخص میرے علم کے مطابق اس قابل ہے کہ صوفیوں کی صف میں داخل ہو، اور ان میں بیٹھے، اگر وہ پر طبقہ صوفیہ میں مقبول و محبوب ہو گا تو اس نے بیان اور فیصلے پر وہ پورا اعتماد کریں گے، جیسا کہ شریعت میں سچے گواہ اور منصف تانسی پر اعتبار لیا جاتا ہے۔ صوفیہ کا طریق ہے کہ اگر کوئی اجنبی درویش اُن میں آکر بیٹھے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرے پر صحبت کون تھے اور فرقہ کس کے ہاتھ سے پہنا، اور یہی دو نسبتیں یعنی صحبت پر و فرقہ اس طائفہ میں بہت اہم تصور کی جاتی ہیں صوفیہ اس شخص کو اپنے میں سے شمار نہیں کرتے جس کو کسی قابل اقتدا و پیر طریقیت سے یہ دونوں نسبتیں حاصل نہ ہوں۔

مراتب شیخ و مرید اور فرقہ و صحبت سے متعلق تفصیلات بسیار ہیں مگر یہاں اس تالیف میں ان کا ذکر ہمارے پیش نظر نہیں۔ اگر کوئی شخص ریاضات و مجاہدات کی بنیاد پر کسی مقام بلند پر فائز ہو اور اس کا کوئی پیر یا مقتدا نہیں تو یہ طائفہ اُسے اپنے اندر شامل نہیں گردانتا، جیسا کہ شیخ ابو سعید کا قول ہے،  
من لسرتی اذ ب باستاذنہ و بطل ولسوان رجلاً بلغ اعلی المسراتب و  
المنامات حتی تکشف لہ من الغیب اشیاء ولا یكون لہ متقدم ولا استاذ



فلا یجئ الیئہ منہ شیء (جس نے کسی اُستاد سے ادب و سلیقہ نہ سیکھا وہ نکما اور بے کار ہے  
چاہے کوئی شخص اعلیٰ مرتبہ و مقام کو پہنچ جائے یہاں تک کہ غیب سے اُس پر انکشافات ہونے لگیں  
مگر اُس کا اُستاد پیشوا نہ ہو تو اُس سے ہرگز کچھ بھی صادر نہیں ہوتا، مدارِ طریقت پیر پر ہے کیونکہ الشیخ  
فی قومہ کالبنی فی امتہ شیخ اپنی قوم میں اس طرح ہوتا ہے جیسے نبی اپنی اُمت میں یہ  
بات واضح اور ثابت ہے کہ رہنما کے بغیر اپنے طور پر کوئی کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس ضمن میں  
شاخ کرام کے بے شمار اقوال ہیں اور ان کے بے شمار فوائد خصوصاً شیخ ابوسعید قدس سرہ کے اقوال و  
نکات کہ جن کا ذکر اپنی جگہ پر آئے گا انشاء اللہ اگر کسی کو اس راہ پر چلنے اور داہے ہائے حقانیت میں  
پہنچنے کی تڑپ ہو اور اُسے سوزِ عشق بیٹھنے نہ دے تو وہ درگاہِ شاخ کی چوکھٹ پر پہنچ کر معتکف ہو  
تا کہ وہ فوائد پائے کیونکہ یہ علم، راہِ عشق پر چلنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ کیس السدین بالتمنی  
ولا بالتجلی ولكن بشری ویترفی القلب و صدقہ العمل، (دین کا تعلق  
آرزو کرنے سے ہے نہ تجلیت بلکہ اُس چیز سے تعلق ہے جو دل میں قرار و عزت پکڑے اور  
عمل اُس کی تصدیق کرے۔

۵۔ اے بے خیرا نہ سوختہ و سوختنی ۔ عشق آمدنی بود نہ آموختنی

راے چلنے اور چلنے والے سے بے خیر! عشق آمد ہے آورد نہیں!

کسی کو ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ وہ اپنے تئیں یہ بہانہ یا عذر پیش کرے کہ آج  
تلاشِ شیخ کے زمانہ میں اس طرح کا پیر طریقت جیسا کہ مطلوب ہے، میسر نہیں اور پہلے  
جیسے مشائخ و مقصداء بھی باقی نہ رہے، کیونکہ یہ فقط نفس کے اٹھانے ہوئے خدشے اور سستی  
و کابلی کے بہانے ہیں، جسے ان باتوں اور اس راہ سے عشق ہو وہ تلاشِ مسلسل جاری رکھتا ہے  
اور بالآخر مُراد کو پہنچ جاتا ہے جیسا کہ شیخ ابوالحسن فرقانی کہتے ہیں کہ ابتداء میں دو کام کر لینے چاہئیں  
ایک سفر اور ایک اُستاد اسی خیال میں بھی گھومتا رہا اور مجھ پر سخت آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا  
یوں ہوا کہ جس مسئلے میں بھی الجھتا۔ ایک شافعی مسلک عالم آتا اور میری مشکل کو حل کر دیتا تیرا سی

بوس زندگی کے حق کے ساتھ گزارے، اور اس دوران ایک سجدہ، خلاف شرع نہیں کیا، ایک سانس بھی نفس کی موافقت میں نہیں لیا، سفر میں اس قدر تیزی عطا ہوئی کہ عرش سے لے کر تحت الثریٰ تک میرے سنے ایک قدم کر دیا گیا، جب عشق سچا ہو اور ارادہ خالص تو زندگی ایسے ہی ثمرات پالیتی ہے۔ صوفیہ کے طبقوں میں بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ سب ایک ہوتے ہیں، اور دنیا کے تمام صوفیہ کے مابین کوئی اختلاف یا تضاد نہیں، ان میں ودئی نہیں ہوتی، بشرطیکہ وہ واقعتاً صوفی ہوں بے حقیقت صوفی نالوگ اس زمرے میں شامل نہیں، تعبیر کے لحاظ سے اگرچہ صوفیہ کے الفاظ بظاہر مختلف ہوں گے مگر ان کا معنی اور حقیقت ایک ہوگی، پس کوئی شخص اگر کسی پیر طریقت سے فرقہ حاصل کرے تو اسے اصل جانے اور دوسروں سے ملنے والے فرقہ کو تبرک سمجھے، اور حقیقت پر نظر کرے تو سب ہاتھ اور سب فرقے ایک ہیں، جو ایک کو قبول ہے وہ سب کو قبول ہوگا اور جو ایک کے نزدیک مسرد ہے وہ سب کے ہاں مسرد۔

جس نے دو فرقے پہنے گویا اس کی اہمیت پر دو کواہ عدل قائم ہو گئے۔

صوفیہ میں ان کے مسلکوں اور مکاتب فکر کے اعتبار سے

**مسکلی اختلافات بے بنیاد ہیں**۔ کوئی باہمی حقیقی اختلاف موجود نہیں۔ وہ اس کائنات

میں اللہ کی ذات واحد ہی کو ایک جانتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر تیز کو لاشیٰ قرار دیتے ہیں۔ یہی وہ

آفاقی نظریہ ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی اختلاف و افتراق نہیں پیدا ہو سکتا، کوئی کسی مسلک یا مکتب

سے تعلق رکھتا ہو اس کی منزل ایک ہے، کیونکہ سب کا مبدء و اصل جلالہ ایک ہے، جس کی ذات بر حال اور

ہر آن ودئی سے پاک ہے، اگر راستے یا راہی میں اختلاف ہوگا بھی تو منزل پر سب ختم ہو جائے گا اور ایک

حقیقی اتفاق ظہور پذیر ہوگا، کیونکہ اس راہ کے چلنے والوں میں جب تک ان کی نفسانی آلائشیں اور

غائبشات ختم نہ ہوں وہ آگے نہیں بڑھتے، ظاہر ہے کہ بشری آلائشوں کے دور ہونے کے بعد جب

منزل پر پہنچیں گے تو ان میں اختلاف کی گنجائش ہی نہ ہوگی، گویا تصوف ایک ایسی تربیت ہے جس سے

مسلمان کے کردار میں موجود بشری غلطیوں پر کافی حد تک قابو پایا جاتا ہے، خود اختلاف بھی اک بشری

لفزش بت اگر صوفی تربیت یافتہ ہوگا تو وہ کسی سے ٹھگڑا یا نزاع باقی ہی نہیں رکھے گا۔

بشری صفات سے چھٹکارا ملنے اور راہِ حق پر چلتے چلتے مقصود تک پہنچنے کے بعد سالک کے لئے ہر چیز صحیح ہو جاتی ہے، ہر شے وحدتِ مجرد ہو جاتی ہے، یہی وہ مقام ہے کہ مشائخ میں سے ایک نے انا الحق کہا تو دوسرے نے سبحانی ما اعظم شافی اور میرے شیخ ابو سعید کہتے ہیں: "لیس فی جیبتی سوی اللہ" اب یہ واضح ہو گیا کہ سالک جب تک مقصد کو نہ پاسے وہ شیخِ طریقت ہونے کا اہل نہیں کیونکہ وہ خود پیر کا محتاج ہے جو اُس کی رہنمائی کرے، البتہ جس نے مقصد کو حاصل کر لیا وہ مرشد کہلانے کے قابل ہے۔

الغرض مشائخ کی یہ بات درست ثابت ہو گئی کہ سب  
**خبر بد جائے اگر گرہ زنی رشتہ یکسیت** کچھ ایک اور ایک ہی سب کچھ ہے۔ اور ان کے  
اُس نظریہ کے مطابق سب ایک ہیں، سب ہاتھ ایک ہیں اور سب فرقے ایک ہیں جو کہتا ہے  
کہ دو پیروں سے فرقہ نہیں پہننا چاہیے وہ دراصل اپنے بارے میں خبر دیتا ہے کہ ہنوز دونی  
میں ہے، مشائخ کو دو سمجھتا ہے، اور مشائخ کے حالات سے بے خبر ہے۔ ایسے شخص کو اُس وقت  
علم ہو گا۔ جیب اُس کی آنکھیں کھل جائیں گی اور اس کی نظر عالم پر پڑے گی۔ ہاں وہ شخص جو اس  
نیت سے دوسرا فرقہ پہننے کہ پہلے کو باطل قرار دے تو یہ بلاشبہ غلط ہے، ایسے لوگ دوسرے  
فرقہ کے مستحق رہتے ہیں۔ اور نہ اول کے، بلکہ دونوں سے محروم و مہجور ہو کہ بے نیل مرام ہوتے ہیں  
العباد باللہ من ذلک۔

شیخ ابو العباس قصاب نے محمد بن عبداللہ الطبری کے ہاتھ سے فرقہ خلافتِ صالح کیا انہوں نے ابو محمد  
جریری، انہوں نے سید الطائف جلیہ سے، انہوں نے سری سقطی سے انہوں نے معروف کرخی سے  
انہوں نے داؤد طائی سے انہوں نے حبیب عجمی سے انہوں نے حسن بصری سے انہوں نے  
حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت رسول اللہ صلوات اللہ  
وسلامہ علیہ کے دستِ اقدس سے فرقہ پہنا۔

بارے شیخ ابوسعید کو ایک صبح نماز کے بعد دیکھا گیا کہ ان کا لباس شیخ ابوالعباس قصاب نے اور ان کا لباس شیخ ابوسعید نے پہنا ہوا ہے، سب لوگ بہت متعجب ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ شیخ ابوالعباس نے لوگوں کی حیرانگی کو بھانپ لیا اور ان سے کہا کل سب کچھ مہینہ کے اس نوجوان کے حصہ آ گیا، اُسے مبارک ہو۔ بعد ازاں شیخ ابوالعباس آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، مہینہ چلے جاؤ، تاکہ یہ پرچم کچھ روز تیرے درپور رہا جاسے، شیخ کہتے ہیں کہ میں اُن کے ہاں سے صد ہزار غلعتوں اور فتوح کے ساتھ واپس اپنے شہر آ گیا، مرید جمع ہو گئے، کام شروع ہو گئے، آپ جو بنی مہینہ پیچھے ادھر شیخ ابوالعباس قصاب کا آمل کے قصبہ میں انتقال ہو گیا۔

خوشی و غم: آپ کہتے تھے کہ ایک روز پہلے جب میں قصبہ آمل میں حضرت شیخ ابوالعباس کی خدمت میں حاضر تھا تو وہ شخص آئے اور کہنے لگے اے شیخ، ہمارے درمیان یہ جھگڑا پڑا ہوا ہے کہ خوشی ابھی یا غم؟ شیخ اس بارے میں کیا

فرماتے ہیں، آپ نے چہرے پر ہاتھ پھر کر کہا الحمد للہ کہ قصاب کے بیٹے کی منزل نہ غم نہ خوشی لیس عند ربکم صباح و لا مساء، مبارک ہے رب کے ہاں نہ صبح ہے نہ شام، خوشی و غم تمہاری صفت ہے جو کہ حادث ہے اور حادث کو قدیم سے کیا راہ۔ پھر فرمایا، پسر قصاب خدا کا بندہ ہے امر وہی میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہی اُس کا راستہ ہے اگر کوئی شخص جو افرادوں کے راستے کا دعویٰ کرتا ہے اُس کا گواہ یہی راستہ ہے، اور یہ جو کچھ میں نے کہا بڑھی عورتوں کا ہتھیار نہیں بلکہ جو افرادوں کا میدان جنگ ہے، جب یہ دونوں حضرات رخصت ہوئے تو میں نے پوچھا کہ یہ دونوں کون تھے؟ فرمایا ایک ابو الحسن خرقانی اور دوسرے ابو عبد اللہ داستانی؟

شیخ ابوسعید فرماتے ہیں کہ ایک روز ابوالعباس قصاب عرفان ذات والوہیت حق تعالیٰ کی خدمت میں حاضر تھا، اثنائے کلام میں کہا، توحید کے بارے میں اشارہ کرنا اور اُس کی تشریح بیان کرنا تیرا حصہ ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کے وجود کے لئے اشارت و عبارت نہیں، پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے ابوسعید، اگر تجھ سے پوچھیں کہ اللہ کو پہچانتے ہو تو یہ نہ کہنا کہ پہچانتا ہوں کیونکہ ایسا کہنا شرک ہے، اور یہ بھی نہ کہنا کہ نہیں پہچانتا نہ یہ لفظ ہے، جہہ یوں ہو

کہ عرفنا اللہ ذاتہ والہیتہ بفضلہ کہ ہمیں اللہ نے اپنے فضل سے اپنی ذات اور  
الوہیت کی پہچان عطا فرمائی۔

شیخ ابوسعید کہتے ہیں کہ ایک اور موقع پر شیخ ابوالعباس نے لوگوں کے ایک گروہ سے فرمایا ابوسعید  
نازنین عالم ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس جملہ کا مفہوم انہیں چالیس برس کی عمر میں معلوم ہوا، کہ وہ خود  
اس مقام یعنی ولایت کو قبل از وقت نہیں پہنچ سکتے بلکہ اولیاء جو کہ انبیاء کے نائب ہیں، چالیس برس کی  
عمر سے قبل ولایت نہیں پاسکتے، اسی طرح جیسے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہم السلام کو نبوت عمر کے  
چالیسویں سال میں عطا ہوئی، سوائے بھی بن ذکریا علیہما السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے جنہیں  
چالیس برس تک پہنچنے سے قبل ہی نبوت عطا کی گئی، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد  
باری تعالیٰ ہے۔

يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتِنَاهُ  
الْحُكْمَ صَبِيًّا ۗ

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال یوں بیان فرمایا:

.. قَالُوا كَيْفَ نَكَلِمُهُ وَمَنْ مَا كَانَ

فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۗ

شیخ ابوسعید نے چالیس برس مکمل ریاضت و مجاہدت میں گزارے آپ کو اس سے قبل بھی کشف  
ہوتے تھے مگر اتمام و اکمال کے لئے یہ مدت ریاضت و تربیت آپ نے پوری کی۔

ایک مجلس میں کسی نے اس آیت کی تشریح پوچھی۔

”هَلْ آتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حُسَيْنٍ مِّن

الدَّهْرِ لَا يَكُن شَيْئًا مِّمَّا هَذَا كُورًا“ ۳

شیخ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ قابِ آدم کو چالیس برس مکہ و طائف کے درمیان رکھا گیا۔

• انا خلقنا الانسان من نطفة مشاج

نبتہ ۱۱

ارشادِ خداوندی کی تشریح کرتے ہوئے شیخ نے کہا۔ پھر اس قابِ آدم میں اخلاط رکھے۔ پھر اس کے سینے میں شرک، خود بینی و غرور، انصاف، انکار، خصومت، وحشت، گفتگو اور انانیت جیسی جبلتیں ودیعت کی گئیں۔

حسینؑ من الدھر سے مراد چالیس برس تک اُسے اس حالت میں رکھنا مراد ہے یعنی بندہ چالیسویں برس کی تکمیل پر اصل بلوغت کو پالیتا ہے، اور ارشادِ خداوندی ہے کہ پھر اپنے دوستوں کے سینہ سے ہر آلائش کو دور کر دیتا ہوں تاکہ انہیں پاک کر دوں۔

یہ سارے معاملات چالیس برس تک تمام ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہر بیان درست نہیں، جس نے چالیس برس سے کم مجاہدہ کیا اُس کے معاملات بھی کمال کو نہیں پہنچتے جس قدر کوئی ریاضت کرے گا اسی قدر حجاب اٹھتے جائیں گے اور حقیقت اس پر آشکارا ہوتی رہتی ہے مگر درمیان میں پھر حجاب میں چلی جاتی ہے، اور اس طرح تکمیل مراحل نہیں ہو پاتی، میں یہ باتیں نہ شنیدہ کہہ رہا ہوں اور نہ دیدہ بلکہ آئودہ بیان کر رہا ہوں۔

شیخ ابوسعیدؓ نے جب استاد ابوعلی دقاقؒ کو دیکھا تو اُن سے پوچھا کہ یا استاد! یہ بات کیا ہمیشہ رہتی ہے؟ یعنی انکشافِ حقائق، استاد نے کہا۔ نہیں، شیخ نے سر جھکایا، تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر پھر پوچھا۔ استاد کیا یہ بات ہمیشہ رہتی ہے؟ استاد نے کہا۔ نہیں۔ شیخ نے پھر سر جھکایا اور کچھ دیر بعد پھر سے ال کیا۔ استاد! کیا یہ کیفیت برقرار رہتی ہے؟ استاد نے جواب دیا۔ اگر جوتی ہے تو نادر ہوتی ہے، شیخ نے ہاتھ اوپر اٹھایا اور کہا۔ یہ اُنہی نادر باتوں میں سے ایک ہے یہ اُنہی نادر باتوں میں سے ایک ہے

۱۱: ۲۷، ۲۸ ہم نے انسان کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا۔

## امتحانِ شیخ

نیشاپور میں دو اشخاص نے آپس میں یہ بات کی کہ ہمیں کسی روز شیخ کا امتحان لینا چاہیے کہ کرامت دکھا سکتے ہیں یا نہیں؛ لہذا ہمیں اس مقصد کے لئے جا کر اُن سے کوئی چیز حاصل کر کے اُسے ہر سید پر فخر کونی چاہیئے الغرض انہوں نے تیاری کی اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا: ہمارے محلہ میں ایک یتیم لڑکی ہے، جس کی شادی کا بندوبست ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ سامان اُسے دینا تھا وہ سب ہم نے جمع کر لیا ہے، آج ہم اس کی رخصتی کر رہے ہیں ہم چاہتے کہ اُسے آپ کی روشنی کے ساتھ رخصت کریں اور آپ کا عطا کردہ تبرک انیس کی زندگی میں اُس کے کام آئے، شیخ نے یہ سن کر خادمِ حسنِ مودب سے فرمایا: حسن! دو بڑی شمعیں لا کر ان کو دو جو ہر سید ہنکا بیچتے ہیں، جب اُن دونوں نے یہ بات سنی تو اُن کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، پہرے شیخ کے قدموں سے ملنے لگے، معافی مانگی اور شیخ کے خدمت گاروں میں شامل ہو گئے۔

## طیبِ جسم کو طیبِ دل سے دوامِل گئی

شیخ ابو سعید جب ناتوان ہو گئے، تو طیب کو لایا گیا تاکہ شیخ کا علاج کرے طیب آتش پرست تھا اُس نے چاہا کہ ہاتھ شیخ کی نبض پر رکھے تو شیخ نے حسنِ مودب سے کہا: اے حسن!

ناخن تراش لاڈ۔ اس کے ناخن اتار دو۔ اس کے لبوں کے بڑھے ہوئے بال تراش دو، اور پانی لاڈ کہ یہ ہاتھ دھو لے، وہ طبیب حیران تھا اور جرات نہ کر سکا کہ فرمودہ شیخ کی مخالفت کرتا، میں نے حکم شیخ کو پورا کیا، پھر طبیب نے ہاتھ، شیخ کی نبض پر رکھا تو شیخ نے ہاتھ ایک طرف موڑ کر اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ایک لمحہ اس پر نگاہ ڈال کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، طبیب واپس جانے کو در خانقاہ سے نکلنے لگا تو مڑ کر دیکھنے لگا، شیخ نے اسے آواز دے کر کہا کہ تک یوں مڑ مڑ کر دیکھو گے، تجھے واپس جانے کی مہلت نہیں ملے گی! یہ سنتے ہی وہ آتش پرست طبیب واپس آ کر شیخ کے ہاتھ پر سلام لایا، اور اس کے تمام اہل خاندان بھی مسلمان ہو گئے۔

پیر ابوصالح دندانی؟ شیخ ابوسعید کے مرید خاص تھے، شیخ کے لئے خلال  
**اتباع سنت** تیار کرنے اور ان کے لبوں کے بال تراشنے کی خدمت یہی بجالاتے تھے  
ایک درویش نے پیر ابوصالح سے کہا کہ مجھے بھی لبوں کے بال تراشنے کا طریقہ سکھا دو، وہ مسکرایا اور  
کہا۔ اے درویش! ستر دانش مندوں جتنا علم چاہیے تب جا کر ایک شخص درویش کے موئے لب  
تراشنے کے قابل ہوتا ہے، یہ کام اتنا آسان نہیں، یہی پیر ابوصالح بیان کرتے ہیں کہ آخری عمر میں  
شیخ ابوسعید کا ایک دانت بھی باقی نہیں رہا تھا، مگر ہر رات جب کھانے سے فارغ ہوتے تو تجھ  
سے خلال طلب فرماتے اور منہ میں دانتوں کی جگہ پھوپھ پھرتے، جیسا کہ آدمی کی عادت ہے کہ ہر کسی پر  
اعتراض کرتا ہے میرے دل میں بھی یہ اعتراض پیدا ہوا کہ شیخ کے دانت تو ایک بھی نہیں مگر  
مجھ سے خلال طلب کرتے ہیں، اسی وقت شیخ نے سر اٹھایا اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں  
سنت پر عمل کرنے اور رحمت خداوندی کے طلب کرنے کی خاطر خلال کرتا ہوں کیونکہ رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "رَحِمَ اللَّهُ الْمُخَلَّلِينَ مِنْ أُمَّتِي فِي الْوُضُوءِ وَالطَّعَامِ"  
ترجمہ: اللہ تعالیٰ میری امت کے ان افراد پر رحم فرمائے جو وضو اور طعام میں خلال کرتے  
ہیں! جب میں نے شیخ کا یہ فرمودہ اور حدیث نبوی سنی تو مجھ پر گریہ طاری ہو گیا۔



اطاعتِ شیخ :- خواجہ علیک جو کہ شیخ ابوسعید کے مرید خاص تھے انہیں اور حسن مودب کو شیخ نے ایک کام کے سلسلے میں مہینہ روانہ فرمایا۔ خواجہ علیک کہتے ہیں جب ہم نوتان کے مقام پر پہنچے تو حسن نے کہا آؤ خواجہ مظفر سے مل لیں جو نوتان کے مرد بزرگ تھے خواجہ علیک نے کہا شیخ نے ہمیں مہینہ کے لئے روانہ کیا ہے ہمیں کہیں اور نہیں جانا چاہیے حسن مودب نے بہت کہا مگر بے سود، بالآخر دونوں مہینہ کے راستے پر چل پڑے اور مہینہ میں جو کام شیخ نے کہا تھا وہ کر کے جب واپس ہوئے اور نوتان پہنچے تو حسن نے کہا میں خواجہ مظفر سے ملنے جا رہا ہوں آپ کو میرے ساتھ جانا چاہیے مگر نہ میں تنہا چلوں گا، الغرض میں بھی ان کے ہمراہ خواجہ مظفر سے ملنے روانہ ہو پڑا، ان کے ہاں بیٹھے تو خواجہ مظفر نے گفتگو شروع کی، اور حسن مودب بیٹھے سن رہے تھے اور ان کا دل دہاں ٹھہرنے کو چاہ رہا تھا۔ خواجہ مظفر نے گفتگو ختم کر کے اور موضوع شروع کیا تو حسن کے دل میں ٹھہرنے کا خیال پیدا ہوا جب خواجہ مظفر نے دوسرے موضوع پر بات ختم کی تو میں نے ان سے کہا جہاں آپ نے گفتگو ختم کی ہے وہاں سے ہمارے شیخ ابوسعید، آغاز کرتے ہیں اس پر خواجہ مظفر جیسے ٹوٹ سے گئے، اور حسن یہ کیفیت دیکھ کر حقیقت حال سمجھ گئے خواجہ علیک کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے ہاں سے اٹھ کر باہر آگئے تو حسن مودب نے مجھے کہا میرے دل میں جو خیال پیدا ہو گیا تھا وہ تمہاری بات سے یکدم ختم ہو گیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ میں غلط تھا، جب ہم نیشاپور پہنچے تو خانقاہ میں داخل ہوتے ہی جب شیخ کی نظر ہم پر پڑی تو انہوں نے حسن سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر علیک تمہارے تھیلہ کو اٹاتا نہ تو اس شخص نے تو تمہارا تھیلہ بھر دیا تھا۔ یہ سن کر حسن زمین پر گر پڑا اور معافی چاہنے لگا۔

نیشاپور میں شیخ ابوسعید کے قیام کے دوران سلطان طعزل  
حق دوستی ادا کر دیا :- کے وزیر خواجہ ابومنصور رتانی بیمار پڑ گئے تو انہوں نے  
اتاد ابوالقاسم قشیری ادیش ابوسعید کو یاد کیا۔ جب دونوں شیوخ ان کے پاس پہنچے تو انہوں  
نے کہا میں نے آپ دونوں کی بڑی خدمتیں کی ہیں اور ہمیشہ آپ کو دوست جانا ہے۔ اب جب

کہ میں بستر مرگ پر ہوں تو میری آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ میرے جنازے کا ساتھ دینا اور اس وقت تک میری قبر سے واپس نہ ہونا جب تک میں آپ کی برکت سے سوال و جواب سے فارغ نہ ہو جاؤں، دونوں شیوخ نے اُن کی یہ درخواست قبول کر لی جب وزیر مذکورہ قضائے اہلی سے رخصت کر گئے تو استاد قیسری اور شیخ ابوسعید بخاری کے ساتھ روانہ ہوئے، قبرستان پہنچے تو استاد امام قیسری نے شیخ سے کہا۔ ابھی تک قبر مٹی سے نہیں بھری گئی اور سورج بھی ابھی غروب نہیں ہوا۔ آپ ٹھہریں تاکہ میں لوگوں کو رخصت کر دوں، شیخ ابوسعید نے قبر کے سرمانے جانے نماز بھائی اور بیٹھ گئے، قبر میں مٹی ڈالنے کا کام تمام ہوا، تو شیخ اٹھے اور فرمایا کام مکمل ہو گیا، اور چل پڑے جب استاد قیسری کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا۔ وصیت کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ شیخ نے فرمایا۔ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس دوران باقی لوگوں نے بھی پوچھنا شروع کیا کہ وہ وصیت کا کیا معاملہ تھا؟ استاد قیسری نے بھی کہا۔ اسے شیخ وصیت کا کیا بنا؟ شیخ نے فرمایا۔ فرشتے آئے، سوال کرنے لگے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا۔ تم دیکھ نہیں رہے کہ اس کے سرمانے کون بیٹھا ہے؟ اور اتنا کہہ کر وہ رخصت ہو گئے، اور میں بھی وہاں سے چل پڑا

ابراہیم نیال، سلطان طعزل کا چھوٹا بھائی تھا، یہ شخص

ابراہیم نیال کو تو وال نیشاپور بہت ظالم اور نیشاپور کا کو تو وال تھا، اہل نیشاپور شیخ

ابوسعید سے ہر مجلس میں اس کے لئے بد دعا کی درخواست کرتے تھے، شیخ بد دعا نہ کرتے اور ہمیشہ یہی کہتے کہ نیک ہو جائے گا، تا آنکہ ایک جمعہ کو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت رویا،

مجلس ختم ہوئی تو وہ آپ کی منہ کے رد برد آ کر کھڑا ہو گیا، شیخ نے پوچھا۔ کیا بات ہے؟ ہنس لگا مجھے قبول فرمائیں، شیخ نے فرمایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اُس نے تیسری بار کہا تو شیخ نے اُس

کی جانب گہری نظر سے دیکھ کر فرمایا قبول کروں گا مگر آسائش و نعمت جاتی رہے گی۔ اُس نے کہا

قبول ہے۔ یہ بھی قبول ہے، بعد ازاں شیخ نے قلم دوات منگوا کر ایک کاغذ پر لکھا۔ ابراہیم مجھ سے

ہے۔ فضل اللہ (ابوسعید) ابراہیم نیال نے وہ کاغذ لے کر اسے بوسہ دیا اور اپنی جیب میں رکھا

اور خانقاہ سے باہر چلا گیا، اسی رات ابراہیم عراق روانہ ہوا اور ہمدان بیٹھ کر اعلانِ بغاوت کر دیا سلطان طغرل نے اس سے جنگ لڑی اور اسے گرفتار کر لیا، اُس نے سلطان کو پیغام بھیجا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے قتل کریں گے، میری آپ سے صرف اتنی حاجت ہے کہ جب مجھے خاک میں رکھا جائے تو میرے بیب میں شیخ ابوسعید کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک تحریر ہے جسے میرے ہاتھ میں دے دیا جائے، کیونکہ یہ جو کچھ ہوا انہوں نے مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا اور اب پس مرگ ان کا یہ رقعہ ہی میری دستگیری کرے گا۔

شیخ ابوسعید کسی جگہ سے صوفیوں کے ایک گروہ کے ساتھ نیشاپور  
**اخلاقِ خانقاہی :-** میں کوچہ عدی کو بیان آرہے تھے، جب وہاں پہنچے تو ایک قصاب

نے انہیں دیکھا۔ جو دل ہی دل میں انہیں رہنہ گالیاں دے رہا تھا۔ شیخ اپنی فراست باطنی سے قصاب کی دشنام طرازی سے مطلع ہو گئے اور حسن مؤدب سے کہا جاؤ اُس قصاب کو میرے پاس بلا لاؤ، حسن مؤدب نے جا کر اُس سے کہا۔ شیخ تمہیں بلا تے ہیں قصاب پر رزہ طاری ہو گیا اور حسن کے ہمراہ جانب شیخ چل پڑا۔ ادھر شیخ نے ایک صوفی کو بھیجا کہ راستے سے ہی قصاب کو حمام میں لے جانے حسن مؤدب اُسے صوفی کے حوالہ کو کے خدمتِ شیخ میں حاضر ہوا، شیخ نے اُسے فرمایا۔ بازار سے باریک سوتی کپڑا، جوتے اور طبری دستار خرید کر حمام میں جاؤ اور اپنے ساتھ دو صوفی بھی لے جاؤ تاکہ وہ اُس قصاب کی مالش کریں۔ حسن نے حسبِ حکم دو صوفیوں کو حمام روانہ کیا اور خود بازار سے سب چیزیں خرید لایا، شیخ نے حکم دیا کہ خانقاہ میں موجود صوفی فوری طور پر لباس تیار کریں، لباس تیار ہو گیا تو حسن سے فرمایا۔ جاؤ یہ لباس اور سودرہم اس قصاب کو حمام میں دے آؤ اور اس سے کہو کہ وہی سخن جو تم نے ہماری بابت کہا تھا، کہتے رہو اور جب بھی یہ رقم ختم ہو جائے آکر اور لے جاؤ، حسن نے ایسا ہی کہا تو قصاب رو پڑا اور بارگاہِ شیخ میں حاضر ہو کر شیخ کلمہ یہ ہو گیا۔

ابو بکر شوکانی کہتے ہیں کہ میرے والد دانشمند مہرنے  
**سات، سات اور سات :-** بیان کیا کہ نیشاپور میں زمانہ طالب علمی کے دوران ہرز

درس سے فارغ ہو کر نمازِ عصر تک شیخ کی خدمت میں حاضر رہتا اور پھر مدرسہ لوٹ جاتا، حسبِ معمول ایک روز میں حاضر ہوا تو شیخ نے کثرہ سجادہ اٹھا کر ایک مشت کشمش نکالی اور کہا صوفیوں کے لئے نذرانہ آیا تھا۔ میں نے تہنہ راحہ چھوڑا تھا۔ ہر ایک کے لئے سات سات اور سات مدرسہ میں میرا ایک ساتھی تھا۔ یعنی ہم درتھے، مگر شیخ نے تین بار سات کا عدد دہرایا تھا۔

خدمتِ شیخ سے رخصت ہو کر مدرسہ جاتے ہوئے راستہ میں کشمش شمار کئے تو اکیس تھے۔ مدرسہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ عراق سے میرے ساتھی کا بھائی آیا ہے اور میرے ہی کمرہ میں بیٹھا ہے اس وقت مجھ پر شیخ کے تین بار سات کا عدد دہرانے کا اشارہ کھلا الغرض میں نے ہمان کا حال احوال پوچھا اور کشمش تین حصے کر کے بانٹ لی۔

خواجہ امام ابوعلی فارمدی بیان کرتے ہیں کہ ابتدائے جوانی میں نیشاپور کے مدرسہ سراجان میں پڑھتا تھا۔ ان دنوں ایک عرصہ سے یہ خبر گرم کلکی کہ میہنہ سے شیخ ابوسعید آئے ہیں مجلس منعقد کرتے ہیں ان سے کلامات کا ظہور ہوتا ہے، ہر مذہب و مسلک کے امام اور اہل نیشاپور ان کے معتقد ہو چکے ہیں، میں بھی ان کو دیکھنے گیا، جب نظر ان کے جمال پر پڑی تو میں ان پر فریفتہ ہو گیا اور اس طائفہ صوفیہ کے لئے میرے دل میں بے حد محبت و عقیدت پیدا ہو گئی، ہر روز اس ٹوڈ میں رہتا کہ کب شیخ مجلس میں تشریف فرما ہوں جو میں ان کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی کر دوں، میں پوشیدہ طور پر ان سے منسلک ہو گیا، اور یہ خیال کرتا تھا کہ شیخ کو معلوم نہیں، ایک روزہ مدرسہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا میرے دل میں شیخ سے ملنے کی تڑپ نے ایسی کوٹ لی کہ مجھ سے صبر کرنا مشکل ہو گیا۔ اٹھ کر باہر آ گیا۔ چوراہے میں پہنچا تو شیخ کو ایک بڑی جماعت کے ساتھ گزرتے دیکھا میں بھی دیوانہ وار ان کے پیچھے پیچھے ہویا، شیخ کسی کے ہاں دعوت پر جا رہے تھے، جب صاحبِ دعوت کے مکان میں داخل ہوئے تو میں بھی سب کے ساتھ اندر چلا گیا اور ایک کونے میں اس طرح بیٹھ گیا کہ شیخ کو نظر نہ آتا تھا، جب سماع شروع ہوا اور شیخ پر جد کی کیفیت طاری ہوئی تو انہوں نے پیرا، ہن چاک کر دیا۔ سماع سے فارغ ہوئے تو اپنی آستین قمیس سے جد کر کے آواز دی کہ اے ابوعلی طلوسی

کہاں ہو؟ میں نے یہ خیال کر کے جواب نہ دیا کہ شیخ نے مجھے دیکھا ہے اور نہ مجھے جانتے ہیں جماعت میں سے کس کا نام ابو علی ہے جسے شیخ نے پکارا ہے۔ شیخ نے دوبارہ پکارا میں نے پھر کوئی جواب نہ دیا، لوگوں نے مجھ سے کہا شیخ تمہیں بلارہے ہیں، میں اٹھ کر شیخ کے سامنے حاضر ہوا، انہوں نے قمیص کی آستین مجھے دیتے ہوئے فرمایا۔ تو میرے لئے منزلہ آستین کے بے میں آستین لے کر اسے بوسہ دیا، اور مسلسل خدمت شیخ میں معاصر دیتا رہا اور ان کے فیض سے بہرہ ور ہوتا رہا، شیخ ابو سعید کے فیض پور سے چلے جانے کے بعد استاد قشیری کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے اپنے احوال بیان کئے، انہوں نے فرمایا بیٹے! جاؤ علم حاصل کرو۔ دو تین برس تحصیل علم میں گزارو تو ایک روز کیا دیکھتا ہوں کہ قلم و دوات میں ڈالا تو سیاہی سے خشک برآمد ہوا، تین بار ایسا ہی کیا مگر قلم سیاہی سے خالی رہا۔ سیدھا استاد قشیری کے پاس گیا واقعہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا۔ جب علم نے تم سے ہاتھ کھینچ لیا ہے تو تم بھی اس سے دلکش ہو جاؤ، اور معاملہ شروع کرو، میں نے مدرسہ سے سامان سمیٹا اور خانقاہ چلا گیا، استاد قشیری کی خدمت میں رہنے لگا، ایک روز وہ غسل کرنے غسل خانہ میں داخل ہوئے تو میں نے جا کر دو ڈول غسل خانہ کی ٹینکی میں ڈال دیئے۔ غسل کر کے جب استاد باہر نکلے اور نازا داکر لی تو پوچھا کہ یہ کون تھا جس نے پانی ڈالا، میں نے بے ادبی کے پیش نظر جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار پوچھا تو جواب دیا کہ پانی میں نے ڈالا تھا، انہوں نے فرمایا۔ ابو علی! جو مقام ابوالقاسم ستر سال میں حاصل نہ کر سکا تم نے پانی ایک ڈول ڈال کر پالیا، ایک عرصہ تک ان کے زیر تربیت مجاہد میں مشغول رہنے کے بعد ایک دن آیا کہ میں ایک خاص حالت میں محو ہو گیا۔ میں نے استاد سے عرض کیا تو انہوں نے کہا۔ میری حد اس سلسلے میں اس سے آگے نہیں کہ تمہاری مزید ہنمانی کر سکوں، میری خواہش تھی کہ کوئی ایسا مرشد مجھ کو مل جاتا جو مجھے اس راہ پر آگے لے جاتا میں نے ابوالقاسم گرجانی کا نام سن رکھا تھا۔ سیدھا طوس روانہ ہوا۔ ان کی فرودگاہ سے واقف نہ تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ محلہ رودبار کی مسجد میں اپنے مریدوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، الغرض مسجد میں پہنچا، شیخ تشریف فرم تھے میں نے دو رکعت ادا کئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ انہوں نے

سراٹھا کہ پوچھا۔ سناؤ ابو علی کیا معاملہ ہے؟ میں نے اپنا سارا حال سنایا، انہوں نے فرمایا مبارک ہو اب ابتداء کو پہنچے ہو، اگر تربیت پاؤ تو مقام پاؤ گے، اُن کی بات سن کر میں نے سمجھ لیا کہ میرے ارشد یہی ہیں، اور ان کی خانقاہ میں فردکش ہو گیا، ایک عرصہ بعد شیخ نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دی۔ خواجہ امام ابو علی فارمدی کہتے ہیں کہ جن دنوں میں شیخ ابوالقاسم گگانی کے زیر تربیت ریاضت مجاہدہ میں مشغول تھا اور ہنوز شیخ ابوالقاسم نے مجھے فرقہ عطا کرنے کی مجلس منعقد نہیں کی تھی تو میری ملاقات شیخ ابوسعید سے اُن کے طوس میں آمد پر ہوئی، اس وقت انہوں نے فرمایا تھا۔ اے ابو علی! جلد ہی تہارے طوطی کو گویا کر دیا جائے گا، اس کے تھوڑے ہی عرصہ بعد مجھے شیخ ابوالقاسم نے فرقہ عطا کیا اور مجھ پر شیخ ابوسعید کی بات کھل گئی۔

خواجہ امام ابو نصر عیاض سرخسی نے کہا میں نیشاپور  
طعمہ ہر مرغ کے انجیر نلیست :- میں خواجہ امام ابو محمد جوینی سے ایک طویل عرصہ تک

حصولِ علم کرتا رہا، اس دوران میں نے سنا کہ شیخ ابوسعید میہنہ سے تشریف لائے ہیں، اور مجلس منعقد کرتے ہیں میں بھی نقطہ دیکھنے کی خاطر ان کی مجلس میں گیا جب اُن پر نظر پڑی تو ان کی ہیبت و فراست نے مجھے جو حیرت کر دیا، اُن کی گفتگو کا مجھ پر اس قدر اثر ہوا کہ میں نے خود سے کہا۔ اگرچہ علمی لحاظ سے میں بہت بڑے درجہ پر فائز ہوں تاہم راہِ خدا پر چلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں اور راہِ خدا ہی ہے جو یہ مردِ بزرگ کہتا ہے، مجھے بھی اس راہ پر چلنا چاہیے، جو نہی میرے دل میں یہ خیال گذرا اسی وقت شیخ نے منبر پر سے فرمایا۔ ضرور آنا چاہیے میں گفتہ شیخ سے بہت خوش ہوا کہ دیکھو شیخ نے کہاں یہ جملہ کہا، اور اس کے ساتھ ہی میرے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ شیخ نے اتفاقاً ایسا کہا، بہر حال شیخ نے گفتگو جاری رکھی اور ایک بار میرے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے اس راہ پر چلنا چاہیے تو معاً شیخ نے پھر فرمایا۔ اس سلسلے میں تاخیر کیسی؟ جب شیخ کی یہ کرامت دوسری بار ظاہر ہوئی تو میرے دل کا شک دور ہو گیا۔

انتظام مجلس پر میں اٹھ کر واپس مدرسہ آیا تاکہ سامانِ باندھوں اور شیخ کی خدمت میں حاضر

ہو جاؤں، کسی نے خواجہ ابو محمد جوینیؒ کو خبر کر دی وہ فوراً میرے پاس آئے اور دریافت کرنے لگے کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے سب حال انہیں بتا دیا، انہوں نے کہا میں تمہیں شیخ ابوسعیدؒ کے پاس جانے سے نہیں روکتا کیونکہ تم نے ان کے رعب، کرامات اور نیک کردار کو دیکھ لیا ہے، اب اگر یہ سمجھو کہ تم بھی ان کے مقام کو پہنچ جاؤ گے تو ایسا سمجھنا سخت غلطی ہوگی کیونکہ جن ریاضات اور مجاہدات سے وہ گزے ہیں تم انہیں نہیں جانتے، مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے، تب جا کر یہ مقام پایا ہے، اگر سو آدمی وہی ریاضت کریں جو انہوں نے کی ہے تو بھی اللہ ان کو وہ کچھ عطا نہ کرے گا جو ابوسعیدؒ کو عطا فرمایا ہے، اس طرح تو تم اپنے علمی کام سے بھی دور چلے جاؤ گے اور اس حالت کو حاصل نہ کر سکو گے جس تک شیخ کی رسائی ہے، جب میں نے ابو محمد جوینیؒ کی اس بات پر غور کیا تو اُسے صحیح پایا، الغرض میری عقیدت شیخ ابوسعیدؒ سے قائم رہی ان کی خدمت میں جانا وہ التفات فرماتے مجھے فائدہ ہوتا اور اس کے ساتھ اپنے علمی مشاغل بھی جاری رکھے۔

استاد اسماعیل صابونیؒ کا بیان ہے کہ میں ایک رات

سویا ہوا تھا، جب عبادت کے لئے اٹھنے کا وقت ہوا

تو میں نے سُستی کی اور سوتا رہا، سر ہانے پانی کا برتن رکھا تھا، بلی نے اُسے گرا دیا، میری نیند کھل گئی مگر کاہلی دست سے پھر میری آنکھ لگ گئی اسی وقت ایک پتھر اوپر سے مکان کے درمیان پڑے ہوئے ایک تھاں میں گرا، گھر کے لوگوں نے شور بلند کیا کہ چور ہے، میں بیدار ہوا اور عبادت میں مشغول ہو گیا، صبح ہوئی تو مجلس شیخ میں گیا، شیخ نے اٹھائے گفتگو میں میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ جب بندہ ساری رات سوتا رہے اور دیر تک بیدار نہ ہو تو چور ہے بلی کو لڑا دیا جاتا ہے تاکہ پانی کا برتن گرا کر سونے والے کو بیدار کر دیں، اور چور سے مکان میں پتھر پھینکنے کو کہا جاتا ہے گھر کے لوگ چور چور پکارتے ہیں مگر چور کب ہوتا ہے، وہ تو میرا فرستادہ ہوتا ہے کہ تجھے خواب سے بیدار کر دے تاکہ کچھ دیر تو مجھ سے باتیں کریں۔

مردوی بتا دو کسں بیا مت بوم      گفتی دزد دست دزد و بند من بوم

ترجمہ :- میرے چاند جیسے محبوب کی تیرے بام پر میں تھا تو نے کہا چور ہے چور نہ تھا وہ  
میں تھا۔

مُرید امام اویس شیخ مقتدی :- خواجہ ابوالفتح کہتے ہیں کہ پیر موسیٰ کا بیان ہے کہ ایک روز  
شیخ نے مجھ سے نیشاپور میں فرمایا۔ آگے بڑھو اور دو رکعت

نماز پڑھاؤ تاکہ میں تمہاری اقتدار کروں، اور نماز میں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہر جگہ پڑھ ڈالو، پیر  
موسے کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ ایسا کونامیر سے بس میں نہیں تاہم حکم شیخ کی تعمیل میں تکبیر کہی اور  
قرآن کریم میں موجود ہر جگہ میری زبان پر جاری ہو گئی جب دو رکعت پڑھا چکا تو شیخ نے فرمایا  
اے موسیٰ! میں اللہ کا شکر ادا کرنے سے عاجز تھا، تم نے میری اس سلسلے میں مدد کی اللہ تمہارا بھلا کرے،

ابو بکر مکرّم نے کہا کہ نیشاپور کا ایک حاکم مسلسل شیخ کا احتساب کرتا  
اہتمام اولیاء :- رہتا تھا، ایک دن شیخ کے پاس کہیں سے ہزار دینار اور عود بظور

تھخ آیا، آپ نے خادم خاص حسن مؤدب سے کہا۔ دعوت کا اہتمام کرو، شور با اور مشرینی تیار کرو اور  
اور سارے عود کو آگ میں ڈال دو تاکہ ہمایوں کو بھی اُس میں سے خوشبو پہنچے، دعوت کا اہتمام ہوا اور  
عود جلنے لگا تو حاکم نیشاپور بھی شیخ سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرنے کے لئے وہاں پہنچ گیا، اُس  
نے شیخ سے کہا۔ اس قحط سالی و تنگ مالی کے زمانہ میں آپ کا اس قدر اصراف کیا جواز رکھتا ہے،  
وہ آپ کے ساتھ اس قدر گستاخی و ترشی سے پیش آیا کہ ہمارے سب ساتھی بہت رنجیدہ ہو گئے۔

مگر شیخ نے اُسے کوئی جواب نہ دیا۔ جب وہ حد سے بڑھنے لگا تو شیخ نے اس کی جانب نگاہ کی اور  
فرمایا۔ ادھر آؤ، حاکم یہ سنتے ہی دوہرا ہو کر حاضر ہوا، آپ نے کہا اور دوہرے ہو جاؤ اور اُس کی  
کمرزید دہری ہو گئی اور وہیں کی وہیں رہ گئی، بمشکل تمام وہ حاکم وہاں سے نکل کر خانقاہ کے پہلو  
میں ایک مسجد میں بیٹھ گیا، شیخ نے ایک درویش کو اس کی دیکھ بھال پر مقرر کر دیا۔ ڈھائی سال وہ  
اُسی طرح دہری مکر کے ساتھ مسجد میں رہا اور وہیں انتقال کر گیا۔

اس لئے علماء اور بزرگان کرام کا کہنا ہے کہ مشائخ کرام اور اہل حال کے سامنے عیا کی و گستاخی



سے احتراز کرنا چاہیے، ان کے وقت اور ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے ان کے حضور میں جانا چاہیے کیونکہ ان کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ اگر حالت قبض میں کسی پران کی تہر کی نگاہ پڑ جائے تو وہ ہلاکت سے دوچار ہو جائے،

خاجہ اسماعیل مکرم کا بیان ہے کہ ایک روز میں جا رہا تھا کہ سلسلے سے شوق پابوسی :- شیخ ابوسعید آتے دکھائی دیئے، میں نے قریب جا کر سلام عرض کیا انہوں نے نہایت خندہ پیشانی سے جواب دیا، میں ان کے پیچھے روانہ ہو گیا، اور میری نظر کا ب میں ان کے پاؤں پر تھی اور دل میں یہ سوچتا جاتا تھا کہ کاش شیخ اجازت دیں تو ان کے پائے بوسی کا شرف حاصل کروں، کہ اسی وقت شیخ گھوڑے کی لگام کھینچ کر رک گئے۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو رکاب سے پاؤں نکال کر میرے سامنے کیا میں نے پاؤں پر بوسہ دیا، اور شیخ ایک طرف اور میں دوسری جانب چل پڑا۔

رشید الطائفہ عبد الجلیل کہتے ہیں کہ نیشاپور میں شیخ ابوسعید کے ایک درویش صفت برکت شیخ :- مرید کا انگور کا باغ تھا اس نے شیخ کو مریدین سمیت وہاں آنے کی دعوت دی، مگر شیخ نے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کئی بار آیا مگر شیخ نہ مانے بہت التجاؤں کے بعد شیخ اپنے مریدین کے ساتھ روانہ ہو گئے، باغ چھوٹا تھا اور لوگ کافی، سارے انگور ختم ہو گئے، اس درویش نے دو خوشے انگور کے باغ کے ایک کونہ میں اس طرح چھپا کر رکھے کہ کسی کو خبر نہ ہوئی۔ مریدین شیخ نے جب انگور کی بلیں خالی کر دیں تو وہاں سے چل پڑے، اس مرد درویش جب اپنے باغ پر نظر ڈالی تو وہاں کچھ بھی باقی نہ پایا، کسی نے اس سے کہا اللہ برکت دے گا، اس نے کہا۔ اس سال کی برکت تو گئی، الغرض شیخ کے جانے کے بعد اس مرید شیخ نے بہت غصے کا اظہار کیا اور باغ کا دروازہ بند کر کے باہر آ گیا، اور اب کے گرمیوں کے موسم میں باغ میں نہیں گیا، نہ ہی شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، دوسرے سال جب باغ کی نگہداشت اور دیکھ بھال کا موسم آیا اور لوگ اپنے اپنے باغوں کے بندوبست میں لگ گئے تو اس نے دل میں سوچا کہ اسے بھی باغ کو تیار کرنا چاہیے، آخر باغ

کا کیا تصور ہے سارا تصور تو اس کا اپنا ہے، یہ سوچ کر وہ باغ میں گیا، وہاں کیا دیکھتا ہے کہ جو وہ خوشے انگور کے اُس نے چھپا رکھے تھے وہ جوں کے توں تازہ حالت میں پتوں سمیت پڑے تھے، خود سے کہنے لگا، یہ انگور بادشاہ کی خدمت میں لے جاؤں گا تاکہ وہ مجھے انعام و اکرام دے، اور انگور ایک طشت میں رکھ کر وہ بادشاہ سوری کے پاس گیا، بادشاہ نے خوش ہو کر اُس کے طشت کو دولت سے بھر دینے کا حکم دیا، اس انعام سے اُسے بڑی خوشی ہوئی اور اُسے شیخ کی آمد کی برکت سمجھا اپنے کئے پر نادم ہوا۔ اور دس دینار بادشاہ کی دی ہوئی دولت میں سے لے کر شیخ ابو سعید کی خدمت میں معذرت چاہتے حاضر ہوا، جب شیخ کی نگاہ اُس پر پڑی تو فرمایا، اگر بادشاہ سوری تیرے انگور نہ کھاتا تو ہلاک ہو جاتا، وہ مرید شیخ کے قدموں میں گر پڑا اور اپنے کئے کی معافی چاہی۔

نیشاپور میں اپنے قیام کے دوران خانقاہ بڑی پر تکلف دعوتوں کا عجیب چلہ کشی ہوا۔ اہتمام فرماتے تھے، وہاں کے ایک مخالف عالم نے ایک روز آپ کے

پاس آ کر کہا۔ شیخ! میں آپ کے ساتھ چلہ کرنا چاہتا ہوں، اُس بے چارے کو شیخ کی ابتدائی ریاضتوں کی خبر نہ تھی بے خبری میں یہ سمجھ بیٹھا کہ شیخ ساری عمر اسی طرح پر تکلف دعوتوں کے عادی رہے ہیں میں اُن کو بھوک سے دوچار کر دوں گا، تو ان کی اہمیت لوگوں پر آشکارا ہو جائے گی، اور میں برسرِ عام اُن کو رسوا کر سکوں گا، الغرض شیخ نے اُس کی بات تسلیم کر کے چلہ کاٹنے کے لئے سجادہ بچھایا اور اس مخالف عالم نے بھی اُن کے پہلو میں سجادہ بچھا دیا، دونوں ساتھ ساتھ بیٹھ گئے، وہ شخص چلہ کشی کے مطابق کچھ کھالیتا تھا مگر شیخ تھوڑا بہت کچھ بھی نہ کھاتے، اور پر تکلف دعوتوں کا اہتمام جاری رکھا۔ جس میں خانقاہ پر اُن کے سوا موجود سارے درویش شریک ہوتے، شیخ کا چہرہ یاد ہو کچھ نہ کھانسنے کے روز بروز سرخ سے سرخ تر ہوتا جاتا تھا جبکہ اُس مخالف کا چہرہ دن بدن کمزور سے کمزور تر دکھائی دینے لگا، اور پر تکلف دعوتیں دیکھ دیکھ کر دل ہی دل میں یح و تاب کھاتا رہتا، اُسے اس قدر ضعف ہو گیا کہ نماز پڑھنا بھی دشوار ہو گیا، اپنے دعوتوں پر پشیمان ہوا اور جان لیا کہ اُسے تو کچھ پتہ ہی نہ تھا جب چالیس روز کا چلہ مکمل ہو گیا تو شیخ نے فرمایا۔ تمہارا کہنا میں نے

مانا اب میرا کہنا تم مانو، اُس مدعی نے کہا، فرمائیے۔ شیخ نے کہا۔ اب چالیس روز کا ایک اور چلہ کریں گے اور وہ یہ کہ ہم دونوں چیزیں کھائیں گے مگر رفع حاجت کے لئے نہیں جائیں گے اس پر دونوں کا اتفاق ہو گیا تو شیخ نے پر تکلف کھانے لانے کے لئے کہا کھانے آگئے، اس مخالف عالم نے چالیس روز کی بھوک گزاری تھی، خوب جی بھر کر کھایا، ابھی ایک گھنٹہ بھی نہ گذرا تھا کہ اسے پیشاب کی حاجت ہوئی، شیخ اُس کی حالت کو دیکھ کر خاموش رہے، مگر وہ شخص صبر نہ کر سکا، اور شیخ کے پاؤں پر گر کر توبہ کی، پھر شیخ نے کہا۔ اب تو رفع حاجت کر لے، جس طرح چاہے زندگی بسر کر اور میرے پاس بیٹھ تاکہ میں وہ کچھ تمہیں کہہ سکوں جو ہم نے باہم ط کیا تھا، بعد ازاں وہ مدعی چالیس روز شیخ کے پاس بیٹھا رہا اور جب چاہتا رفع حاجت کے لئے چلا جاتا، مگر شیخ پورے چالیس دن رفع حاجت کو نہ گئے۔ جبکہ وہ برابر کھانا بھی کھاتے رہے، اور اپنے معمول کے مطابق وجد و نوح میں بھی مشغول رہے، مدعی نے یہ حالت دیکھی تو معذرت چاہی اور شیخ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا

ابو عبداللہ کرام کے ساتھیوں میں سے ایک محتسب نیشاپور  
مسلمان آزار محتسب میں رہتے تھے جو شیخ ابوسعید کے مخالف تھے ایک روز وہ  
دھوبی کو کپڑے دینے جا رہا تھا خانقاہ شیخ راستے میں تھی، جب وہ وہاں سے گذرا تو شیخ ابوسعید  
و عظ فرما رہے تھے، محتسب نے خود سے کہا کہ ابھی واپس آ کر شیخ سے نبٹ لوں گا، الغرض وہ دھوبی  
کے پاس پہنچا اور اسے چاندی کا ایک درہم دیا، دھوبی نے کہا کم از کم صابن اور کھار کا خرچہ تو  
دیتے جاؤ، کیونکہ میں تو ایک ترک کے ہاں مزدور ہوں، محتسب نے اس کے چند سخت دُڑے  
رید کئے، وہ بوڑھا دھوبی رونے لگا، اور محتسب واپس چلا گیا، جب خانقاہ کے دروازے  
پر پہنچا تو شیخ ابھی و عظ فرما رہے تھے۔ وہ اندر گیا اور شیخ سے کہنے لگا۔ یہ دو غلابن اور مکروہیل  
کب تک جاری رہے گا، شیخ نے فرمایا۔ پھر کیا کرنا چاہیئے؟ محتسب کہنے لگا۔ یہ مجلس اور اشعار  
سنانا بند ہونا چاہیئے، شیخ نے جواب دیا ایسا ہی کہوں گا جو تم چاہتے ہو مگر تمہیں بھی تو صبح صبح ایسا

نہیں کرنا چاہتے کہ دھوبی کو کپڑے دھونے کے لئے ایک دہم دیا۔ جب وہ کہے کہ کم از کم کھا رہا ہوں  
کا خرچہ دو کہ میں ایک ترک کے ہاں مزدور ہوں اور تو اُسے درے مارے اور وہ روتا ہوا  
صحرا میں درد سے بلبلانے، اور تمہیں ترس نہ آئے، اگر کپڑے دھلوانے ہوں تو حسن موڈب کو  
دے جایا کرو وہ دھو دیا کرے گا، اور عطر و گلاب میں بسا کر آپ کے پاس بھجوا دیا کرے گا، تاکہ  
کوئی مسلمان تیرے آزار سے بچا رہے، اور تو گناہ سے محتسب نے جب یہ سنا تو بہت شرمندہ  
ہوا، شیخ کے قدموں پر گر پڑا اور اس دن سے شیخ کی مخالفت سے تائب ہوا۔

خواجہ ابوالفتوح عیاضی فرماتے ہیں کہ میں نے خواجہ حسین عبادریشی سے سنا تھا کہ وہ خود  
نیشاپور میں حضرت شیخ کی مجلس میں موجود تھے حضرت گفتگو فرما رہے تھے میرے دل میں اپنی والدہ  
اور سرخس کا خیال آیا۔ شیخ نے اسی وقت مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا

يَتَجَمَّلُ عَلٰى اُمَّ عَلِيٍّ حَنِيتًا، تَسُوخُ وَ تَبْكِي مِّنْ بِنْدَائِكَ دَانِيَاءُ

میں اسی وقت مجلس سے اٹھا باہر آیا۔ اور سرخس کو روانہ ہو گیا۔ میں گھر پہنچا تو والدہ اس  
وقت مرض موت میں تھیں۔ میں اس کے سر ہانے پہنچ کر آبدیدہ ہو گیا۔ وہ دوسرے روز وفات  
پاگئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ حضرت شیخ نے مجھے جلدی کرنے کا جو حکم دیا تھا۔ وہ اسی وقت  
کے لئے تھا۔

حضرت شیخ ایک دن نیشاپور میں مجلس فرما رہے تھے۔ ایک تاجر بھی آپ کی مجلس میں تھا۔ اس  
نے دل میں سوچا کہ وہ حضرت کو اپنے گھر لے جائے گا۔ اور آپ کی حلوے سے تواضع کرے گا۔ آپ  
نے دورانِ وعظ ہی اس تاجر کی طرف منہ کر کے فرمایا۔ اے نوجوان! ہمارے لئے جو حلوہ تیار کر رہے  
ہو۔ وہ کسی مزدور کو دے دینا۔ وہ ہمارے پاس اٹھالائے گا۔ راستہ میں جہاں تھک جائے وہ  
رکھ لے گا۔ وہ شخص اپنے گھر گیا۔ حلوے کا دیگچہ مزدور کے سر پر رکھا راتے میں ایک جگہ مزدور  
تھک گیا۔ اور اس نے ایک مکان کے دروازے کے سامنے دیگچہ رکھ دیا۔ گھر والوں کو آواز دی  
ایک بوڑھا آیا۔ اور کہنے لگا۔ تم گڑ کا حلوہ لائے ہو تو اندر سے آؤ۔ مزدور نے سوچا غالباً یہ بھی

حضرت شیخ کی کرامت ہے کہ آنے والے نے خود ہی سمجھ لیا کہ یہ گڑ کا حلوہ ہے اندر جا کر پوچھا۔ آپ لوگوں کو کس طرح معلوم ہوا ہے کہ یہ گڑ کا حلوہ ہے۔ اس نے کہا۔ ہم کئی روز سے بھوکے تھے۔ ہمارے بچے نے اللہ سے دعائی تھی۔ اے اللہ! ہمیں گڑ کا حلوہ بھیج دے۔ اللہ نے یہ ہماری دعا قبول فرمادی۔ اور حضرت شیخ کے تصرف سے ہماری بھوک جاتی رہی۔

حضرت شیخ ابوالحسن سجاری نے شیخ ابوسلم وہ دیکھتے ہیں آپ کو پر دیکھتے نہیں :- ہر سی کی زبانی سنا تھا کہ نیشاپور میں

شیخ عبدالرحمن سلمی کا انتقال ہوا۔ میں حضرت ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لئے میہنہ رفا ہوا۔ یہ زمانہ آپ کی ابتدائی زندگی کا تھا۔ میں میہنہ میں پہنچا تو یہاں مسجد میں گیا۔ وہاں حضرت شیخ جہوہ فرماتے تھے۔ آپ نے مجھے بے حد عزت و احترام سے بلایا۔ ایک درویش کو حکم دیا کہ کچھ کھانے پینے کے لئے لاؤ۔ وہ درویش گیا اور واپس آکر کہنے لگا حضرت آج تو کچھ بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا۔ یا فقیر ما افسرک! میں ایک دن آپ کی خدمت میں رہا۔ دوسرے دن واپس آنے لگا تو میں نے حضرت سے التجا کی کہ مجھے کاغذ پر کچھ لکھ دیں۔ میں نے کاغذ پیش کیا۔ تو آپ نے لکھا۔

تَقْشَعُ غَيْمَ الْجَبْرِ عَنْ قَمَرِ الْحُبِّ  
وَإَشْرُقَ نَوْرَ الصَّبْحِ فِي ظُلْمَةِ الْعَيْبِ  
وَجَانِسِمِ الْإِعْتِدَارِ مُحْمَفًا  
فَصَادَقَهُ حَسَنُ الْقَبُولِ مِنْ الْقَلْبِ  
ترجمہ :-

میں نے کاغذ اٹھایا۔ اور حضرت شیخ سے اجازت لی۔ شیخ فرمانے لگے۔ تَرَاهِمُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ط۔ تم جلتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھا رہے ہیں حالانکہ وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے، میں میہنہ سے واپس آیا اور پارس آگیا۔ ایک عرصہ رہا۔ بہت سالوں بعد وہاں کے ایک درویش محمد کو حیاں حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر کی زیارت کے لئے فراہم روانہ

ہوئے۔ میں نے انہیں کہا جب حضرت کی خدمت میں پہنچو تو میرا سلام عرض کرنا۔ اور کہنا۔ تُوْمِمْ  
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ وہ درویش چلا گیا۔ اور حضرت کی زیارت  
کی۔ واپس آیا۔ تو کہنے لگا۔ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے خود ہی فرمایا۔ وَعَلَيْكَ  
السَّلَام۔ وَتُرْمِيهِمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ط  
استاد امام اسماعیل صابونی فرماتے ہیں۔ کہ جن دنوں حضرت شیخ نیشاپور میں تھے۔ میں  
زیارت کو گیا۔ میں نے دل میں خیال کیا۔ کہ جن دنوں میں ابو علی زاہر سے سرخس میں حضرت  
شیخ کے ساتھ احادیث پڑھا کرتا تھا۔ وہ کون سی احادیث تھیں۔ میں حضرت کے پاس پہنچا  
سلام عرض کیا۔ حضرت اٹھے مجھ سے بغل گیر ہوئے۔ جو نہی میں بیٹھا۔ تو آپ نے فرمایا۔ استاد  
جن دنوں ہم لوگ ابو علی زاہر کی خدمت میں احادیث پڑھا کرتے تھے۔ یاد رہے۔ پہلی  
حدیث کیا تھی۔ میں نے گزارش کی۔ جب تک میں مطالعہ نہ کروں مجھے یاد نہیں آتی حضرت  
شیخ فرمانے لگے۔ پہلی حدیث تو یہ تھی۔ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ۔ پھر آپ نے  
فرمایا۔ دوسری حدیث کون سی تھی۔ میں نے کہا۔ مجھے یاد نہیں فرمایا۔ دَعَّ مَا يَرِيدُكَ  
إِلَى مَا لَا يَرِيدُكَ حضرت نے فرمایا۔ اب تیسری حدیث تو سناؤ۔ میں نے پھر عرض کیا کہ  
مجھے یاد نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ تیسری یہ ہے۔ کہ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَا يَدْخُلُ شَيْئًا بَعْدَ۔

استاد اسماعیل فرماتے ہیں جب حضرت شیخ نے یہ احادیث پڑھیں تو مجھے یاد آیا کہ واقعی  
یہ ہی احادیث تھیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت نے میرے راستہ میں خیال کی ترجمانی  
فرمائی ہے۔ اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت شیخ دنوں کے حالات اور اسرار سے کتنے  
واقف ہیں۔

شیخ اسماعیل ساوی فرماتے ہیں کہ جن دنوں شیخ ابوسعید بن النخعي رحمه الله عليه نیشاپور میں  
قیام فرماتے تھے۔ تو میں بلا توقف آپ کی مجلس وعظ میں شریک ہوا کرتا تھا۔ ان دنوں شیخ اپنے کلام

میں اکثر اشعار پڑھا کرتے۔ میں اس شعر خوانی کو دل سے پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن مجلس میں شیخ کی نگاہیں میرے پیرے پر ٹکیں۔ اور فرم لے لگے۔ قَدْ عَثِقْنَا وَكُنَّا يَفْنَى۔ یہ بات سنتے ہی میرے دل سے شعر کے خلائق عناد ختم ہو گیا۔ ایک دوسرے روز میں حضرت شیخ کی مجلس میں موجود تھا۔ ایک خوش الحان ناری بہ آیت پڑھ رہا تھا۔ و كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاٰيٰتُ حضرت اس آیت کریمہ سے لفظ مَا كُنْتَ تَدْرِى کا بار بار تکرار فرماتے مجھے سنتے ہی رقت طاری ہو گئی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اپنے آپ پر قابو پا لوں۔ اور حضرت پر اعتراض نہ کروں۔ گھر گیا مجھے بخار نے آیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی چیز حضرت شیخ کی خدمت میں بھیجوں۔ دوسرے روز ہی میرا بخار ٹوٹ گیا۔ میں بڑا پشیمان تھا۔ چند دن گزارے۔ میں پھر حضرت کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اس دن میں نے ایک خوبصورت گڈری پہن رکھی تھی حضرت شیخ کی مجلس میں ایک درویش اٹھا اور لوگوں سے کپڑے کا سوال کرنے لگا حضرت شیخ نے مجھے دیکھا۔ اور فرمایا۔ اگر تم اس درویش کو گڈری دے دو گے تو بڑی برکت ہوگی۔ اس دن کی طرح انسوس نہ کرنا۔ میں نے گڈری اور دوسرے کپڑے درویش کے حوالے کر دیئے۔ جن دنوں حضرت شیخ نیشاپور میں تھے۔ ایک دن اتوار

**یہودی دامن اسلام میں :-** کی صبح صوفیاء اور درویشوں کو لئے حضرت کی طرف

جا رہے تھے۔ راستے میں ایک یہودی جاتا دکھائی دیا جس نے زربغت اور ریشم کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اور ایک خوبصورت حلو اوڑھے ہوئے تھا۔ غالباً وہ اپنی عبادت گاہ کنشت کی طرف جا رہا تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے اسے بصیرت دی کہ حضرت شیخ کے مقامات اور اپنی ذلت دیکھے۔ حضرت شیخ اور صوفیاء کو دیکھ کر آتے آتے راستے سے ایک طرف پلٹ گیا حضرت شیخ نے دیکھا۔ تو آپ اس کے پیچھے پیچھے ہوئے۔ یہودی جدھر جاتا حضرت اس کے پیچھے پیچھے جاتے۔ ایک ایسی گلی آئی۔ جو آگے سے بند تھی۔ یہودی کو نکلنے کا راستہ نہ ملا حضرت

نے اسے جالیا۔ اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگے۔

اشتر باناں ہر دین سید گفتن - اور اچو خوش است غریب شب رفتن  
اونٹوں کے ساربانوں کو بڑا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ لوگ ہمیشہ مسافری میں دن رات  
پلتے رہتے ہیں، اے اللہ کے بندے! اللہ تمہیں زندگی دے۔ تم کیسے ہو۔ اور کیسے رہو  
گے؟ شیخ بہ کہہ کر واپس آگئے۔ اب یہودی تھا۔ جو شیخ کے پیچھے پیچھے دوڑا دوڑا آ رہا تھا  
شیخ نے د. ژنا شروع کیا۔ مگر وہ پیچھے دوڑتے دوڑتے باواز بلند کہتا تھا۔ اَشْهَدُ اَنْ  
لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حضرت شیخ گھر پہنچے۔ تو  
یہودی آپ کے قدموں میں آگرا۔ اور خانقاہ میں داخل حلقہ درویشان ہو گیا۔ اور حضرت  
کے مجاوروں میں شامل ہو گیا۔

جن دنوں حضرت شیخ نیشاپور میں قیام پذیر تھے۔ تو حضرت کے ہاتھ پر بہت سے  
یہودی اور آتش پرست مسلمان ہوئے ان دنوں نیشاپور کے علماء کی بھی کوشش ہوا کرتی  
تھی کہ ان کے ہاتھوں بھی ایسے لوگ اسلام قبول کرتے۔ مگر انہیں کوئی خاصی کامیابی نہ ہوتی۔  
نیشاپور میں ابو محمد جوینی بڑے زبردست عالم دین اور باکمال بزرگ تھے۔ ان کا وکیل بیٹھی  
تھا۔ آپ کوشش کرتے کہ وہ کلمہ پڑھ لے مگر وہ اتنا ضدی کہ اسلام قبول نہیں کرتا تھا۔  
ایک دن حضرت جوینی نے اسے کہا۔ اگر تم اسلام قبول کر لو۔ تو میری ساری جائیداد کا  
تیسرا حصہ تمہارا ہو گا۔ اس نے کہا حضرت میں اپنا مذہب جائیداد کے لئے تبدیل نہیں کر  
سکتا۔ حضرت نے ایک دن پھر کہا۔ کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میری جائیداد کا نصف حصہ  
میں کا یہودی کہنے لگا۔ میں اپنا مذہب دنیاوی دولت کے بدلے نہیں بیچوں گا۔ آپ نے  
ایک دن بڑے زور سے تبلیغ کی اور کہا اگر تم کلمہ پڑھ لو۔ تو میں اپنی جائیداد کے دو حصے  
تمہیں دے دوں گا۔ اس نے پھر کہا۔ کہ میں دین فروش نہیں ہوں۔ شیخ جوینی مایوس  
ہو گئے اور خاموش ہو گئے۔



ایک دن محمد جوینی اپنے اس یہودی وکیل کے ساتھ کوچہ عدنی گویاں سے گزر رہے تھے۔ کہ مسجد میں حضرت شیخ ابوسعید کی تقریر سنائی دی۔ دل میں آیا۔ کہ چند لمحے سن لیں۔ یہودی نے بھی سوچا۔ کہ اتنا بڑا مجمع۔ اتنے اہٹاک سے لوگ وعظ سن رہے ہیں۔ میں بھی اندر جا کر سن لوں مجھے کون جانتا ہے۔ چنانچہ وہ یہودی بھی مسجد میں داخل ہو کر لوگوں کے مجمع میں گھل مل گیا۔ اور ایک ستون کی اوڑ میں بیٹھ کر وعظ سننے لگا۔ چند لمحوں بعد حضرت شیخ ابوالخیر نے فرمایا۔ ستون کے پیچھے ایک یہودی وکیل بیٹھے ہیں وہ میرے سامنے آجائیں یہودی نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو سمیٹے۔ مگر بے اختیار اٹھا۔ اور حضرت کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا۔ کچھ کہو۔ یہودی کہنے لگا۔ کیا کہوں۔ آپ نے فرمایا۔ یوں کہو!

من گبر بدم کنوں مسلمان گشتم - بد عہد بدم کنوں بفرماں گشتم  
ترجمہ:- میں یہودی تھا اب مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں بد عہد تھا۔ اب سزا بردار  
خدا ہو گیا ہوں!

یہودی نے یہ بیعت کہا۔ اب حضرت شیخ نے فرمایا۔ تم محمد جوینی کے پاس چلے جاؤ تاکہ وہ تمہیں اسلام کی تفصیلات سے آگاہ کر سکیں۔ اور انہیں کہنا آپ کو معلوم نہیں کہ ان الامور موتونہ علی اوقامتا فاذا دخل الوقت لا یحتاج الی شلت المال ولا الی نصفہ ولا الی شلیشہ ہر کام ایک وقت پر موقوف ہوتا ہے۔ جب وقت آجاتا ہے تو مال تیسرا حصے۔ یا نصف یاد و حصوں کی ضرورت نہیں ہو کرتی۔ شیخ ابو محمد یہ بات سن کر بڑے خوش ہوئے۔ اور آپ نے توبہ کی۔

نیشاپور میں بولنصر شروانی بہت بڑے مال دار تاجر تھے۔ دنیاوی نعمتوں سے مالدار مال تھے۔ حضرت شیخ ابوسعید نیشاپور میں اپنی مجالس کی وجہ سے اوج شہرت پر تھے۔ سارا شہر آپ کی مجالس میں امنڈ آتا تھا۔ بولنصر بھی ایسے ہی عقیدت مندوں میں سے تھے۔ اور آپ سے محبت اور ارادت کا دعویٰ رکھتے تھے۔ حضرت کی محفل میں جاتا۔ کسی کرامات دیکھتا۔ اور

کھڑے ہیں۔ مجھے پوچھا جس حضرت حمام میں ہیں میں نے کہا ہاں۔ آپ نے اپنے کپڑے تو حمام کو دے دیئے ہیں۔ خود لباس کے بغیر بیٹھے ہیں۔ ابونصر نے بتایا سبحان اللہ میں تھوڑی دیر پہلے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا لیکن مجھے نیند نے آلیا۔ خواب میں کسی نے تاکیداً کہا۔ اٹھو! حضرت شیخ حمام میں ہیں۔ انہوں نے اپنا لباس کسی کو دے دیا ہے۔ خود بے لباس رہ گئے ہیں۔ ان کے لئے کپڑے لے جاؤ۔ میں اٹھا۔ اور اس خواب کو دہمہ سمجھا۔ قرآن پڑھنے میں مسرور ہو گیا۔ مگر پھر مجھے نیند نے دبا لیا۔ اور وہی شخص مجھے دوبارہ کپڑے لے جانے کا کہہ رہا ہے۔ میں نے پھر بھی قبول نہ کیا۔ تیسری بار مجھے اتنی نیند آئی۔ کہ میں قرآن پاک کو ایک طرف رکھ وہیں ریٹ گیا۔ خواب میں پھر اس شخص نے سختی سے کہا۔ ابونصر! تمہیں میں نے تیسری بار کہا ہے کہ حضرت شیخ حمام میں کپڑوں کے بغیر بیٹھے ہیں۔ تم کپڑے لے جاؤ اور پیش کر دو۔ اگر اب تغافل برتو گے تو تمہارے لئے اچھا نہ ہوگا۔ میں اٹھا۔ کپڑے تیار کئے۔ اور لے آیا۔

حسن مودب کہتے ہیں کہ ابونصر حمام کے دروازہ پر کھڑا رہا میں نے کپڑے لئے اندر چلا گیا۔ اس وقت حضرت وضو فرما رہے تھے۔ وضو کر کے باہر نکلے تو میں نے کپڑے پیش کئے۔ آپ لباس زیب تن کئے باہر آئے تو ابونصر نے ایک صدوینار نقد نہ دیا نہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا۔ یہ سو دینار حمام کے مالک کو دے دیں۔ جب اس کے شاگرد کی شادی ہوگی تو وہ شیرینی تقسیم کر کے گا دینار حمامی کے حوالے کئے حضرت شیخ وہاں سے رخصت ہوئے۔ ابونصر حضرت کی خانقاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا مال رمتاع شیخ پر شمار کر کے اپنے آپ کو حضرت کی خدمت میں وقف کر دیا۔ آپ جب تک نیشاپور میں رہے۔ ابونصر حضرت کی خدمت کرتا رہا۔ نیشاپور سے میہنہ آئے۔ تو آپ نے ابونصر شیردانی کو ایک سبز چغہ خلعتِ خلافت کے طور پر دیتے ہوئے فرمایا۔ تم اپنے شہر چلے جاؤ۔ ہمارا جھنڈا بلند رکھو۔ ابونصر شیردان پہنچے۔ ایک خانقاہ تعمیر کی۔ جو اب تک آپ کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت شیخ کا عطا کردہ فرقہ وہاں رکھا۔ اس علاقہ کے صونہ کے لئے روحانی فیض جاری کر دیا۔ ابھی تک یہ فرقہ وہاں

پیارا تھا۔ آپ نے اسی دن احمد کی ایک لڑکی سے شادی کی۔ اور شیخ کے پہنچنے کے دن دعوتِ ولیمہ کا اہتمام فرمایا۔ مگر کچھ لوگوں نے عین اسی دن احمد کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ اور باپ کے حجرہ کے سامنے رکھ دیا۔ نماز صبح کے وقت حضرت شیخ ابوالحسن فرقانی اپنے حجرے سے نکلے اور مسجد کی طرف نماز کے لئے آئے اور لڑکی کی نعش سے ٹھوکر لگی۔ آپ نے بیٹے کو آواز ہی کہ چراغ لائے۔ آپ کی بیوی چراغ لے کر آئی۔ اس ردِ شنی میں باپ کی نگاہیں بیٹے کی سرِ بریدہ نعش پر پڑیں۔ حضرت شیخ ابوالحسن نے فرمایا۔ اے جان پدر تم نے یہ کیا کیا؟ تم کیا کر سکتے تھے کہ نہ کرتے؟ اسی وقت چند آدمیوں کو بلایا۔ احمد کو غسل دیا۔ کفن پینایا۔ اور ایک علیحدہ جگہ رکھ دیا اسی اثنا میں دیکھا حضرت شیخ ابوسعید معہ جماعت آرہے ہیں۔ ایک دردِ شنی نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ کہ آپ لوگ اتنی دیر سے کیوں پہنچے انہوں نے بتایا ہم لوگ راستہ بھول گئے تھے۔ ورنہ رات کو پہنچ جاتے حضرت شیخ ابوالحسن فرقانی نے اپنے مریدوں کو فرمایا چپ رہو۔ یہ لوگ راستہ نہیں بھول سکتے۔ اس راستہ کی بد نصیب زمین مدت سے ان بزرگوں کے لئے چشمِ براه تھی۔ اس پر آہستہ آہستہ چلنا اس کی پیاس کو دور کرنا تھا وہ اس فخر سے نازاں تھی۔ کہ اُس پر ان بزرگوں کے قدم آئے وہ ارد گرد کی زمینوں پر فخر کرتی ہے۔ کہ اس کے سینہ کو ان بزرگوں کے قدموں سے روشن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس سر زمین کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ کہ اس بزرگ ولی اللہ کی عنانِ سفر پکڑو کہ اس علاقہ کی زمین پر سے آئیں اور اس زمین کو خلعتِ اعزاز سے نوانا۔ ان کی غیرِ حاضری میں ہمارے بیٹے کا سر قلم کیا گیا۔ اس درویش نے یہ باتیں سیں۔ تو حضرت ابوسعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور تمام حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا۔ اللہ اکبر اس وقت لوگوں کو خیال آیا کہ نیشاپور سے چلتے ہوئے حضرت نے وہ بات کیوں کہی تھی حضرت شیخ ابوسعید فرقان میں پہنچے۔ خانقاہ میں داخل ہوئے مسجد کے ساتھ ہی ایک کمرہ تھا جس میں حضرت ابوالحسن فرقانی رہا کرتے تھے۔

حضرت فرقانی۔ سرو قد کھڑے مسجد کے صحن کے درمیان پہنچ کر حضرت شیخ کا استقبالیہ کیا ایک دوسرے کو گلے لگایا حضرت ابوالحسن فرقانی نے فرمایا۔ ایسے زخم کو یہی مرہم درکار تھی میں ان قدموں پر اپنے بیٹے احمد کی جان قربان کرنے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ شیخ ابوالحسن فرقانی نے حضرت کا ہاتھ پکڑ کر اپنی منہ پر بٹھایا حضرت بیٹھ گئے۔ دونوں مسجد میں بیٹھے باقیوں کو گلے۔ اس دوران قاری حضرات قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے لوگ رو رہے تھے۔ اور آہ و فغان برپا تھا حضرت ابوالحسن نے اپنا فرقہ قاریوں کے سامنے پھینک دیا کہ ہم نے ایک فرض ادا کرنا ہے۔ لوگ جنازے کے منتظر ہیں۔ جنازہ باہر لایا گیا۔ نماز جنازہ ادا کی۔ تدفین سے فارغ ہونے پر بڑے رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے صوفیہ اور درویشوں نے قاری حضرات کو کہا کہ حضرت کافر تہ پارہ پارہ کو کے سب نیاز مندوں میں تقسیم کیا جائے حضرت خواجہ ابوالحسن کے ایک خادم نے یہ بات آپ کے گوش گزار کی تو آپ نے فرمایا۔ ایسا نہ کریں۔ یہ سالم فرقہ تو قاری حضرات کو دے دیں۔ ایک اور فرقہ لے جائیں وہ صوفیہ کو دے دیں۔ دوسرا فرقہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور تمام عقیدت مند ایک ایک ٹکڑا بطور تبرک لے گئے۔

حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر کے لئے ایک علیحدہ کمرہ مختص کیا گیا تاکہ آپ اس میں آرام فرما سکیں حضرت خواجہ ابوالحسن نے اپنے تمام عزیزوں اور عقیدت مندوں کو ایک ایک کمرے سمجھا دیا۔ کہ حضرت ابوسعید سے "معتشوق مملکت" ہیں۔ وہ تمام لوگوں کے دلوں کے حالات جاننے ہیں۔ کوئی بدگمانی اور بے لطفی کا اظہار نہ کرے حضرت ابوالخیر تیس دن رات حضرت خواجہ ابوالحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہے مگر اس قیام کے دوران ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالا۔ حضرت شیخ ابوالحسن بار بار بات کرتے تاکہ آپ بھی گفتگو فرمائیں۔ مگر آپ صرف اتنا فرماتے ہم تو سنے آئے ہیں سنانے نہیں آئے۔ حضرت فرقانی نے کہا آپ ہماری ضرورت ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کی درخواست کی تھی۔ وہ چل کر ہمارے گھر آگئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستوں میں سے ایک دست بھیجا تاکہ میں زردل کا اظہار کر سکوں۔ میں بوڑھا تھا۔ ضعیف تھا۔ میں خود حاضر

نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے ہمت دی ہے۔ عزت دی ہے۔ آپ خود بخود تشریف لے آئے۔ آپ کو مکہ مکرمہ میں قیام نہیں کرنے دیا جائے گا۔ آپ مکہ سے بھی عزیز تر ہیں۔ کعبہ کو آپ کو طرف روانہ کیا جائے گا۔ رہ آپ کا طواف کرے گا۔

اس سفر میں خواجہ ابوطاہر کی والدہ حضرت ابوسعید ابوخیمر کی بیوی، بھی موجود تھیں فرماتی ہیں کہ حضرت ابوالحسن فرقانی ہر صبح دروازے کے پاس آتے۔ اور سلام عرض کرتے اور فرماتے آپ ایک برگزیدہ شخص کی رفیقہ حیات ہیں۔ اس مقام پر بشریت ختم ہو جاتی ہے۔ نفس کی خواہشات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہاں صرف حق ہی حق موجود ہوتا ہے۔ رات کو حضرت ابوسعید ابوخیمر کے خلوت کدہ میں حاضر ہوئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر پردہ اٹھاتے اندر آنے کی اجازت طلب کرتے اجازت پا کر اندر قدم رکھتے۔ ابوالحسن قسم دلتے کہ خدا را جس طرح تشریف فرمائیں بیٹھے رہیں تکلیف نہ فرمائیں دوزانو ہو کر سامنے بیٹھ جاتے۔ اور فرماتے حضرت میرے سینہ میں اتنا درد ہے کہ انبیاء کرام بھی اسے برداشت مشکل سے کر سکے۔ اگر اس درد کا ایک ذرہ ظاہر کر دوں تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ یہ بات کہہ کر اٹھتے اور حضرت ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہانے کی طرف آئے۔ اور آہستہ سے کچھ کہتے۔ تو دونوں رونے لگتے حضرت خواجہ ابوالحسن حضرت ابوسعید کے کرتے کے اندر اپنا ہاتھ لے جاتے اور کہتے میں اللہ کا نور لے رہا ہوں۔

ایک دن اس شہر کے قاضی القضاة فاتحہ خوانی اور تعزیت کے لئے حاضر ہوئے تو آپ نے بتایا کہ شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے ہیں قاضی صاحب نے کہا میں اندر جا کر سلام عرض کر لیتا ہوں آپ نے فرمایا۔ رہاں صرف حاضر ہی دینا اور خاموش کھڑے رہنا۔ قاضی اندر گئے۔ سلام عرض کیا زیارت کی۔ قاضی نے دیکھا کہ حضرت شیخ یادشاہوں کی طرح چوڑھی مار کر بیٹھے ہیں اور ایک دردیش پاؤں کو دبا رہا ہے۔ قاضی صاحب نے دل میں کہا۔ یہ کیسی دردیشی ہے؟ بہ ناز و نعمت میں آرام کرنے والے فقر اور دردیشی کو کیا جانیں۔ یہ تو بادشاہ ہیں۔ صوفی یادریش تو نہیں! یہ خیال آتے ہی حضرت شیخ نے سراٹھایا۔ اور قاضی کی طرف

نظریں گاڑ کر فرمایا۔ اے دانشمند! مَنْ كَانَ فِي مُشَاهَدَةِ الْحَقِّ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ  
إِسْحَاقُ الْفَقْرَاءِ ط (جو مشاہدہ حق میں ہو گیا اس پر فقر کا نام درست نہیں آتا یہ بات  
سننے ہی قاضی نے نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گیا۔ درویش اندر گئے اور قاضی کو اٹھا کر باہر  
لے آئے۔ حضرت ابو الحسن غرقانی نے کہا میں نے تجھے کہا تھا کہ ہوش کر دو۔ تم اس نگاہ کی تاب نہیں  
لا سکو گے قاضی نے کہا۔ اب میں نے توبہ کر لی ہے۔ مگر دماغ پھر بے ہوش ہو گیا اور سارا دن  
بے ہوش پڑا رہا۔

حضرت شیخ ابو الحسن غرقانی رحمۃ اللہ علیہ اندر آئے اور حضرت شیخ کو کہا حضرت آپ  
نے قاضی پر نظر ہیبت ڈالی ہے۔ نظر رحمت بھی ڈالیں۔ کیونکہ قاضی حال سے بے جاں ہو  
گیا ہے۔ حضرت شیخ نے اسے معاف کرتے ہوئے صرف گوشمالی کر دی اور وہ اپنی اصل حالت  
میں آ گیا۔

کعبہ ہر رات طواف کرتا ہے :- ایک دن حضرت خواجہ ابو الحسن غرقانی رحمۃ  
اللہ علیہ نے عرض کی یا حضرت! میں دیکھ  
رہا ہوں۔ کہ کعبۃ اللہ ہر رات آپ کے گرد طواف کرتا ہے۔ آپ کو کعبۃ اللہ میں جانے کی  
کیا ضرورت ہے آپ واپس چلے جائیں۔ آپ کو تو اس لئے مقرر فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے بندوں  
کو پائیں۔ آپ کا حج تو ہو گیا ہے۔ ابو الحسن کی وادی اندوہ کو عبور کر لیا ہے! اس کی نیاز مندانہ  
صدائے بلیک سن لی ہے! اس کے صومعہ عرفات میں قیام کر لیا ہے! اس کے نفس کو رجم کر لیا  
ہے۔ ابو الحسن کو اپنے جمال پر قربان کر لیا ہے! اس کے بیٹے کی نماز جنازہ ادا کر لی۔ غم زدہ  
عقیدت مندوں کی فریادیں سن لی ہیں! واپس چلے جائیں۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو آج  
ابو الحسن زندہ نہ ہوتا۔ آپ معشوق عالم ہیں۔ حضرت شیخ نے کہا ہم ببطام جانا چاہتے ہیں  
اور حضرت بایزید کے مزار کی زیارت کر کے واپس جائیں گے۔ حضرت ابو الحسن غرقانی فرمانے  
لگے۔ حج کپکے ہو۔ اب عمرہ کر دو گے۔

حضرت ابوسعید الخدری رحمۃ اللہ علیہ نے تین شبانہ روزہ  
مزار بایزید بسطامی پر قیام کیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب بسطام پہنچے  
وہاں ایک پہاڑی ہے۔ جہاں سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دکھائی دیتا ہے۔  
حضرت شیخ کی نگاہیں مزار پر پڑیں تو رک گئے۔ ایک لمحہ خاموش ہو کر سر ادب سے جھکا دیا سر  
اٹھا کر فرمایا۔ جو شخص دوسری جگہ کھودیتا ہے۔ یہاں پالیتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ  
علیہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی۔ آپ مزار مبارک کے پیلوں میں کھڑے تھے تو حسن مودب  
بھی آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابوسعید کچھ دیر تک سر جھکائے  
کھڑے رہے۔ پھر سر اٹھایا اور فرمایا۔ یہ پاک بازوں کا مقام ہے۔ یہاں ناپاک نہیں آسکتے  
آپ ایک دن اور رات بسطام میں رہے۔ وہاں سے دامقان روانہ ہوئے تین روزہ مکان  
میں قیام فرمایا۔ آگے سفر کا انتظام کیا۔ اس سفر میں حضرت کے ساتھ ایک سو آدمی تھے۔ گھوڑے  
تھک چکے تھے۔ بہت سے تعیف اور بوڑھے بھی تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ ہر روز نماز  
عصر کے بعد مجلس سماع برپا فرماتے رات گئے تک مجلس سماع رہتی۔ قوالوں کی زبان پر یہ شعر  
عام ہوتا۔

آواز در آمد بگر یار من ست . من خود دا غم کہ اغم کار من ست  
میسد گل سرخ بر رخ یار من ست . خیز نہ چنم کہ گل چیدن کار من ست  
مجھے آواز آئی۔ دیکھو! یہ میرا محبوب ہے! میں خود جانتا ہوں۔ میرے لئے کسے غم ہے۔  
میرے محبوب کے چہرے پر تیس ہزار سُرخ پھول کھلے ہوئے ہیں۔ میں ان پھولوں کو  
چمنے کے لئے نکلا ہوں۔ کہ پھول اکٹھے کرنا ہی میرا کام ہے۔  
حضرت شیخ کے پاس دو گھوڑے تھے۔ ایک پر آپ سواری فرماتے دوسرے پر آپ  
کا سامان لدا رہتا۔ ایک گھوڑا قوال کے حوالے کر دیا۔ فرمایا کہ یہ تمہارا ہے۔ نماز شام ادا کی۔  
گھوڑا طاب کیا۔ اپنے بیٹے ابوطاہر کو کہا۔ تمام صوفیوں کو نماز کی جماعت کا اہتمام خود کریں۔

اور امامت بھی خود کرائیں۔ اور کل میرے پیچھے چلے آنا۔ حسن مودب اور ایک دوسرا درویش حضرت شیخ ابوسعید کے ساتھ ہر کاب رہے۔ جب شہر کے دروازہ پر پہنچے۔ تو اس وقت شہر کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ قفل پڑا ہوا تھا۔ چابی شہر کے امیر کے پاس پہنچ چکی تھی۔ دربان نے کہا۔ اگر حکم کریں تو میں آپ کا نام لے کر امیر شہر سے چابی لے آؤں۔ حضرت شیخ نے سنتے ہی ایک نعرہ بلند کیا۔ حسن مودب کو کہا۔ قفل کھینچ لو۔ حسن نے تالا کھینچا تو دروازہ کھل گیا۔ اور آپ اندھیرے میں شہر سے باہر نکلے اور صحرا میں پہنچے۔ یہ تاریک راتیں تھیں۔ ہر طرف ہوکا عالم طاری تھا۔ حسن کہتے ہیں۔ مجھے بڑا ڈر تھا۔ کہ کہیں سے کوئی بلا نازل نہ ہو جائے۔

حضرت نے فرمایا۔ حسن کچھ سناؤ۔ میں نے یہ شہر خوش الحانی سے پڑھے۔

وَعَدُ الْبَدْرِ لِي زِيَارَتِ اللَّيْلِ - فَإِذَا مَا وَفِي قَفِيْتُ نَذُورِي  
قُلْتُ يَا سَيِّدِي وَلِمَ تَوَثَّرَ إِلَيْهِ - قُلْ عَلَى لِبِجْتِدِ النَّهَائِي الْمُنِيرِ  
قَالَ لَوْ اسْتَطَعْتَ تَغْيِيرَ رَسْمِي هَكَذَا الرَّسْمُ فِي طُلُوعِ الْبُدُورِ

حضرت یہ اشعار سن کر نعرہ زن ہوئے۔ رات کا ایک پہر گزرا تھا تو شیخ خاموش ہوئے۔ کھانے کو کچھ طلب فرمایا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ چلتے چلتے سامنے ایک قلعہ نما عمارت نظر آئی۔ میرا دل چاہا کہ اندر جاؤں کچھ کھانے کو لاؤں۔ میں آگے بڑھا اور دروازہ کھٹکٹایا۔ کسی شخص نے دیوار سے جھانک کر پوچھا۔ کیا چاہتے ہو۔ میں نے کہا۔ کچھ کھانے والی چیز ہے۔ اس شخص نے تین روٹیاں گپڑی کے ایک کونے میں باندھ کر دیوار سے لٹکادیں میں نے وہ روٹیاں لے لیں۔ اور شیخ کے پیچھے چل پڑا۔ میں بڑی دوڑ دھوپ کے بعد آپ سے جا ملا۔ مجھے دیکھتے ہی فرمایا۔ کچھ لائے ہو۔ میں نے کہا۔ ہاں روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ کر خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے تین لقمے لئے اور کھائے۔ اور فرمایا۔ باقی تمہارے لئے ہیں۔ آدھی رات ہو گئی تو آپ نے فرمایا۔ اب چند لمحے آرام کر لینا چاہیے ہم سب لوگ اتنے راستے سے ہٹ کر تھوڑی دُور ایک جگہ آرام کرنے لگے۔ ہمارے پاس



مشتی نہیں تھا۔ گھوڑے کی زین کا کپڑا ہی لیا۔ زمین پر بچھایا۔ حضرت شیخ اسی پر لیٹ گئے۔ میرے پہلو پر سر رکھ لیا۔ اور ایک درویش پانڈل پھیلا کر فوراً سو گئے۔ صبح ہوئی۔ ہم ایک گاؤں میں آئیے۔ اور گاؤں کے نمبردار کے ہاں قیام کیا۔ آپ نے فرمایا۔ نمبردار کو کہہ دو رات بہت سے جہان آرہے ہیں۔ شام کے وقت تمام درویش آئیے۔ نمبردار نے بڑا تکلف کیا۔ وہ رات تمام لوگوں نے وہاں ہی گزار دی۔ حضرت شیخ بالکل خاموش رہے۔ صرف اتنا کیا۔ تم لوگ تھک گئے تھے۔ سفر میں تکلیف اٹھائی ہے۔

دوسرے دن نماز صبح ادا کی۔ اور ادو وظائف سے فارغ ہوئے۔ سورج خاصا نکل آیا تھا۔ حضرت شیخ مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔ تمام اجاب بھی آپ کے پہلے بیٹھ گئے۔ آپ نے خواجہ طاہر کو مخاطب فرمایا اور کہا۔ ہم یہاں تک صرف تمہاری موافقت میں آگئے ہیں۔ ہم میں مزید طاقت نہیں رہی۔ اس سے زیادہ ہمت نہیں رہی۔ تمہاری ہمت کا کیا حال ہے۔ اب ظاہر نے گذارش کی۔ جب حضرت شیخ کی قوت و ہمت جو اب دے گئی ہے تو ہماری کیا مجال ہے، ہم تو آپ نے زیر رکاب نہیں۔ حضرت شیخ تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے خیریت دریافت فرماتے رہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہم لوگ واپس جا رہے مگر جو شخص حجاز مقدس جانا چاہتا ہے۔ اسے اختیار ہے۔ وہ جائے۔ چنانچہ کچھ لوگ حجاز کے سفر میں چلے گئے مگر اکثر آپ کے ساتھ رہے۔ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ حجاز مقدس کو جانے والوں کے لئے زاوراہ تیار کی۔ اور دعاؤں اور خوشیوں سے تمام کو الوداع کیا۔ نمبردار کو بلایا۔ اور فرمایا۔ ہمیں ذرا اچھی اور خوشگوار جگہ چاہیے۔ اس نے بستی کے قریب ہی ایک بڑے خوبصورت باغ میں حضرت کے تمام درویشوں کی دعوت کا انتظام کیا۔ تمام حضرات اس باغ میں بڑے خوش خوش رہے۔ دوسرے دن وہاں سے کچھ دور دو گاؤں اڈماں اور نوشاد تھے میں پہنچے اور قیام فرمایا، یہ گاؤں بڑی سرسبز اور خوشگوار وادی میں واقع تھے۔ حضرت شیخ اب بسطام اور فرقان کے راستے جانا نہیں

بات تھے تاکہ انہیں دوبارہ تکلیف نہ دی جائے۔ تمام سھاریوں کو تیار کیا۔ زادراہ  
مبا کیا۔ بیابان باچار باتوں دونوں کا سفر تھا لوگ بھی کافی تھے حضرت شیخ ابوالحسن فرقانی  
رحمۃ اللہ علیہ کو بہتہ چلا۔ کہ شیخ تشریف لارہے ہیں۔ ان کا خیال تھا۔ کہ ان کے صومعہ کی طرف  
سے ہو کہ گزریں گے تین درویش بھیجے۔ وہ لوگ نماز عشاء کے بعد اس گاؤں میں آہنچے  
ان کا ارادہ تھا۔ کہ سحری کے وقت تین چار پھر لاکر بیابان میں آہنچے۔ اس وقت حسن مودب  
نے دیکھا کہ تین درویش کھڑے ہیں۔ انہیں خیر و خیریت پوچھی۔ ٹھایا۔ حضرت شیخ نے حسن  
مودب سے پوچھا۔ کون لوگ ہیں اس نے بتایا۔ حضور! فرقان کے درویش ہیں۔ پوچھا کیا  
کہتے ہیں عرض کیا حضرت میں نے پوچھا نہیں۔ آپ نے حسن کو فرمایا روشنی جلاؤ اور انہیں  
لے آؤ۔ حسن نے چراغ روشن کیا۔ اور انہیں اندر لے آیا۔ درویش حاضر خدمت ہوئے  
سلام عرض کیا۔ حضرت ابوالحسن فرقانی کی طرف سے سلام پیش کیا۔ حضرت نے فرمایا  
علیہ مناسلام پھر دریافت فرمایا۔ کہ ابوالحسن کیا فرماتے تھے۔ انہوں نے کہا۔ خواجہ ابوالحسن  
نے قسم دی ہے کہ آپ مجھے بے بخیریاں سے نہیں جاسکتے۔ شیخ نے کہا بے رحم حسن کو فرمایا  
ان درویشوں کو کچھ کھلاؤ۔ بڑی دور سے آئے ہیں دو درویشوں کو واپس بھیج دو۔ اور ایک  
ہمارے ساتھ رہے گا۔ اگر فرکار آئیں۔ تو انہیں معذرت کہ دینا۔ اور ان کی خدمت بھی  
کرنا۔ تاکہ دل شکستہ نہ ہو جائیں حسن نے بتایا۔ حضرت فرکار تو رات گئے آگئے ہیں۔ میں  
نے انہیں کچھ روپے دیئے ہیں۔ میں نے انہیں کے سامنے ہی سب درویشوں  
کا زادراہ بھی سکھ دیا ہے۔ حضرت شیخ خاموش رہے صوفیاد کو سفر کی اس تبدیلی کا کوئی  
علم نہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بیابان کے راستے جانا ہے۔ علی الصبح حضرت شیخ براتہ بسطام  
فرقان کو روانہ ہوئے۔ بسطام سے ایک عالم حضرت کے پاس سوار ہو کر آیا۔ چنانچہ وہ بھی حضرت  
کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا حضرت اس سفر میں بڑے خوشگوار مزاج میں تھے۔  
عربی کے شاعر پڑھتے جاتے تھے۔ اس عالم دین کا کہنا ہے کہ اس دن کم از کم ایک ہزار

اس طرح اس کا عقیدہ اور مضبوط ہوتا۔ ایک دن حضرت شیخ کوئے عدنی گویاں کے ایک  
تمام میں صوفیاء کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اس دن حضرت نے بڑی عمدہ صوفی  
کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ قیمتی دستار سر پہ تھی۔ حضرت حمام کے اندر گئے۔ حمام کا مالک  
دوڑا دوڑا آپ کی خدمت بجالایا۔ بڑی تواضع کی۔ اور بڑے ادب سے غسلخانہ میں لے گیا  
حمام میں ایک ایسا حمام موجود تھا۔ جو یہ تردد اور تکلف دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ حمام کے مالک  
نے پوچھنے لگا۔ یہ کون شخص ہے۔ جس کے لئے تمام لوگ مودب ہیں۔ حمامی نے اسے بتایا۔ آپ  
شیخ ابوسعید ہیں۔ صوفی ہیں۔ صاحب کرامات ہیں اور بڑے بزرگ ہیں۔ وہ شخص صوفیہ اور  
ان کی کرامات کا منکر تھا کہنے لگا۔ اگر یہ صاحب کرامت بزرگ ہیں۔ تو یہ موت کا لباس اور یہ  
خوابسورت دستار مجھے دے دیں۔ میری ابھی ابھی شادی ہوئی ہے۔ میری دلہن ایسے قیمتی  
لباس کی گردیدہ ہے اور میں تہیدست ہوں۔ حضرت شیخ غسلخانہ سے نکلے۔ اور حمام کو اپنے  
پاس بلا یا اور فرمایا۔ اے نوجوان! تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھو۔ ایک تو یہ ہے۔ جب کسی کی حجامت  
کرنے لگو تو اپنے ہاتھ اور استرہ دھولیا کر دو۔ دوسرے ہمیشہ دائیں جانب سے ابتدا کیا کرو  
تیسری بات یہ ہے۔ کہ جب کسی کے سر کے بال مونڈ دو تو انہیں ایک طرف رکھا کرو۔ تاکہ عام  
لوگوں کی نگاہیں ان پر نہ پڑیں۔ اس حجام نے حضرت کی تینوں باتوں پر عمل کیا۔ اور سارے  
بال سمیٹ لئے۔ حضرت فارغ ہوئے تو اپنے خادم حسن مودب کو آرازدن اور فرمایا میرا لباس  
اور دستار اس نوجوان کو دے دو۔ تاکہ اپنی دلہن کو خوش کر سکے۔ وہ نوجوان حضرت کے  
قدموں میں گر پڑا اور رونے لگا۔ حسن مودب کہتے ہیں۔ کہ میں نے کپڑے لا کر حجام کو دے  
دیئے۔ مجھے غدرشہ تھا کہ حضرت کے لئے دوسرا لباس نہیں گھر کیسے جائیں گے۔ میں دو بار  
حمام میں گیا۔ میرا دل بڑا متزدد اور متفکر تھا۔ آپ نے فرمایا۔ حسن جب تک ہمیں حکم نہیں دیا  
باتا۔ ہم کچھ نہیں کرتے۔ حمام سے باہر جاؤ۔ ابونصر شیردانی تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے  
حسن کہتے ہیں۔ میں باہر نکلا۔ ابونصر شیردانی کو دیکھا۔ ایک خوابسورت لباس مساجد میں پہنچا

موجود ہے لوگ ہر جمعرات کو آتے ہیں۔ نماز جمعہ وہاں ہی ادا کرتے ہیں۔ خانقاہ کا خادم اس خرقہ کی زیارت کے لئے دیموازہ کھول دیتا ہے۔ لوگ نماز جمعہ کے بعد جوق در جوق آتے ہیں اور خرقہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ قحط خشک سالی یا کوئی آفت آجائے تو اسی خرقہ کو صحرا میں لے جا کر دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ ابو الخیر کے وسیلہ سے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور وہاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس علاقہ کے لوگ اس خرقہ کو تریاق اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس علاقہ میں حضرت ابوسعید کی نظر کرم سے چار سو خانقاہیں تعمیر ہوئی ہیں جن سے آج تک روحانی فیضان جاری و ساری ہے۔

یہ واقعہ بڑی سند کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ بعض اسے خواجہ ابوطاہر کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ بعضے خواجہ حسن مودب اور بعضے ابو الفتح رحمۃ اللہ علیہم کی روایت سے بیان کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور میں اپنی خانقاہ میں مجلس سماعت میں موجود تھے۔ خواجہ ابوطاہر کو سماع کے دوران وجد طاری ہو گیا۔ اسی حالت رت میں خواجہ طاہر نے بیک کہا اور حج کے لئے احرام باندھ لیا۔ سماع سے فارغ ہوئے خواجہ طاہر سفر حج کو روانہ ہونے لگے۔ اور شیخ سے اجازت لی۔ شیخ نے تمام حضرات کو حکم دیا کہ ہم سب لوگ بھی حج کو چلیں گے۔ تمام مشائخ نے کہا حضرت آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے۔ حضرت نے فرمایا۔ اس طرف بے کشش ہو رہی ہے۔ چنانچہ مشائخ کی ایک بہت بڑی جماعت شیخ ابوسعید کے ساتھ ہی حج کے لئے تیار ہو گئی۔ نیشاپور سے باہر نکلے تو حضرت شیخ نے فرمایا۔ اگر ہم نہ ہوتے۔ تو ان تمام درویشوں کو اتنی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ جماعت کے تمام لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں۔ مگر انہیں سمجھ نہ آئی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟

دیجی اور معر کے علاقہ میں پہنچے تو کسی نے حضرت شیخ ابوالحسن نرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی کہ حضرت شیخ ابوسعید اپنی جماعت کو نئے مکان میں پہنچ رہے ہیں وہ اسی بات سے بہت خوش ہوئے۔ شیخ ابوالحسن فرکانی کا ایک صاف و جتنا حسن کا نام احمد تھا حضرت کو یہ بڑا بڑا ہی

بیعت حضرت کی زبان سے سنے۔

راستہ میں درویشوں نے حسن مودب سے تقاضا کیا کہ انہیں کھانے کے لئے کچھ چاہیے  
اس نے بتایا۔ میں نے تو تمام کھانے پینے کی چیزیں فرکاروں کے سامان میں رکھ دی ہیں  
انہوں نے پوچھا کہ تم نے تازہ کھانا بھی رکھ دیا ہے۔ اس نے کہا۔ ہاں۔ کیونکہ حضرت شیخ نے  
مجھے اس راستہ آنے کی ہدایت نہیں کی تھی۔ ابھی وہ یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ حضرت شیخ  
ادھر سے گزرے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے حسن نے سارا معاملہ بتایا۔ حضرت نے فرمایا ان دوستوں  
سے معذرت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی فضیلت دی ہے۔ شیخ بسطام کو جاتے  
ہوئے خوش تھے۔ آپ نے فرمایا جس کسی کا وقت ضائع ہو چکا ہو۔ وہ بسطام میں آئے  
اللہ تعالیٰ اس کا گیا ہو اور وقت لوٹا دے گا۔ حضرت شیخ نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ  
علیہ کے مزار کی زیارت کی اور فرقان کو روانہ ہوئے تیس دن حضرت خواجہ ابوالحسن فرقانی  
کے پاس گزارے۔

ایک دن حضرت شیخ ابوسعید اور خواجہ ابوالحسن  
خواجہ ابوالحسن فرقانی کی مجلس : فرقانی رحمۃ اللہ علیہما دونوں بیٹھے ہوئے

تھے۔ بزرگان دین کی خاصی تعداد اس مجلس میں موجود تھی۔ حضرت ابوالحسن فرقانی نے حاضرین  
کو مخاطب فرماتے ہوئے کہا۔ قیامت کے دن تمام بزرگوں کو اللہ کے حضور لایا جائے گا۔ ہر  
ایک کو مسند پر بٹھایا جائے گا۔ ان پر عرش بریں کا سایہ ہوگا۔ آواز آئے گی ان بزرگوں  
کی طرف سے کون بات کہے گا۔ شیخ ابوسعید البخیری کی کرسی آگے کی جائے گی تاکہ وہ اپنے  
اللہ سے بات کر سکیں۔

تین روزہ گزرنے کے بعد حضرت شیخ نے اجازت لی۔ شیخ ابوالحسن رحمۃ اللہ نے فرمایا  
کہ جناح کے رستے جائیے۔ اس راستہ میں بہت سے قصبات اور دیہات آتے ہیں درویشوں  
کو آرام رہے گا۔ آپ نے تیس آدمی حضرت شیخ کے ساتھ کئے تاکہ خدمت کرتے رہیں۔ اور

نیشاپور تک ساتھ رہیں۔ خواجہ ابوالحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹوں۔ عزیزوں اور بہت سے صوفیاء کو لے کر حضرت شیخ کو الوداع کہنے نکلے۔ عرض کی کہ آپ کی راہیں کشادہ اور وسیع ہیں۔ اور ہماری راہ قبض اور فرس سے پُرس ہے۔ اب آپ خوش رہیں اور شاد جنیں۔ ہم مغموں اور افسردہ رہیں گے۔ مگر یہ دونوں انعامات اسی کی طرف سے ہیں۔

حضرت خواجہ ابوالحسن فرقانی نے چند ایسے لوگ بھی حضرت زرخا لیس گم ہو گیا :- کے ساتھ روانہ کر دیئے جو ہر منزل کی خبر لا کر دیتے حضرت شیخ کی رضت کے بعد خانقاہ فرقانیہ سے پردے۔ بسترے اور دوسرے کپڑے سمیٹے گئے جس جگہ حسن مودب بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں سے ایک کاغذ ملا۔ اس میں کچھ چیز تھی۔ جو حضرت فرقانی کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آپ نے پوچھا اس میں کیا ہے لوگوں نے کہا حضرت معلوم نہیں۔ کاغذ کھولا تو اس میں زرخا لیس تھا۔ یہ خا لیس سونا تو لا گیا تو میں تو لے تھا آپ نے فرمایا۔ دیکھو ہم پر کتنا قرضہ ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت بس تو لے سونے کی قیمت کے برابر قرضہ ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اس سے قرضہ بے باقی کیا جائے۔ ہمارا قرضہ ان کی عزت ہے اور ہماری عزت ان کا قرضہ ہے

حضرت شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ نے راستہ میں ایک گاؤں دیکھا۔ وہیں قیام فرمایا۔ آپ نے حمام میں غسل کرنا چاہا۔ آپ کی عادت تھی جہاں جاتے گرم پانی سے غسل فرماتے۔ اور حسن مودب ساتھ کچھ نہ کچھ چیزے جاتے۔ انہوں نے اپنے کاغذات دیکھے تو اس کاغذ کا خیال آیا۔ جسے وہ فرقان میں بھول آئے تھے۔ بڑے پریشان ہوئے حضرت نے پوچھا! حسن کیا بات ہے؟ حسن نے بتایا کہ میں اتنا سونا بھول آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں وہاں بھی ہمارا سکہ چلتا ہے دوسرے دن فرقان سے خبر ملی کہ اتنا سونا حسن مودب کی جگہ سے نکلا تھا۔ اور خواجہ ابوالحسن نے اس سے قرضہ ادا کر دیا حضرت شیخ ابوسعید نے فرمایا۔ خواجہ ابوالحسن نے صحیح کہا ہے۔

حضرت ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ جاہرم پہنچے۔ تو آپ نے حضرت خواجہ ابوالحسن کے آدمیوں کو واپس کر دیا۔ اور فرمایا۔ حضرت خواجہ محمود خرتانی کو ہمارا سلام پیش کرنا اور کہنا کہ اپنا دل ہمارے ساتھ رکھو! حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ علاقہ کارونی میں پہنچے تو وہاں ایک گاؤں نظر آیا صوفیاء کی خواہش تھی کہ اس میں قیام کریں۔ حضرت نے پوچھا اس گاؤں کا کیا نام ہے۔ لوگوں نے کہا۔ کلف۔ آپ نے فرمایا۔ یہاں نہ ٹھہرو! چنانچہ ایک دوسرے گاؤں پہنچے آپ نے فرمایا۔ اس کا نام کیا ہے۔ کہا۔ بندہ آپ نے فرمایا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں سے بھی آگے چلو۔ تیسرے گاؤں پہنچے تو اس کا نام خدشاد تھا۔ حضرت شیخ نے فرمایا۔ ہاں اس میں قیام کر لو۔ خدشاد میں خدا خوش ہو گا۔ اس گاؤں میں قیام فرمایا۔ یہاں ایک خانقاہ نظر آئی جو خالی تھی۔ صرف ایک خادم موجود تھا اسی نے قافلہ کا استقبال کیا۔ اور رسمی طور پر خدمات بھی بجالایا۔ چند بکریاں ذبح کیں اور گوشت بکنے تک کھجی بھونی کہ حضرت کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے فرمایا پہلے جگر کھانا چاہیے۔ خادم نے ادب بجالاتے ہوئے کہا۔ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ کی زندگی کو بقائے دوام بخشے میں نے جگر و دل سے دوستی کی ہے حضرت شیخ کو یہ بات بڑی اچھی لگی۔ فرمایا اگر دل میں دوستی ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ ابوسعید تو خود دلوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ ایک دن رات وہاں گزار سی۔ دوسرے دن نیشاپور کو روانہ ہوئے جب نیشاپور پہنچے۔ تو صوفیہ کی ایک جماعت نے کہا۔ کہ حضرت شیخ اپنے تمام افکار و مقالات بھول چکے ہوں گے۔ کیوں کہ انہوں نے دیکھا تھا۔ آپ نے فرقان کے قیام کے دوران ایک بات بھی نہ کی تھی۔ کیونکہ خواجہ ابوالحسن نے کہا تھا۔ کہ تم تو میری آرزو ہو۔ میں نے اللہ سے درخواست کی تھی۔ کہ وہ اپنے دوستوں سے ایک دوست کو بھیجے۔ تاکہ میں تیرے پاس آسکوں۔ جب ہمارے شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ اس سفر میں گئے تو زبان سے بات نہ کرتے تھے اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت خواجہ ابوالحسن ہر بار فرمایا کرتے تھے کہ آپ کچھ بات کریں ہمیں نصیحت کریں

وہ فرماتے تھے: "ہمیں آپ نصیحت کریں میں تو سننے آیا ہوں؛ چونکہ لوگوں کو اس صورت حال کا علم نہیں تھا۔ لہذا انہوں نے آپ کی خاموشی کی وجہ آپ سے ہی دریافت کی آپ نے فرمایا:

اِنِّيَاثُ تِلْكَ التُّرْبَةُ الَّتِيْنَا فَلَآ اَلْتَقِيْنَا فِتْنِيْنَا فِي تِلْكَ التُّرْبَةُ  
اس مٹی کو ہماری آرزو تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم اس مٹی میں ہی مٹی ہو گئے  
اور اعلیٰ مقام پر پہنچے۔

حضرت شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملہ میں فرقان اور بسطام کی زیادہ توں کا مقصد

بیان فرمادیا۔

حضرت خواجہ ابو الفتح فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید ابوالخیرؓ  
نیشاپور سے مینہ تک :- نیشاپور سے مینہ اس وجہ سے منتقل ہوئے کہ آپ کے

دو مریدوں میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ اگر دو شخص آپس میں  
ڑتے تو آپ خاموش رہتے تاکہ وہ لوگ اپنے اپنے جذبات باہر بھینک سکیں۔ ایک دن  
کو باتیں کہہ چکے تو حضرت شیخ دونوں کو بلاتے اور صلح کراتے۔ ایک عرصہ مواتنا کہ حضرت  
کے بیٹے پوتے اور نواسے نیشاپور میں قیام پذیر تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ مینہ میں  
چلیں۔ اس خاندان کے بڑے اور چھوٹے اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے۔ جب یہ مسالحت  
زیادہ تلخ ہو گئے تو حضرت نے اپنے بیٹے ابوطاہر کو فرمایا۔ کہ ان معاملات کو درست کرو۔

ان بچوں کو سمجھاؤ۔ ہمارا دل تنگ آ گیا ہے۔ ہم بھی مینہ میں جانا چاہتے ہیں۔ ابوطاہر نے  
اس تیاری کے لئے خاصہ قرضہ حاصل کیا اور ان کیلئے اسباب سفر تیار کیئے چالیس خچر  
چالیس درویشوں کے لئے چالیس تھیلے خریدے ہر درویش کا سامان ایک ایک تھیلے میں  
بند کیا۔ آٹھ درویشوں کو تیار کیا کہ وہ راستے کے متعلق دریافت کریں۔ نیشاپور کے لوگ  
بھی اس تیاری میں امداد کرتے رہے۔ اور کہتے تھے۔ ہم حضرت شیخ کے بیٹوں اور درویشوں  
کے جانے کے بعد اچھی طرح دیکھ سکیں گے۔ جس دن یہ سارے لوگ روانہ ہوئے۔ آپ



خود بھی سوار ہوئے۔ اور دروازہ شوخناں تک ساتھ آئے آپ تو وہاں ہی رک گئے ایک ایک شخص آپ کی نظروں میں آتا گیا اور ہر ایک کی خیریت و عافیت پوچھتے اور نصیحت فرماتے اور ایسا ایسا رہنا۔ حتیٰ کے تمام کے تمام آپ کے سلسلے روانہ ہوئے سب آفرین شخص جو حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا خواجہ ابوالفتح تھے۔

خواجہ ابوالفتح بیان کرتے ہیں۔ میں ان دنوں اٹھارہ سالہ تھا۔ جب میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ نے دریافت کیا کہ تمہاری سواری اور سامان کہاں ہے۔ میں نے عرض کی میں تو پیادہ پا جاؤں گا فرمایا۔ اپنی والدہ کو میرا سلام کہنا بچوں کا خیال رکھیں ہم انشاء اللہ چالیس دن تک تمہارے پاس آجائیں گے میں نے قدم بوسی کی اور روانہ ہوا۔ یہ تک کے واقعات کا تو میں خود چشم دید گواہ ہوں۔ آئندہ کے واقعات حضرت کے خادمان خاص کی زبانی سنئے ہیں۔

حضرت خواجہ ابوالفتح راوی ہیں کہ اس سفر میں ہمارے والد مکرم ابوطاہر بھی ہماری ساتھ نہیں تھے۔ وہ وداع کرنے کے بعد پھر حضرت شیخ کے ساتھ واپس نیشاپور چلے گئے تھے۔ حضرت نے اپنی خانقاہ پہنچ کر اس دن مجلس نہ کی۔ دوسرے دن مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت کے بیٹے مجلس کے وقت آپ کی نشست کے دائیں ہاتھ بیٹھا کرتے تھے حضرت شیخ کی عادت تھی کہ سوچ نکلنے کے ساتھ ہی گھر سے نہ نکلے۔ اس دن آپ آئے آپ کی نگاہیں اس خالی جگہ پر پڑیں جہاں آپ کے بیٹے بیٹھا کرتے تھے۔ فرمایا۔ ہماری ارلاد ہمارے جگہ گوشہ ہیں ہم ان کی خالی جگہ نہیں دیکھ سکتے۔ چونکہ ابوطاہر پر قرضہ تھا۔ اس لئے وہ چند دنوں تک رک گئے ہیں۔ لوگوں نے آپ کی اس بات سے جان لیا۔ کہ آپ عنقریب نیشاپور سے چلے جائیں گے۔ ان کے دل افسردہ تھے۔ وہ آپ کی مجالس سے محروم رہنا پسند نہیں کرتے تھے چنانچہ جو قرضہ ادا کیا گیا۔ اور تیاریاں ہونے لگیں۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہوئیں ساز و سامان تیار ہو گیا۔ تو نیشاپور کے تمام علماء اور آئمہ جمع ہوئے اور حضرت کے

مذک جانے پر اصرار کیا۔ مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جانے کا وقت قریب آیا۔ تو شیخ محمد جوینی اور اسناد امام اسمعیل رحمۃ اللہ علیہما دونوں حاضر خدمت ہوئے۔ ہر ایک دوسرے کو کہتا کہ تم پہلے آغاز گفتگو کرو۔ مگر اوہا کوئی بھی پہل نہیں کرتا تھا۔ آخر دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے حاضر ہوئے اس وقت حضرت شیخ اپنی خانقاہ کے سامنے ایک تخت پر جلوہ فرما تھے۔ سلام عرض کیا۔ حضرت شیخ نے ایک کورائیں اور دوسرے کو بائیں ہاتھ بٹھالیا۔ حضرت نے انہیں بہت سے ایسے اسرار بیان فرمائے جو ان تینوں کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب ان دونوں بزرگوں نے آپ کو نہ جانے کے لئے گزارش کی بے پناہ اصرار کے بعد حضرت شیخ نے فرمایا۔ ہاں۔ یہاں بھی میرے نیاز مند ہیں اور وہاں بھی ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے سراسر تسلیم پیش کیا ہے۔ وہ جس مقام پر چاہئے گا بے رکھے گا۔

انہوں نے کہا۔ حضرت میلنہ تو ایک  
حضرت شیخ کی نیشاپور سے روانگی :- چھوٹا سا قصبہ ہے۔ آپ اس قصبہ  
میں کیسے قیام کر سکیں گے۔ حضرت نے فرمایا۔ ہم اس جہاں یا اس جہاں میں کیسے قیام کر  
سکیں گے؟ اس بات پر ان حضرات کو ندامت آئی۔ اور دل میں سمجھ گئے کہ اب حضرت  
نیشاپور میں نہیں رکھیں گے۔ میں نے دلی طور پر آپ کو الوداع کہہ دیا حضرت نے چند دنوں  
میں تمام امور ضروریہ کو سمیٹا۔ اور تیار ہو گئے۔ گھوڑے پر زین رکھی خانقاہ کے دروازے  
کے پاس ایک دکان تھی حضرت باہر آئے۔ اور اس دکان پر کھڑے ہو گئے۔ اور اپنے  
اردگرد کھڑے اجاب کو فرمانے لگے ہم جس طرح آئے تھے۔ اس جگہ کو دیسے ہی چھوڑے  
جا رہے ہیں۔ کسی قسم کا تصرف نہیں کیا پھر یہ شعر پڑھا

مرغے بسر کوہ نشست و برخواست      جگر کے ازاں کوہ چہ افرورد چہ گاست

مردوں نے کہا۔ یہ قصبہ آپ کے حسن و جمال سے مزین تھا۔ ہم نے آپ کی برکت سے

بڑی آسائشیں حاصل کیں۔ اب آپ کسی کو مقررہ فرمادیں۔ تاکہ اگر کوئی مسافر آئے تو محروم نہ جائے۔ ہم نے آپ سے بچہ نہیں لینا جس طرح اللہ کو منظور ہو گا وہی ہو گا۔  
شیخ نیشاپور سے روانہ ہوئے تو ایک درویش آپ کے ہمراہ تھا درویش کو فرمایا۔ تم واپس چلے جاؤ۔ ہماری خانقاہ کے چھت پر ایک بڑی بڑی ہوئی ہے اسے اٹھا کر باہر پھینک دو۔ اسی دوران تمام عقیدت مندوں نے آپ کی زبانی یہ شعر سنا اور واپس آگئے۔

سے آنجانہ مرا با تو ہی ہست دیدار آنجا دوم داد سے کنم دردیوار۔  
حضرت شیخ نے سارے مجمع کو اوداع کہا اور شک کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے گھوڑے پر ٹوٹا ہوا صندوق تھا۔ گھوڑے نے تھوکر کھائی اور ایک پہو پر گرا۔ حضرت کی ران پر دباؤ پڑا جس سے شدید زخم آیا۔ ران کا گوشت نرم ہو گیا۔ درویشوں نے زمین پر ایک کپڑا بچھا کر حضرت کو وہاں لٹا دیا۔ اسی حالت میں چار درویشوں نے کپڑا اٹھا کر حضرت کے چار درویشوں نے کپڑا اٹھا کر حضرت کو وہاں سے ذرا پیچھے اونچی جگہ لے گئے۔ اور پتھروں کے بنے ہوئے گھر میں رکھ دیا ایک درویش طوس کی طرف سے آیا۔ ہاتھ حضرت نے آنکھیں کھول کر اس درویش کو دیکھا۔ اوہ پوچھا کہ کس جگہ سے آرہے ہو؟ اس نے کہا۔ طوس سے! فرمایا۔ کہاں جا رہے ہو عرض کیا نیشاپور۔ فرمایا نیشاپور پہنچ کر صوفیوں کے گھر جانا۔ اور انہیں ہمارا سلام دینا انہوں نے مجھے جانے سے بہت منع کیا تھا۔ مگر میں نہ رکا انہیں کہنا۔ گھوڑے کی غلطی تھی۔ ہماری غلطی نہیں تھی۔  
شیخ کو اس گھائی سے اٹھا کر طوس لے آئے۔ استاد ابو بکر ان دنوں طوس میں موجود تھے۔ گاؤں کی خانقاہ رفیقان میں پہنچے وہاں سے آپ کو پانکی میں ڈال کر لوگوں نے کندھوں پر اٹھایا اور مینہ میں لے گئے آپ چند روز تک بیمار رہے پھر صحت یاب ہو گئے۔

ابوالفضل محمد بن نوقانی عارف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے

یہ کیسے صوفی ہیں؟ ہیں کہ جب حضرت ابو سعید ابوالخیر نیشاپور سے مینہ بہ

آ رہے تھے۔ تو ہم پہاڑ کی بلندی پر تھے۔ ایک شخص ہمارے ساتھ نقادہ دل میں کہہ رہا  
تھا۔ کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ کلچر۔ حلوا۔ اور رنگارنگ کے کھانے ساتھ لئے کھلتے جاتے  
ہیں اور کہتے ہیں ہم صوفی ہیں۔ حضرت اس کے دلی ارادے کو بھانپ گئے اور نہ پاتے  
تھے۔ کہ وہ شخص اس بدگمانی پر کسی قسم کا نقصان اٹھائے اسے اپنے پاس بلا یا اور فرمایا  
اس پہاڑ کے اس طرف جاؤ۔ اور ہمیں واپس آکر بتاؤ کہ وہاں تم نے کیا دیکھا ہے۔  
وہ شخص اٹھا۔ اور پہاڑ کے اس طرف گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اثر دہا بیٹھا ہوا  
ہے۔ ڈر کر بھاگا۔ اور حضرت کی خدمت میں آکر کھڑا ہوا۔ ڈر کے مارے منہ سے لفظ نہیں  
نکلتا تھا۔ کانپتا کانپتا کچھ کہہ نہ سکا۔ حضرت نے پوچھا۔ کیا دیکھ کر آئے ہو۔ وہ ابھی کچھ  
کہہ نہ سکا تھا۔ کہ آپ نے فرمایا۔ وہ اثر دہا ایک عرصہ سے ہمارا دوست ہے۔ وہ آدمی  
شرمندہ ہوا۔ اور آپ کے پاؤں پر گر کر معافی چاہی۔!

حضرت شیخ نیشاپور سے مینہ میں آ رہے تھے۔

بے نماز سوراہا تھا :- راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے۔ نماز کا وقت تھا

تمام درویشوں نے وضو کیا۔ بوذن نے اذان دی۔ تمام نے سنتیں ادا کیں۔ اور نماز  
باجماعت ادا کرنے کے لئے صف بستہ ہو گئے۔ ایک درویش شاید تھکا ہوا تھا۔ ابھی  
سوراہا تھا۔ آنکھ کھلی تو تمام لوگ فرضوں کی دوسری رکعت ادا کر رہے تھے۔ اب اسے  
ندامت آئی۔ کہ اب اٹھ کر نماز پڑھے۔ اسی طرح سو دیا۔ ہا۔ شرمندگی سے چاہتا تھا۔ کہ  
یہ سب لوگ نماز پڑھ کر ادھر ادھر پھیل جائیں گے تو اٹھ کر نماز پڑھے گا۔ ایک چور  
نے دیکھا کہ تمام درویش نماز میں مشغول ہیں۔ ان کا سامان چوری کر لیا جائے وہ سامان  
کے پاس آیا۔ درویش جاگ رہا تھا۔ محض بہانے سے سوراہا تھا۔ ایک پتھر اٹھایا اور چور

کے دسے مارا چور جان گیا۔ کہ مجھے کسی نے دیکھ لیا ہے۔ بھاگا۔ اور کچھ نہ اٹھا سکا تمام لوگ اس بات سے بے خبر تھے۔ کیونکہ ان کی نماز کے وقت پشتیں سامان کی طرف تھیں نماز ادا کرنے کے بعد اسے سویا دیکھا تو کہنے لگے یہ بے نماز ابھی تک سویا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا۔ بے نماز نمازیوں کے سامان کی حفاظت کرتا ہے۔ لوگوں کو کچھ معلوم نہ ہوا کہ آپ نے کیا کہا۔ جب اپنے سامان کے پاس آئے۔ سارے واقعہ کا علم ہوا تو پھر انہیں معلوم ہوا کہ شیخ نے کیا کہا تھا۔

لوگوں نے یہ روایت میرے جد امجد شیخ  
رفیق و شنیدیم و دیدیم و یا فلتیم! الاسلام ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بیان کی ہے کہ حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر نے ایک بار مجلس کے دوران فرمایا العلماء ذرشتہ الانبیاء و علماء کرام انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، آج میں اسی حدیث پر گفتگو کروں گا اس وقت ایک ایسا شخص مینہ میں آیا ہے جسے اللہ اور اس کا رسول دوست رکھتے ہیں اور وہ شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے دجل جلازلہ وصل اللہ علیہ وسلم، یہ بات حضرت رسول کریم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق کی تھی۔ آج ہم اسی بات کی روشنی میں وراثت نبوت پر گفتگو کریں گے۔ یہ بات کہہ کر آپ نے اپنے بیٹے ابوطاہر کو حکم دیا کہ تم درویشوں کے خدمت گزار ہو۔ اٹھو اور حضرت یحییٰ تشریف لا رہے ہیں ان کا استقبال کرو۔ نواجہ ابوطاہر اٹھے۔ ایک جماعت ان کے ساتھ تیار ہو گئی اور استقبال کے لئے باہر نکلے۔ ایک درویش پیاز کی بندی سے اتر رہے تھے۔ جن کے کپڑے گرے آلود تھے۔ ایک کوزہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور کندھے پر ایک بوری اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ مینہ میں سینچے تو حضرت شیخ ابھی تک مینہ پر بیٹھے و عطر فرما رہے تھے۔ یحییٰ ماوراء النہری کی نگاہیں حضرت کے چہرہ پر پڑیں۔ تو دوسرے ادباً سر جھکا دیا۔ مشہد کے روانہ پر ہی ایک دکان تھی۔ وہاں سینچے تو حضرت نے اشارہ کیا کہ وہاں ہی بیٹھ جائیں۔ وہ درویش

بیٹھ گئے۔ اب تمام اہل مجلس کی نگاہیں اس درویش پر لگی ہوئی ہیں۔ حضرت مجلس سے فارغ ہوئے تو فرمایا: یحییٰ کو غسل کرائیں۔ یحییٰ اٹھے۔ غسل کیا۔ نئے کپڑے پہنائے گئے۔ یہ بزرگ تین دن تک حضرت کے پاس رہے۔ ہر روز حضرت کی مجلس میں بیٹھے آپ بات کرتے وقت انہیں کی طرف منہ کرتے۔ یحییٰ آپ کی ہر بات کو نہایت غور سے سنتے۔ چوتھے دن اٹھے۔ اور عرض کی حضرت میں حج بیت اللہ کے ارادے سے نکلا ہوں۔ اب مجھے اجازت دیں حضرت نے فرمایا۔ مبارک ہو۔ ہمارا اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا روانہ ہوئے جب تک انہیں حضرت دکھائی دینے رہے۔ ان کے پاؤں جلنے رہے نظروں سے غائب ہوئے تو سیدھے چلے۔ حضرت شیخ نے اپنے بیٹوں اور درویشوں کو حکم دیا تھا کہ یحییٰ کو وداع کرنے وائیں۔ تمام بیٹے اور درویش ساتھ ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو بکر مودب جو آپ کے بیٹوں کے استاد تھے۔ بھی شامل تھے۔ آپ کو حضرت شیخ نے حکم دیا کہ اس الوداعی پارٹی میں آپ بھی جائیں۔ جہاں تک جو اسکے یحییٰ کے قدموں پر قدم رکھتے جائیں۔ ابو بکر مودب دوڑے اور حضرت شیخ کے حکم کے مطابق قدموں پر قدم رکھتے گئے۔ سب سے آخری جس شخص نے انہیں الوداع کیا۔ اور سب کے بعد جدا ہوئے وہ حضرت ابو بکر مودب ہی تھے۔

دوسرے سال ہی موسم تھا اور غالباً یہی دن تھے کہ حضرت شیخ نے مجلس میں حکم دیا کہ لوگو! یحییٰ کے استقبال کے لئے آگے بڑھو۔ خواہ ابو طاہر ایک مجموعے کو استقبال کو نکلے۔ جناب یحییٰ کو دیکھنے آرہے ہیں۔ وہی لوٹا ہاتھ میں۔ وہی بوری کندھے پر اٹھائے حضرت کے بیٹوں اور درویشوں کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ اسی مکان پر آ بیٹھے حضرت شیخ حسب سابق منبر پر بیٹھے وعظ فرما رہے تھے۔ آگے بڑھے ہدیہ سلام پیش کیا دست بوسی کی حضرت نے بھی آپ کے سر پر بوسہ دیا۔ مجلس میں بیٹھے تو آپ نے فرمایا یحییٰ! حضرت کی فتوحات میں سے اس مجلس میں بھی کچھ حصہ دینا چاہیے۔ ان کا بھی حق ہے۔ یحییٰ نے سراٹھایا۔ اور فرمایا یا حضرت۔

رفیقہ شہیدیم۔ دیدیم۔ دیا فتم۔ ہم گئے۔ سنا۔ دیکھا اور بہت کچھ پایا۔ مگر یار تو وہاں نہیں تھے۔ حضرت شیخ نے سن کر ایک نعرہ بلند کیا۔ اور فرمایا۔ ایک بار پھر کہو۔ انہوں نے وہی الفاظ دہرائے۔ شیخ نے پھر نعرہ مارا۔ اور کہا ایک بار پھر کہو! انہوں نے پھر کیا حضرت نے پھر نعرہ مارا۔ اب حضرت شیخ نے مجمع کو مخاطب کیا۔ اور کہا اس سچے شخص نے سچ کہا! پھر فرمایا۔ یحییٰ ان فتوحات کے بعد شکرانہ بڑا ضروری ہے۔ درویشوں کو فرمایا۔ شکرانے کی تیاری کرو۔ آج رات تمام مجمع کو باداموں کا حلوا جس میں زعفران پڑا ہوا ہو کھلایا جائے گا۔ حسن مودب۔ خواجہ ابو طاہر اور یحییٰ اٹھے۔ باہر نکلے۔ بڑے فکر مند تھے کہ ایسے حلوا کے لئے مینہ سے کب چیزیں ملیں گی۔ ایک سو سے زیادہ لوگ ہیں۔ حسن مودب کہتے ہیں۔ کہ ہم سر بازار ایک دوسرے سے باتیں کرتے جا رہے تھے کہ ایک شخص دوڑا دوڑا آیا۔ اور کہنے لگا میں حضرت شیخ کے خادموں کو تلاش کر رہا تھا۔ آپ لوگ آگئے وہ نوجوان ہمارے نزدیک آیا۔ اور کہنے لگا۔ ہمارا ایک بڑا قافلہ اسی علاقے سے گزر رہا تھا کہ ڈاکوؤں کے جتھے نے حملہ کر دیا۔ میں نے اسی وقت نذرمانی کہ اگر آج بچ گئے۔ تو باداموں کی ایک بوری مینہ کے درویشوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ نے ہمیں بچالیا آپ لوگ میرے ساتھ قافلہ میں چلیں۔ ہم اس نوجوان کے ساتھ گئے تو اس نے باداموں کی بوری پیش کی۔ ایک شخص اور آگے بڑھا۔ اور کہنے لگا۔ میں نے نذرمانی تھی کہ دس سیر میدہ دوں گا۔ تیسرا آگے بڑھا۔ اور کہنے لگا۔ میں نے پانچ دینار نیشاپوری نذرمانے تھے۔ یہ حاضر خدمت ہیں! ہم یہ ساری چیزیں لے کر واپس آگئے۔ امیر مینہ خواجہ حمویہ راستے میں ملے۔ دریافت کیا۔ کہ کہاں گئے تھے۔ ہم نے تمام واقعات سنائے اس نے بھی بانئیں سیر نان اور ان کے لوازمات دیئے۔

واپس آکر حضرت شیخ کے حکم کے مطابق دعوت تیار کی۔ سارے مجمع نے یہ پُرطف دعوت کھائی۔ یحییٰ تیس دن مینہ میں رہے اور پھر ماورا بہر چلے گئے۔

شیخ ابو عمر بخشوانی بڑے بزرگ اور اللہ کے عزیز  
شیخ ابو سعید کے تین خلال :- بندوں میں سے ہوئے ہیں۔ آپ تیس سال مکہ مکرمہ  
میں مجاور رہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ اَلَيْهِ اِيمَانِي لِوَعَايِ الْبَدَنِ وَالْيَدِ الْيُسْرَى  
لَا سَفَلَ الْبَدَنِ (دائیں ہاتھ بدن کے اعلیٰ حصوں پر اور بائیں ہاتھ بدن کے زیرین  
حصوں کے لئے) کی روشنی میں میں نے تیس سال تک دائیں ہاتھ کونان سے نیچے استعمال  
نہیں کیا۔ ایسے ہی میرا بائیں ہاتھ نان سے ادھر کبھی نہیں گیا۔ ہاں کبھی کسی سنت کی اتباع میں  
ایسا ہوا ہو۔ تو ہوا ہو۔ آپ کی زندگی میں ایسے احتیاطی معاملات بہت ملتے ہیں۔

آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت عالم اسلام میں  
پہنچی تو حرم کے علماء و مشائخ نے کیا۔ کہ کوئی آدمی بھیج کر معلوم کرنا چاہئے کہ واقعی شیخ کو وہ مقام  
ماصل ہے جس کی شہرت ہے۔ اس سلسلہ میں کسی تجربہ کار پختہ علم عالم دین۔ اور صاحب دل  
انسان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ سب علماء و مشائخ کی نگاہیں۔ شیخ ابو عمرو پر جمیں۔ ان  
سے درخواست کی گئی کہ وہ مینہہ میں جا کر شیخ کو ملیں۔ اور صحیح خبر لائیں حضرت شیخ ابو عمرو  
طوس پہنچے۔ وہاں سے مینہہ آئے۔ راستے میں آپ نے سترہ بار غسل فرمایا۔ یہ غسل بھی اس لئے  
کرتے کہ جب کوئی دنیاوی خیال آتا تو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لئے غسل فرماتے۔ مینہہ کے  
پاس پہنچے۔ تو نماز ظہر کا وقت تھا۔ اس وقت اذان ہو چکی تھی۔ موذن سنتیں پڑھ کر شیخ کے اشارے  
کا منتظر تھا۔ کہ وہ تکبیر کی اجازت دیں۔ حضرت نے موذن کو فرمایا۔ تھوڑی دیر رک جاؤ۔ ایک  
زندہ دل بزرگ تشریف لارہے ہیں۔ مل کر نماز پڑھیں گے۔ آپ کو بصیرت سے معلوم ہو گیا  
تھا۔ کون آ رہا۔ کیوں آ رہا ہے۔ کس وقت پہنچ رہا ہے۔ ادھر حضرت ابو عمر موضع مینہہ سے  
تین میل دور قدم رکھتے ہی پا برہنہ ہو گئے۔ حضرت شیخ نے اپنے بیٹوں۔ اور دوسرے  
اجاب کو حکم دیا۔ تم لوگ بھی ننگے پاؤں ایسے شخص کے استقبال کے لئے آگے بڑھو جس سے  
زیادہ پاکیزہ اور بابرکت پاؤں آج تک مینہہ کی سرزمین پر نہیں پڑے۔ تمام لوگوں نے استقبال



کیا شیخ ابو عمر مسجد میں آئے بنفیتیں پڑھیں۔ حضرت شیخ کو سلام عرض کیا۔ نماز باجماعت ادا کی اور فارغ ہو کر دونوں باتیں کرنے لگے۔ اس طرح دونوں حضرات تین دن سات یکجا ہم محاسن ہے اور خلوت کدہ میں کسی دوسرے کو جانے کی اجازت نہ تھی تین دن بعد ابو عمر نے اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا: شیخو ان ہوتے جانا۔ آپ اس علاقہ میں ہمارے نائب اور خلیفہ ہوں گے اور سب اولیاء اللہ سے بلند رتبہ ہوں گے۔ حضرت ابو عمر آپ کا اشارہ پا کر شیخو ان روانہ ہوئے۔ وداع کے وقت آپ نے ابو عمر کو تین غایاں دیئے اور فرمایا: اگر ایک خلال کے دس دینار ملیں نہ دینار۔ بیس دینار ملیں نہ دینار۔ تیس دینار ملیں۔ اس پر آپ چپ ہو رہے۔ شیخ ابو عمر وادو داع کہہ کر شیخو ان کو روانہ ہوئے۔ وہاں آپ ایک حجرے میں قیام پذیر ہوئے اب یہ حجرہ فائقہ ابو عمر کے نام سے مشہور ہے اس علاقہ کے لوگ جو حق درجوت آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ نسا کے لوگ بھی پہنچنے لگے۔ آپ کا معمول تھا کہ ہر جمعرات کو ختم شریف کراتے۔ آپ کے مرید گاؤں کے لوگ اور اردگرد کے مواضع کے لوگ اس ختم میں شریک ہوتے ختم سے فارغ ہوتے۔ تو آپ پانی کا کوزہ لیتے اور حضرت ابوسعید کا خلال اس میں بگوتے اور پانی بیماریوں کو پلاتے جاتے۔ خلال کی برکت سے جو پانی پیتا شفا یاب ہوتا۔ ان دنوں شیخو ان میں ایک رئیس آدمی تھا۔ اسے بعض اوقات درد قویج اٹھتا جس سے وہ بے تاب ہو جاتا ایک دن اس رئیس آدمی کو درد قویج نے آیا۔ کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا۔ ایک شخص حضرت ابو عمر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہ آپ کے پاس خلال ہے اس کا پانی عنایت فرمائیں۔ تھوڑا سا پانی بھیجا تو رئیس صحت یاب ہو گیا۔ دوسرے دن وہ رئیس حاضر خدمت ہوا۔ عرض کی حضرت آپ کے پاس تین خلال ہیں۔ ایک مجھے فروخت کر دیں۔ آپ نے فرمایا۔ کیا دو گے۔ رئیس کہنے لگا۔ دس دینار۔ آپ نے فرمایا نہیں اُس نے کہا۔ بیس سے لیں۔ آپ پھر خاموش رہے۔ اس نے کہا تیس سے لیں۔ یہ کہہ کر رئیس خاموش رہا۔ آپ نے فرمایا۔ لے لو۔ ابو عمر نے رئیس کو حضرت شیخ کی گفتگو سنائی۔ کہ آپ نے تیس سے کم فروخت کرنے سے منع فرمایا تھا۔ آپ نے تیس دینار لینے

اور خانقاہ کی تعمیر میں خرچ کر دیئے۔

جب تک وہ رئیس آدمی زندہ رہا۔ خلال کو اپنے پاس رکھا۔ موت سے پہلے اس نے وصیت کی۔ کہ خلال کے ٹکڑے کر کے کفن کے ساتھ اس کے منہ میں رکھ دینا۔ دوسرے دنوں خلال شیخ بو عمر کی ساری زندگی کے دوران عوام الناس کے لئے خیر و برکت کا سرچشمہ رہے آپ نے بھی وصیت کی کہ مرتے وقت ان دونوں خلالوں کو میرے ساتھ دفن کرنا۔ چنانچہ دونوں خلال آپ کے ساتھ دفن کئے گئے۔

خواجه ابوالقاسم زہاد حضرت شیخ کے مرید تھے۔ بڑے  
**وَضُوءٍ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ** سفر کئے اور ریاضتیں کیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کوفہ سے نکلا اور مجاز جانے کا ارادہ کیا۔ میرے ساتھ ہی مشائخ کرام کی ایک جماعت تھی۔ باہر آئے تو بعضوں نے کہا۔ کہ ہم تجرید اختیار کریں۔ بعضوں نے کہا۔ تو کل اختیار کریں۔ میں نے دل میں کہا۔ ابوالقاسم بیداری اختیار کر دو جو قدم رکھو۔ بیداری سے رکھو۔ چنانچہ میں نے اسی عزم کے ساتھ رادی طے کی۔ واپسی پر حضرت شیخ کے شہر کے نزدیک سے گزرا۔ رات حضرت شیخ کی مسجد میں گزار دی۔ شیخ کے پچھے نماز پڑھی۔ میرا سر شیخ کے قدموں کو چھوتا تھا۔ رات کے وقت غسل کیا۔ تو مجھے سینے میں ایک نور آتا دکھائی دیا۔ مجھے بڑی مسرت ہوئی۔ سحری کے وقت میں نے پھر غسل کیا۔ تو مجھے اور نور آتا محسوس ہوا جس سے میں مزید خوش ہوا جس وقت غسل کرتا نور میں اضافہ محسوس کرتا۔ میں نے دل میں کہا۔ میں جو چاہتا تھا مجھے مل گیا۔ دوسرے دن حضرت شیخ قدس سرہ اپنی خانقاہ سے نکلے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا میں دل ہی دل میں فخر کر رہا تھا۔ حضرت نے مجھے دیکھ کر فرمایا۔ رات کی کیفیت تم بیان کر دو گے یا ہم بتائیں۔ میں نے عرض کی حضرت آپ ہی فرمائیں۔ یہ بركات تمہارے رستے کی ریاضتوں سے نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا فیضان ہے **الْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ** وضو پہ وضو کرنا نور، علی نور ہے۔ یہ وضو کا نور ہے اس پر مغرور نہیں ہوتا چاہیے میں اپنے

آپ میں آیا اور غرور و عجب سے توبہ کی۔

عراق و خراساں آل سلجوق کے حوالے کر دیا۔ جن دنوں سلجوقیوں نے بخارا کے گرد و نواح میں نکل کر خراساں کو اپنی پیٹ میں لے لیا۔ یہ فوجی مینہہ کی طرف بھی بڑھے۔ خراساں کے اکثر لوگ ان کے ساتھ مل گئے۔ کچھ انہوں نے جنگی ضرورت کے لئے بھرتی کر لئے۔ یہ حملہ سلطان محمود کی نااہلی کی وجہ سے ہوا تھا۔ تاریخ کا یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ سلطان مسعود ظلم و فساد ہو میں مصروف ہو گیا تھا۔ یہاں ان واقعات کی تفصیل بیان کرنے کی گنجائش نہیں۔ اور یہ بات ہمارے موضوع سے باہر ہے، سلطان مسعود نے سلجوقیوں کو اپنے سفر کے ذریعہ انتباہ کیا کہ وہ ادھر نہ بڑھیں مگر انہوں نے کہلا بھیجا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس تمام انقلابی حالات کا حضرت شیخ کو پہلے ہی علم تھا۔ ان دنوں دونوں بھائی جعفری اور طغرل حضرت کی زیارت کو آئے حضرت شیخ اپنے مشہد میں تمام صوفیہ اور درویشوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ یہ دونوں بھائی آپ کے منبر کے پاس آئے۔ قدم بوسی کی۔ اور خدمت میں کھڑے رہے۔ حضرت شیخ چند لمحے مراقبہ میں رہے۔ سر اٹھایا تو فرمایا۔ جعفری ہم نے سارا خراساں تمہیں دے دیا ہے اور عراق طغرل کو دے دیا ہے۔ دونوں ادب بجالا کر چلے گئے۔

اس واقعہ کے بعد سلطان مسعود کا لشکر جنگ کرنے لگا۔ مینہہ تک فوجیں آئیں مینہہ کی ساری آبادی قلعہ میں محصور ہو گئی۔ حضرت شیخ اپنے درویشوں کو لے کر قلعہ بند ہو گئے مینہہ میں ادھر ادھر کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ اس طرح یہ قصبہ لوگوں سے پُر ہو گیا قلعہ میں اکٹالیس ایسے نوجوان تھے جو تیر اندازی میں کمال رکھتے تھے۔ جہاں نشانہ لگاتے خطانہ جاتا۔ ان لوگوں نے سلطان مسعود کے بہت سے قابل فوجی چن چن کر نشانے میں رکھے اور ہلاک کر دیئے حسن مودب کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ نماز عشا پڑھ رہے تھے۔ حضرت شیخ نے مجھے حکم دیا کہ باد نہ میں جاؤ۔ یہ گاؤں قلعہ سے تقریباً چھ میل دور تھا وہاں فلاں بوڑھی عورت ہوگی

اسے میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ گائے کے گھی کا فلاں برتن جو ہمارے لئے تم نے رکھا ہوا ہے  
دے دو۔ مجھے قلعہ کی عقبی دیوار سے ایک رے کے ذریعہ نیچے پہنچا دیا گیا۔ میں بادرنہ میں پہنچا  
رات کے اندھیرے میں کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ گھی لے کر واپس آیا۔ سحری کے وقت قلعہ کی  
دیوار کے نیچے پہنچا تو قلعہ والوں نے مجھے اسی رے سے اوپر کھینچ لیا۔ میں حضرت کی خدمت میں  
حاضر ہوا۔ اس وقت آپ نماز صبح کی تیاری کر رہے تھے۔ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت  
ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور چوہے آگ سے بھڑکنے لگے۔ برتن رکھ دیئے گئے۔ اور گھی ان برتنوں  
میں ڈال کر گرم کرنے لگے لوگوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ کیوں گرم کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف  
لوگ سلطان مسعود کی فوجوں سے جنگ بھی کر رہے تھے۔ اور بعض حضرات صلح کی باتیں بھی کر رہے  
تھے۔ مینہ کے رئیس نے سلطان مسعود سے صلح کر لی۔ اور شرط یہ قبول کی۔ کہ ان اکتالیس تیر اندازوں  
کو سلطان مسعود کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ سلطان نے ہر ایک کا دایاں ہاتھ کٹوا دیا۔ وہ  
لوگ روتے روتے آئے تھے حضرت شیخ ان کے کٹے ہاتھوں پر گرم گرم گھی لگاتے جاتے اور  
آنکھوں سے آنسو بہاتے جاتے تھے۔ اور کہتے جاتے مسعود نے اپنے ملک کے ہاتھ کاٹ  
دیئے ہیں۔

بادشاہ کی اس سختی نے سارے ملک میں غم و غصہ کی لہر دوڑا دی۔ اس کی فوجیں یہ علاقہ  
فتح کر کے مرو کی طرف چلی گئیں۔ وہاں سلجوقیوں کو ان کے آنے کی اطلاع ملی۔ تو صف آرا ہو گئے  
سلطان مسعود کو شکست ہوئی۔ سارا ملک مسعود کے خاندان کے ہاتھوں نکل کر سلجوقیوں کے قبضہ میں  
آ گیا۔ جعفری کو سامان کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اور طفیل عراق کے علاقہ پر حکمران بن گیا۔

ایک بار حضرت شیخ نے ایک مجلس میں طفیل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ ایک وقت تھا جب  
طفیل بیگ مینہ میں آیا تھا۔ اس کے پاس گھوڑے کی ایک زین اور سونے کے لئے  
ایک غدہ تھا۔ کسی آدمی کو ہمارے پاس بھیجا کہ ہم مسافر ہیں۔ اور آپ لوگوں کے مہمان ہیں  
رے لئے گھوڑا سا آٹا بھیج دیں۔ آٹا بھیجا تو یہاں سے سرخس کی طرف روانہ ہو گیا۔ سرخس

کے علاقہ میں طفیل بیگ کے بہت ماننے والے تھے۔ جو بھی اسے ملتا اس سے گھوڑا شکر کے لئے لے لیتا۔ اس طرح اس نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کا ایک منظم لشکر تیار کر لیا۔ دوسرے خود بخود اس کے زیر اطاعت آتے گئے۔ مسعود سوری وغزنی نے اسے پیغام بھیجا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو کیا ہمیں مجبور کرتے ہو کہ ہم اس علاقہ میں آئیں۔ اور تمہاری سرکشی کو دبا دیں۔ اس نے جواب میں پہلا یہجا یہ نہ تو ہمارا کام ہے۔ نہ ہی تمہارا یہ ساری تحریک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو کچھ وہ چاہے گا ہو کر رہے گا۔ ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا۔ کہ جس شخص کو اللہ کی ذات پر اتنا پختہ ایمان ہے۔ ایک وقت آئے گا۔ کہ دنیاوی حکمرانی اسے ملے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارا خراسان اس کے زیر نگیں ہے۔

حسن مودب بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت شیخ قدس سرہ گھوڑے پر سوار جا رہے تھے۔ میں حسب معمول رکاب تھامے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ آپ آہستہ آہستہ فرماتے جاتے تھے۔ اے اللہ میں بوڑھا ہوں ضعیف ہوں۔ بے طاقت ہوں فضل کر۔ اور درگزر فرما۔ یہ بات کہتے ہی آپ کا گھوڑا بدکا۔ اور سر کے بل گرا۔ حضرت شیخ بھی گھوڑے سے گر پڑے مگر کوئی زخم نہ آیا۔ زبان سے فرمایا۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ اِنْ كَانَ اَمْرًا لِلَّهِ تَدْرًا مَقْدَرًا ط سجدہ شکرانہ ادا کیا۔ حسن کہتے ہیں۔ میں نے جان لیا۔ کہ حضرت کی تضرع اور دعا اس ناویدہ حادثہ پر تھی جس سے یہ مصیبت ٹل گئی۔

میرے بچہ امجد حضرت شیخ الاسلام ابو سعد فرماتے ہیں کہ میں شیخ کی ایک نگاہ نے اپنے والد حضرت ابو طاہر رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا۔ کہ مینہ میں ایک بوڑھا آدمی تھا۔ وہ رشتہ میں میری والدہ کا ماموں تھا۔ لوگ اسے شہوتی کہا کرتے تھے۔ وہ عمر رسیدہ۔ چھوٹے قد۔ گھنی داڑھی اور درویش صورت شخص تھا۔ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت شیخ کی کوئی مجلس بھی نہ چھوڑتا۔ آنکھوں سے آنسو اور دل میں سوز رکھتا۔ ایک دن حضرت کی مجلس وعظ میں اس پر رقت طاری ہو گئی مجلس

ختم ہوئی۔ اہل مجلس اٹھ کر چلے گئے۔ تو ہوش آیا۔ اٹھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا۔ جیسے اس کے گلے میں کانٹا ہوتا ہے۔ حضرت نے پوچھا۔ کیا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا۔ مجھے معلوم نہیں آپ نے فرمایا معلوم تو ہونا چاہیے۔

دوسرے دن مجلس شروع ہوئی تو حضرت نے فرمایا۔ شبوئی کی کمر پوٹیکا کو باندھو اور اُس کی آستینیں لپیٹ دو۔ ہاتھ میں ایک جھاڑو پکڑو۔ وہ مسجد کو صاف کرے گا۔ بیچارہ بوڑھا جھاڑو پکڑے مسجد کو صاف کر رہا تھا۔ اس وقت مینہ کے رئیس خواجہ محمودیہ حضرت کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے دل میں آیا۔ یہ فریضہ تو کسی نوجوان کے سپرد ہونا چاہیے تھا۔ یہ ضعیف بوڑھا اس کام کو کس طرح کرے گا۔ حضرت شیخ نے معلوم کر کے فرمایا۔ خواجہ! اس بوڑھے کی ارادت بڑھاپے میں ظاہر ہوئی ہے۔ جب تک راستہ طے نہ کیا جائے۔ منزل مقصود پر نہیں پہنچا جاسکتا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگا۔ حضرت میں بوڑھا ضعیف ہوں اور علیل ہوں۔ میرے حق میں دعا رحمت فرمائیے۔ حضرت شیخ نے سر جھکایا۔ تھوڑی دیر کے بعد سراٹھا کر فرمایا۔ جھاڑو زمین پر پھینک دو۔ تمہارا کام ہو گیا!

میرے والد محترم خواجہ ابو طاہر فرماتے ہیں کہ نماز ظہر کے وقت بعض صوفیاء درویشوں کے لئے گندم پسانے پن چکی پرے جا رہے تھے۔ یہ بد امنی کا زمانہ تھا ترکمانوں کے نلتنے سے لوگ ہراساں تھے میں نے شیخ سے کہا کہ پن چکی پر کے بھجوں۔ فرمانے لگے۔ شبوئی کو میں نے چند درویشوں کے ساتھ اسے بھیج دیا۔ جب یہ لوگ پن چکی میں پہنچے۔ تو دروازہ بند کر کے چکی چلانے لگے اور آٹا تیار کرنے لگے۔ اسی اثناء میں ڈاکو ترکمانوں کا ایک جتھہ دروازے کے باہر آ پہنچا۔ اور دروازہ کو ٹنا شروع کر دیا۔ لیکن درویشوں نے دروازہ نہ کھولا۔ یہ بوڑھا شبوئی دروازے کے پچھے پشت لگا کر کھڑا رہا۔ ایک ترکمان نے دروازے کے سوراخ سے ایک تیر مارا۔ جو شبوئی کی پشت کو چیرتا ہوا پار ہو گیا۔ اسی حالت میں شہید ہو گیا۔ اسے ایک پھر پر لا کر مینہ میں ملایا گیا۔ حضرت کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت شیخ نے اس کے سفید بدن کو خون

سے سرخ دیکھا۔ تو رونے لگے اور فرمایا فَمِنْكُمْ مَنْ قَضَىٰ نَجْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ نماز جنازہ ادا کی۔ دوسرے دن اس کی قبر پر مجلس بربپا کی گئی۔ حضرت کی مجلس میں رئیس مینہ خواجہ محمود نے دل ہی میں کہا۔ بھلا اس ضعیف کو مارنے سے ان لوگوں کو کیا حاصل ہوا ہے حضرت شیخ نے خواجہ کے دل کی بات بھانپ لی۔ اس کی طرف منہ کر کے فرمایا۔

چندیں چہ زنی نظارہ کو دیداں ۔ انہجام اثر دہاست و زخم ہیلان  
تاہر کہ در آید بہ ہند او دل دجاں ۔ فارغ چہ کند گرد سرائے سلطان  
وصلی اللہ علیہ و محمد والہ اجمعین ۔ ہاتھ منہ پر پھیرا۔ اور منبر سے نیچے اتر آئے۔

ماورالنہار میں بزرگان دین اور صوفیاء کی ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہی ہے جن کی اپنی اپنی مخصوص نشست گاہیں ہوتی ہیں۔ اور طریقت میں بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں ان کے ایک پیر طریقت ہوتے ہیں۔ جو بڑے ہی بزرگ انسان ہیں۔ بہت سے مرید ہوتے ہیں ان کے ہر مرید کے ہاں ایک ایک ایسا محبوب ضرور ہوتا ہے جو دنیا داری میں صاحب ثروت ہو۔ وہ محب انہیں اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے ان کے معمولات میں ایک بات ضروری ہوتی ہے کہ جب نماز عشاء سے فارغ ہو کر اوراد و وظائف سے فارغ ہو کر اسی طرح مصلوں پر بیٹھے رہتے ہیں ساری رات مراقبہ میں گزارتے ہیں صبح کی نماز کے بعد پیر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس رات جس کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ یا قلبی خطرات سے دوچار ہوتا ہے اس کا حل یا جواب دیتے ہیں۔ اس ضمن میں جو کچھ کہنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں۔ اس صوفیاء کی جماعت کا ایک خادم عمران نامی تھا یہ شخص بڑا سرگرم خدمت گزار تھا۔ ایک رات اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ اگر میں اسے طلب کرتا ہوں۔ تو مجھے حکم ہوتا ہے۔ اے ناکس تم کہاں اتنی جلدی کرتے ہو۔ کیا خیال کرتے ہو کہ اتنی جلدی مجھے پا لوگے؟ اور اگر میں طلب نہیں کرتا تو حکم آتا ہے و سارِعُوا (جلدی کرو) اگر غیر اللہ کی طلب کرتا ہوں تو تنبیہ ہوتی ہے کہ تم مشرک ہو؟ اگر واپس لوٹو

تو ارشاد ہوتا ہے کہ تم مرشد ہو، اسی سوچ میں عمران کی ساری رات گزر گئی علی الصبح پیر مرشد نے گفتگو کا آغاز کیا۔ تو تمام مریدوں کی مشکلات کا حل بتانے آئے جب عمران کی باری آئی تو عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ اور اپنی مشکل بیان کی کہ ایک شخص طلب میں نکلا۔ تو ساری عمر اسی طلب میں گزار دی۔ کبھی طاعت کرتا ہے۔ کبھی مجاہدہ کرتا ہے اس طرح ساری عمر اسی طلب میں بسر ہوتی ہے مگر جس طلب کے لئے یہ سب کچھ کرتا ہے وہ حاصل نہیں ہو سکی۔ پیر نے اپنا مراقبہ میں نیچا بیا۔ اور اس اشکال کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ بہت فکر کیا مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ سر اٹھا کر کہہ اے عمران! تھوڑے دن صبر کرو۔ جمعہ کے دن سارے مشائخ جمع ہوں گے۔ ہر ایک سے اس مسئلہ پر سوال کیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ کوئی بزرگ تسلی بخش جواب دے دیں۔

جمعہ کے دن تمام بزرگانِ ولایت جمع ہوئے۔ عمران نے اپنی مشکل کو پیش کیا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر اظہارِ خیال کیا مگر ان کی مشکل حل نہ ہو سکی۔ سائل کا دل صاف نہ ہوا کیونکہ ہر ایک بزرگ مختلف حل پیش کرنا رہا۔ سارا دن گزر گیا۔ عمران کو تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ حتیٰ کہ سب کے سب بزرگ خاموش رہے۔ سائل نے احتجاجاً شور مچایا کبھی ساری عمر آپ کی خدمت میں گزری ہے۔ اتنے اتنے بزرگ پہوان دیکھے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو روحانی طبیب خیال کرتا تھا۔ لیکن میری بیماری کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ عمران کی بات سن کر بزرگوں کی مجلس میں ایک شور برپا ہوا اس رات سب نے مل کر غور و فکر کیا۔ سرگھٹنوں پر رکھ دیئے صبح تک ہی سوچتے رہے جب صبح ہوئی رات کو جو کچھ کسی کو دکھائی دیا۔ بیان کر دیا لیکن پھر بھی مشکل حل نہ ہوئی۔ ان کے مرشد نے کہا۔ اس مشکل کا حل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اس مسئلہ میں عاجز ہیں اور اس بیماری کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے۔ ہاں ایک مردِ کامل خراسان میں موجود ہے۔ جسے شیخ ابوسعید ابوالخیر کہتے ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ اور اس مشکل کا حل دریافت کرنا چاہیے۔ ہم اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک اس مشکل کا حل نہ مل جائے عمران اٹھا۔ اور روانہ ہو گیا۔ وہ سفر میں جا رہا



تھا۔ اپنے حال میں مست تھا۔ نہ کھانے کی فکر نہ سفر کا ڈر۔ مینہہ میں پہنچا۔ تو صبح کا وقت تھا۔ اس وقت حضرت شیخ مجلس میں تشریف فرما تھے اور وعظ کہہ رہے تھے۔ عمران آگے بڑھے تو حضرت نے ایک نگاہ بھر کر دیکھا۔ تو مجھے کے درمیان سے سر اٹھایا اور فرمایا مر جا، عمران آؤ۔ آگے آ جاؤ۔ آج ہم تمہارے لئے ہی بیٹھے ہیں۔ عمران نے سلام کیا۔ اور کھڑے رہا۔ مگر حضرت شیخ نے فرمایا۔ میرے نزدیک آؤ۔ تم تو بہت دور سے آئے ہو۔ عمران اور نزدیک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا۔ عمران! احوال ایک سمت نہیں چلتے تم اسے طلب کرتے ہو یا اس سے کچھ طلب کرتے ہو؟ ایک لاکھ بیس ہزار انبیاء کرام نے اس سے کچھ طلب کیا تھا۔ حتیٰ کہ حضور سرور کائنات اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے اسے طلب کیا۔ سب سے پہلا طالب حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب طلب کی بات پوری کی تو مَا ذَاغَ الْبَعْسِ وَمَا حَطْنِي (آپ نے نہ آنکھ جھپکی اور نہ نظر جھپکی) اگر تم اسے طلب کرتے ہو۔ تو یاد رکھو۔ الطَّلِبُ كَرْدٌ۔ السَّبِيلُ شَدُّ وَالْمَطْلُوبُ بِلَا حُدٍّ (طلب نامنظور ہوتی ہے۔ راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اور مطلوب کی کوئی حد نہیں ہوتی) اگر تم اس سے کچھ طلب کرو گے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ تو اسی صورت ہو سکتا ہے۔ کہ اسی کی باتیں کر دو۔ اور اس کے دوستوں سے ملو تم غور تو کرو اس نے دوسروں کو سلا دیا ہے۔ گاتھیں اپنی بارگاہ پر بیدار رکھا ہے دوسروں کو غیر کی طلب میں لگا دیا ہے۔ تو تمہیں اپنی طلب میں مشغول رکھا ہے۔ عمران نے کہا۔ حضرت کیا اس کی ذات کریم نہیں ہے؟ فرمایا۔ اَلْكَرِيمُ الَّذِي يُعْطِي قَبْلَ السُّوَالِ وَنِعْضُو قَبْلَ الْاِعْتِذَارِ۔ (کریم وہ ہے۔ جو سوال کرنے سے پہلے عطا فرمائے اور معافی مانگنے سے پہلے معاف فرمائے)

عمران واپس جاؤ۔ کہ لوگ تمہاری انتظار میں ہیں۔ عمران نے سلام کیا اور واپس ہو گیا ایک اور سوال کیا حضرت ہم گنہگاروں کا کیا حال ہو گا۔ فرمایا۔ فرمایا۔ اے نوجوان حضور فرماتے ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَرُحَمُونَ عَلٰی الْمُقْرَبِينَ عَلٰی اَنْضَبِم بِالذُّنُوبِ

بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان مقربین پر رحم فرماتے ہیں تاکہ وہ ہر قسم کے گناہوں سے مبرا ہو جائیں،

عمران واپس آیا۔ تو وہاں کے پیر اور صوفیہ ابھی تک انتظار کر رہے تھے۔ عمران نے سارا واقعہ سنایا۔ سب اسٹھے۔ اور مینہہ کو روانہ ہو گئے

ایک درویش عراق سے چلا اور حضرت پیر کے مرید اور مرید کے پیر پر حقوق :- شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مینہہ میں پہنچا۔ تو حضرت اس وقت باوندہ میں تشریف فرما تھے۔ یہ قصبہ مینہہ سے دو تین کوس پر واقع ہے۔ وہ درویش مینہہ میں نہ ٹھہرا۔ باوندہ میں چلا آیا۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قدم بوسی کی۔ اور حضرت کے ساتھ ہی مینہہ کی طرف آیا۔ راہ میں حضرت سے سوال کیا۔ حضور۔ پیر کے مرید پر کیا حقوق ہیں۔ اور مرید کے پیر پر کیا حقوق ہیں، حضرت نے بات سنی۔ تو کوئی جواب نہ دیا۔ مینہہ میں پہنچے دوسرے دن حضرت مجلس میں آئے تو اس درویش کو فرمایا۔ کہ تم اسی وقت اٹھو۔ اور غزنین جاؤ۔ اور فلاں شخص کے پاس جا کر ایک سو دینار لے آؤ اور ساتھ ہی دو سیر عود کی خوشبو ان صوفیوں کے لئے بھی لیتے آنا۔ درویش اٹھا۔ اور غزنین پہنچ کر حضرت کا پیغام دیا۔ اور ایک سو دینار اور عود لے کر روانہ ہوا۔ راہ میں ہرات میں رکا۔ ایک ہردی درویش کو لے کر ایک حمام میں چلا گیا۔ اس حمام میں اسے ایک خوش شکل بڑا دکھائی دیا جسے دیکھتے ہی دل دے بیٹھا۔ ہردی درویش کو کہنے لگا۔ کسی طرح اس بڑے کو میرے کمرے میں لے آؤ۔ اس نے کہا۔ اسے کچھ دینا پڑے گا۔ درویش نے دو دینار دیئے۔ ہردی نے اس بڑے کو دو دینار دکھائے اور درغلا کر درویش کے کمرے میں لے آیا۔ درویش اس بڑے کے ساتھ ہرا راہہ کر رہا تھا۔ کہ حضرت شیخ ابو سعید ایک طرف سے تیز تیز آتے دکھائی دیئے اور چلا کر اس بڑے کے کام سے روک دیا۔ درویش نے دیکھا۔ تو لغرہ مارا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ہوش میں آیا تو مینہہ کو روانہ ہوا۔

مینہہ پہنچا تو حضرت شیخ مجلس میں بیٹھے و عظم فرما رہے تھے۔ درویش ویسے ہی مجلس میں آ گیا حضرت نے اسے دیکھتے ہی فرمایا۔ مرید کا حق تو پیر پر یہ تھا کہ پیر کا حکم پاتے ہی تم غزنین چلے گئے۔ اور پیر کا مرید پہ حق یہ تھا کہ دوران سفر جب نہارا پاؤں نعدنے لگا۔ تو پیر نے روک لیا۔ یہ بات سنتے ہی درویش شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اور گناہوں سے توبہ کی۔

خواجہ علیک بیان کرتے ہیں۔ میں نیشاپور میں تھا  
نگاہ محبت کی اثر انگیزیاں :- ایک دن مجھے حضرت کی یاد نے ستایا۔ میرا دل چاہا

کہ آپ کی زیارت کے لئے مینہہ جاؤں۔ چنانچہ میں دن رات سفر کر کے مینہہ پہنچا۔ میں نے سوچا۔ حضرت کی خدمت میں جانے سے پہلے غسل کر لوں۔ مگر میں نے دیکھا۔ ایک درویش آ رہا ہے۔ مجھے کہنے لگا۔ حضرت فرماتے ہیں۔ ایسے ہی چلے آؤ۔ میں سفر کے لباس میں ہی حاضر خدمت ہوا۔ اس وقت حضرت مشہد کی دکان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سی لاؤ۔ کہ سی لالی گئی۔ مجھے فرمایا۔ اب جوتے اتار دو۔ اور سفر کا سامان علیحدہ کر دو۔ اور یہ سامان سفر مجھے دے دو۔ فرمایا۔ جو شخص اس ایک بات کے لئے ایک قدم اٹھاتا ہے۔ وہ بزرگ ہوتا ہے پھر مجھے محبت کی نظروں سے دیکھتے ہو فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ تم خود مٹنے آئے ہو۔ ہم نے تمہیں بلا یا ہے۔

ایک دن حضرت شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں وعظ فرما رہے تھے۔ صوفیاء کا منکر ایک شخص اسی مجلس میں آکر ستون کی روٹ میں آپ کی باتیں سننے لگا۔ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے۔ اور چوڑھی مارے گفتگو فرما رہے تھے۔ اور بزرگان دین کی کرامات پر اظہار خیال فرما رہے تھے۔ وہ شخص ظاہراً تو حضرت کو دیکھتا جاتا مگر دل سے تمام باتوں کو لفو قرار دیتا تھا۔ آپ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ ستون کی روٹ میں بیٹھنے والے نوجوان! دل سے انکار دُور کر دو۔ اور ہمارے پاس آکر بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص اٹھا۔ اور دھاڑ مار کر کہنے لگا۔ یہ کیا خدائی ہے؟ آپ نے فرمایا۔ یہ کہو۔ یہ کیا بے اختیاری ہے؟ تمام مجمع سے فریاد آئی اور وہ شخص تائب ہوا

مرید ہوا۔ اور مرد کامل بن گیا۔

حضرت خواجہ ابوالفتح فرماتے ہیں۔ میں حضرت کی خدمت کو جایا کرتا تھا۔ آپ کی حالت دیکھا کرتا۔ آپ کے ابتدائی دور کی ریاضتوں اور مجاہدوں کا ذکر سنتا تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ حضرت شیخ کو جو مقام ملے وہ ان ریاضتوں کا ثمر ہے۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا۔ کہ میں بھی یہ مجاہدے اور ریاضتیں خفیہ طور پر اختیار کر لوں سب سے پہلے میں نے اپنے کھانے احتیاط برتنا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا ہے **يَا أَيُّهَا الرِّسُلُ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا أَعْمَلُوا صَالِحًا رَأَىٰ مِثْلَهُ** اور صوفیہ کو جس قسم کا کھانا آتا ہے۔ اسے نہ کھاؤں۔ اس وقت مجھے کوئی کام کرنا تو آتا نہ تھا۔ حضرت شیخ کے ہمسایہ میں ایک شخص رہتا تھا جو خراس پر کام کرتا۔ میں اس کے پاس گیا۔ اور کچھ کام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ہم نے پردہ گرام بنایا۔ دوپہر کے وقت حضرت آرام فرماتے ہیں۔ صوفیہ بھی اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جاتے ہیں میں گاؤں سے نکلتا اور مھراہ کی راہ لیتا۔ وہاں سے رسی باٹنے کا سامان اکٹھا کرتا اور رسی بنا کر بازار میں فروخت کر لیا کرتا۔ اس مزدوری سے جو خریدتا۔ خود پیتا۔ اور خود ہی پکاتا۔ خود تو روزہ رکھتا۔ مگر جو کچھ پکاتا اور ویشوں کے پاس لے جاتا۔ اور افطاری کے وقت ان کے ساتھ شریک طعام ہو جاتا۔ لیکن اپنی آستین سے جو کی روٹی نکالتا۔ اور چوری چوری کھا لیتا۔ میں ہمیشہ حضرت شیخ سے ذرا دور ہی دسترخوان پر بیٹھا کرتا تھا تاکہ حضرت میری اس حرکت کو نہ دیکھ سکیں۔ اس روٹی کے علاوہ میں غسل کرتا۔ اور اپنی نمازیں طویل کرتا۔ میرا خیال تھا۔ کہ میرے ان اطوار و احوال کی کسے بھی خبر نہیں ہے۔ حضرت شیخ نے مجھے اس موضوع پر کبھی کچھ نہ کہا۔

ایک دن حضرت مینہ سے نیشاپور میں جا رہے تھے ہم لوگ بھی ساتھ ہی تھے راستے میں طوس آئے تو وہاں ایک شخص سید ابوطالب جعفری حضرت کے مخلص دوستوں میں سے تھے حضرت آپ کے بغیر کسی سے کھانا نہ کھاتے۔ طوس سے چل کر توقان پہنچے۔ ابوطالب جعفری بھی آپ کے

ساتھ ہی تھے۔ یہاں دونوں ایک تختے پر بیٹھے کھانا کھانے لگے۔ اس موقع نونان میں ایک عابد اور زاہد تھا۔ اس نے حضرت شیخ کی نونان میں آمدنی تو زیارت کو آیا اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب تو دے دیا۔ مگر خاص توجہ نہ فرمائی۔ آپ کے اس رویہ سے زاہد بڑا شکستہ خاطر ہو۔ کیوں اس شہر میں لوگ اسے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسی طرح شکستہ خاطر مجلس سے اٹھا اور باہر آیا۔ ابوطالب نے کہا۔ حضرت آج آپ نے ہمارے اس زاہد اور عالم کی طرف التفات نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا۔ ہمیں زاہدوں کی ضرورت نہیں! زاہدوں کی ضرورت نہیں!! پھر فرمانے لگے۔ بیدی! تار یوں سے ڈور رہا کرو۔ یہ لوگ جفل خور ہوتے ہیں! لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کے کہنے پر نہ کسی کو سزا دے گا۔ اور نہ ہی مخلوق کو ان کے کہنے سے رہائی ملے گی۔ یہ بات کہنے کے بعد آپ نے مجھے مخاطب فرمایا اور کہا۔ اگر تم وہاں موجود ہو۔ تو دیکھتے رہیں۔ ان کی بات نہ کرنا۔ میں تو شیخ اور فقیر ہوں۔ اور تم زاہد بن سہے ہو اپنے پیرومرشد کی متابعت کے زیر ہی منازل طے کرنے میں لگے ہوئے ہو۔

حضرت خواجہ ابوالانج فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ کی یہ بات سن کر زمیں پر گر پڑا۔ اس بات کے خوف سے میرے اور ان خطا ہو گئے۔ میں استغفار کرنے کی بجائے زار زار رونے لگا۔ میری یہ حالت دیکھ کر حضرت کو مجھ پر ترس آ گیا۔ خوش دل کر کے فرمایا۔ اس کام کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا حضرت میں نہ چھوڑ دیا۔ لوگوں نے مجھے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا؟ میں نے ساری حالت بیان کی سب تعجب کرنے لگے۔ کیونکہ اتنا حرصہ کسی کو بھی میری اس بات کا علم نہ تھا صرف شیخ ہی جانتے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں!۔

خواجہ ابوالقاسم حکیم رحمۃ اللہ علیہ نہایت شیخ کی جلسوں پر کھلی رہتے تھے۔ بزرگ آدمی تھے اور سرخس میں رہا کرتے تھے۔ مریدوں کی خاصی تعداد آپ سے عقیدت رکھتی تھی۔ یہ سب کے سب بڑے ہی صاحب دل لوگ تھے۔ جب حضرت شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سرخس میں پہنچی۔ انہیں یہ تجسس

پیدا ہوا کہ یہ حضرت شیخ ابوسعید کون ہیں؟ ان کا مقام کیا ہے؟ ایک دن سارے بیٹھے آپ کے بارے میں ہی گفتگو کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ وہ بڑے بزرگ انسان ہیں دوسرے نے کہا کہ پیارے کے پیچھے رہنے والے ہیں۔ یعنی دیہاتی ہیں۔ ان میں ایک شخص کچی ترکی بھی تھے کہنے لگے غیبت میں بلا سرو پا باتیں کرنا اچھی بات نہیں۔ میں مینہ میں جا کر معلوم کرتا ہوں کہ وہ بزرگ کیسے ہیں۔ چنانچہ آپ نے رختِ سفر باندھا اور مینہ کو روانہ ہو گئے۔ صوفیاء کی ایک جماعت نے انہیں الوداع کہا۔ اور کہنے لگے ذرا غور سے دیکھتا وہ کیسے بزرگ ہیں ان کی کرامات یہاں تک پہنچتی ہیں۔ کچی مینہ میں پہنچے۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ منبر پر جلوہ فرما و عظم فرما رہے تھے۔ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت نے آپ کو دیکھا۔ فرمایا۔ کچی مرحبا! آؤ ہمیں خوب دیکھ لو۔ تمہارے درویش تمہاری دالسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ بتاؤ تم آنے لگے تو انہوں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ کچی نے کہا حضرت آپ ہی بتائیے! حضرت شیخ نے فرمایا۔ انہوں نے کہا تھا۔ کہ دیکھنا۔ وہ کیسا مرد خدا ہے؟ آپ نے پوچھا تم نے مجھے دیکھ لیا ہے؟ کچی نے کہا۔ حضرت دیکھ لیا ہے۔ اب بتاؤ انہیں جا کر کیا کہو گے؟ کچی نے کہا جو حضرت فرمائیں وہی کہوں گا! آپ نے فرمایا۔ جاؤ۔ اور انہیں کہو کہ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے جس کی جیب کبھی بند نہیں رہتی۔ اور خلقِ خدا کی خدمت سے نہیں رکتا۔

کچی نے یہ سنتے ہی نعرہ مارا۔ اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہوش آیا تو اپنے دوستوں کی طرف روانہ ہوا۔ ابوالقاسم کے سامنے صوفیہ کی موجودگی میں اپنے تاثرات پیش کئے۔ تمام سن کر بہت خوش ہوئے دوسرے دن تمام کے تمام مینہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ حضرت شیخ کی زیارت کریں۔

ایک دفعہ حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ مرو کی طرف  
**شیخ ابوسعید مرو میں** روانہ ہوئے ان دنوں وہاں خواجہ علی خاں رحمۃ اللہ علیہ  
رہا کرتے تھے۔ پیر بوعلی سیاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عقیدت مندوں کا مجمع رہتا تھا۔ حضرت  
کی آمد کی خبر سنی تو کہنے لگے۔ ایسا پرندہ آرہا ہے۔ جو سب پرندوں کا چلینہ چن لے گا۔ اٹھے

اور کھنگھے حضرت کا شاندار استقبال کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خواجہ علی نے حضرت کے شایان شان استقبال کی تیاری کی۔ اور انتظامات کے علاوہ آپ نے حکم دیا کہ آج دو موٹے موٹے خچر ذبح کئے جائیں۔ اور ان کا گوشت محلے کے کتوں کو کھلایا جائے۔ اس شہر کے کتے بھی حضرت کی آمد پر چربین گوشت کھائیں۔ آپ کے خادم نے کہا۔ آپ نے ایسا کیوں کہا۔ فرمایا۔ جب بادشاہ آتے ہیں۔ تو اس شہر کی ہر چیز پر رحمت برتی ہے۔ کتے بھی پیٹ بھر کر کھائیں۔ آپ حضرت کے استقبال کے لئے ایک بڑا پر وقار جلوس لے کر نکلے حضرت شیخ کی خواہش تھی کہ رباط عبد اللہ ابن مبارک میں قیام فرمائیں گے۔ بوعلی سیاہ نے کہا۔ ہم ایک سال میں ہزار بار دُور کی تربیت کرتے ہیں۔ کہ ایک شاہباز ہمارے قابو آئے۔ آج اتنا بڑا شہباز آیا ہے۔ اسے کسی دوسری جگہ نہیں ٹھہرنے دیا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا۔ جو امر تمام کے تمام شہباز ہی ہیں۔ ان میں کوئی بھی باز نہیں ہے۔ پیر بوعلی نے کہا۔ حضرت آپ کی زیارت ہو گئی۔ ورنہ ہم لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ چنانچہ حضرت شہر میں آئے۔ اور خانقاہ میں نزل فرمایا تخت پر جلوہ فرما ہوئے۔ تمام پیراں عظام اور صوفیہ حلقہ نشین ہوئے نوجوان چاروں طرف صف بستہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے سلسلہ کلام شروع کیا۔ غالباً خواجہ علی جناب رحمۃ اللہ علیہ کو رشک آیا۔ بوعلی سیاہ اندر آئے اور اپنے مریدوں پر نگاہ ڈالی۔ اور حضرت کو تخت پر بیٹھے ایک نظر دیکھا حضرت شیخ کی ہیبت اور سلطنت دیکھ کر دم بخود ہو گئے۔ دل میں خیال آیا۔ اگر لوگوں نے آپ کی عارفانہ گفتگو سنی تو ہماری دلائت ختم ہو جائے گی۔ اور مرد کا وقار جاتا رہے گا۔ حضرت شیخ نے اسی وقت خواجہ علی کی طرف نگاہ ڈالی اور فرمایا۔ خواجہ باہر اپنے بازار میں جاؤ۔ یہاں بڑی اچھی روٹیاں پکاتے ہیں۔ اپنے چہرے جیسی ایک خوبصورت روٹی تو لے آؤ۔ علی باہر دوڑے گئے۔ ایک پاکیزہ سی روٹی لائے شیخ نے یہ روٹی لی اور پیر بوعلی کو مخاطب فرماتے ہوئے کہا۔ آج سے ہم شہر مرو اور دلائت مرو اس روٹی کے بدلے آپ لوگوں کو بخشتے ہیں۔ اور یہ روٹی بھی تمہاری ہوگی۔

آپ یہ بات کہہ کر باہر آ گئے۔ انہوں نے بڑی منت سماجت کی۔ مگر آپ نہ رکنے کے پھر

بار بار کہا۔ حضرت کھانا تو کھالیں مگر آپ نے دہاں صہرنے سے انکار کر دیا۔ اور باط عبد اللہ مبارک میں تشریف لے آئے۔ خواجہ علی جنازہ نے دسترخوان صہرا میں بچھا دیا۔ فارغ ہوتے تو آپ واپس مینہہ آگئے۔

میرے والد مکرم نور الدین منور رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا  
اہل محبت کی آمد :- کہ انہوں نے خواجہ ابوالفتح سے سنا۔ ایک دن حضرت شیخ ابوسعید مشہد کی دکان پر مجلس فرما رہے تھے۔ دوران گفتگو فرمانے لگے۔ آج خلدہریں سے نسیم جانفزا چل رہی ہے اور یہ نسیم درویشوں کی آمد کے بغیر نہیں چل سکتی۔ یہ کہہ کر پھر وعظ فرماتے لگے۔ چند لمحے بعد دوسری بار فرمایا۔ آج خلدہریں سے نسیم جانفزا چل رہی ہے اور یہ نسیم درویشوں کی آمد کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تیسری بار پھر یہی جملہ دہرایا۔ خواجہ مودب اور عبدالکریم اور کچھ دوسرے صوفیاء اٹھے۔ انہیں اس بات سے معلوم ہوا۔ کہ کچھ درویش مہمان آرہے ہیں وہ گاؤں کے ٹیلے کی طرف دوڑے۔ پھر حضرت کے اشارے کے مطابق دائیں جانب لگا ہیں ڈائیں واقع مرد کی طرف سے کچھ صوفی آرہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا۔ تو ان سے معانقہ کیا۔ استقبال کیا۔ اور حضرت کی خدمت میں لائے۔ آپ نے فرمایا۔ ان حضرات کا سامان بھر میرے پاس لاؤ۔ حسن نے صوفیاء کا سامان سفر پیش کیا۔ تو آپ نے لے کر اپنے سر کے نیچے رکھ کر فرمایا۔  
آنرا کہ کلاہ سر بایزد و برد - زانت کہ او بزرگ را داد و فرد  
وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین - منہ پر ہاتھ پھیرا، اور مجلس ختم کر دی سامعین پر  
رقت طاری ہو گئی۔

خواجہ ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں حضرت شیخ کی  
نگاہ کا تازبانہ یا چہماق ترکمانہ :- خدمت میں مینہہ میں موجود تھا۔ ایک دن بے پناہ بارش ہوئی۔ ندی نالوں میں سیلاب آگیا۔ مینہہ میں بھی زبردست سیلاب آیا۔ نماز عصر سے پہلے ہی حضرت شیخ باہر آئے۔ اور فرمایا۔ پانی میں تیرنے کی اجازت نام ہے



تمام درویش سیلاب میں کودنے لگے۔ نماز عصر صبح میں ادا کی گئی۔ میں حضرت شیخ کے ساتھ ہی تھا۔ کہ انہیں سیلابی دریا کے کنارے لے جاؤں۔ آپ نے مجھے دوبارہ فرمایا سارے درویش سیلاب میں کود رہے ہیں تم بھی جاؤ۔ اجازت عام ہے۔ لیکن میں پاک صاف کپڑے پہنے حضرت شیخ کی خدمت میں کھڑا رہا۔ اسی اثنا میں حسن مودب پیچھے سے آئے۔ اور مجھے دونوں ٹانگوں کے درمیان سے اپنی گردن پر اٹھالیا۔ اور سیلاب میں جا پھینکا۔ پانی میرے سر سے گذر گیا۔ میں تو تیرنا جانتا نہ تھا۔ میری گڑھی اور جنتے پانی میں بہہ گئے۔ کپڑے بھیک گئے۔ غوطے کھانے لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ مجھے اپنی اور دنیا و مافیہا کی خبر نہ رہی لوگوں نے مجھے پانی سے باہر نکالا۔ سرنگوں کیا گلے کے راستے سے پانی باہر نکالا اسی دوران حضرت شیخ نے اعلان کیا کہ سب نماز جنازہ کے لئے آ جاؤ۔ مجھے اٹھا کر حضرت شیخ کے سامنے لا رکھا حضرت نے میرے سامنے مصلی بچھایا۔ اور تمام صف بستہ کھڑے ہو گئے حضرت نے چار تکبیریں پڑھیں۔ اور اس طرح نماز جنازہ ادا کی۔ میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گئے چادر کا ایک کونہ کھینچا۔ اور فرمایا۔ ابو بکر۔ موت کے بعد اٹھ کھڑے ہو۔ اور مجھے ساتھ باتیں کر دو۔ یہ کہہ کر اٹھے۔ اور سواری لی۔ اور گھر کی طرف چل پڑے میں بھی اسی طرح گیلے کپڑوں کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور چل پڑا۔ تمام درویش وہاں ہی رہے۔ حضرت آتے ہی گھر چلے گئے۔ رات کھانا کھانے بھی دسترخوان پر نہ آئے۔

دوسرے دن منبر پر بیٹھے تاکہ وعظ کہہ سکیں۔ گفتگو کرنے سے پہلے حسن مودب کو بلایا اور فرمایا۔ ابھی اٹھو۔ اور بلخ چلے جاؤ اور پچیس تاریخ کو ہر حالت میں واپس پہنچ جانا۔ بارہ دن جاتے لگیں گے اور بارہ دن واپسی پر اور ایک دن بلخ میں ٹھہرنا۔ اور پچیسویں دن یہاں ضرور آ جانا ابو عمر و خوشگو یہ نیشاپور سے آ کر وہاں ٹھہرے ہیں۔ انہیں میرا سلام کہنا کہ صوفیوں کے لئے تین سیر عود چاہیئے۔ اور ایک سو دینار قرضہ دینا ہے۔ یہ دونوں چیزیں لے کر آ جانا۔ حسن مودب اٹھے۔ اور سفر کو روانہ ہوئے۔ موضع زردک پہنچے تو

اسی دن ترکمان ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ سب کو گرفتار کر لیا۔ حسن مودب بھی پکڑے گئے  
اسے بہت مارا پیٹا۔ بے عزتی کی۔ اور کہنے لگے تم جاسوس ہو۔ انہوں نے اسی حالت میں  
ایک دن اور رات زیر تادیب رکھا۔ شکنجے میں کس دیا حسن مودب کہتے ہیں۔ ان شدید سردیوں  
میں مجھے جس تکلیف اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ بیان نہیں کر سکتا۔ آدھی رات ہوئی تو میں  
نے حضرت شیخ کا تصور کر کے فریاد کی۔ اور پکارا۔ ابھی میں نے یہ بات کہی تھی۔ کہ ڈاکوؤں کا  
سردار اپنے گھر سے نکلا۔ اور میرے ہاتھ پاؤں کھول دیئے۔ اور مجھے ایک خیمے میں بھیج دیا۔  
گرم پانی دیا گیا۔ جس سے میں بنایا مجھے نئے کپڑے دیئے گئے۔ اور پھر مجھے اپنے خیمہ میں بلایا  
کہنے لگا۔ تم کس شخص کی جاسوسی کر رہے ہو۔ میں نے بتایا۔ میں جاسوس نہیں ہوں۔ میں تو  
میںہہ کے بزرگ کا مرید ہوں۔ جن کا اسم گرامی ابوسعید ابوالخیر ہے۔ اس نے پوچھا کہ ان کا علیہ  
اور شکل و صورت کیسی ہے؟ میں نے بیان کی۔ سردار کہنے لگا۔ جس شکل و صورت کے بزرگ  
بتاتے ہو۔ وہ ابھی ابھی میری خواب میں آئے اور ہاتھ میں تلوار اٹھائے حکم دیا۔ کہ تمہیں چھوڑ دیا  
جانے ورنہ ابھی ہلاک کر دینے جاؤ گے۔ میں ڈر سے اٹھا۔ اور اب تمہیں آزاد کرتا ہوں تم جہاں  
چاہو چلے جاؤ۔ میں وہاں سے نکلا بلخ پہنچا۔ میرے جانے سے پہلے ابو عمرو خوشگو عزیزین جا چکا تھا۔ میں  
مابوس واپس آیا۔ اور پچیسویں دن میںہہ پہنچ گیا۔

حضرت شیخ صبح منبر پر تشریف فرما ہوئے تو فرمانے لگے

آج حسن نے آنا ہے۔ اس کا استقبال کیا جائے حضرت

شیخ کے بیٹے اور دوسرے درویش صحرا میں میرا استقبال کرنے آئے۔ میں حضرت کی خدمت

میں حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا۔ حسن مرحبا! حالات سفر تم سناؤ گے یا میں سناؤں۔ میں نے

عرض کیا۔ حضرت آپ سنا میں تو بہتر ہو گا۔ فرمانے لگے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ابو عمرو خوشگو کو

نہ مل سکو گے۔ مگر تم گئے رستے میں ترکمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے۔ قید کر دیئے گئے۔ بڑی

تکلیف دی۔ تمہنے مجھے پکارا۔ اور تمہیں رہائی مل گئی۔ بلخ گئے۔ اور ابو عمرو کو نہ پاسکے۔

حسن مودب نے عرض کی حضرت جب آپ کو یہ سب کچھ معلوم تھا۔ تو اس غریب کو اس عیبت میں بھیجنے کا کیا مطلب تھا۔ آپ نے فرمایا حسن جس سرکش نفس نے ابو بکر میکین کو پانی میں پھینکا تھا۔ اسے ہم نرم نہیں کر سکتے تھے۔ اسے تو ترکمانوں کے تازیانے ہی درست کر سکتے تھے۔

### صراف کے سو دینار:-

ایک دفعہ حضرت شیخ قدس سرہ سرخس میں تشریف لے گئے۔ میرا ابو افضل حسن کی خانقاہ میں قیام فرما ہوئے۔ اس وقت خانقاہ کا خادم ایک ابو الحسن نامی درویش تھا۔ اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ آپ کون ہیں کہنے لگا۔ ایک بزرگ اتنے مریدوں کو لئے ہوئے آئے ہیں۔ میرے پاس کچھ نہیں کہ انہیں پیش کروں۔ میرے دل میں خیال آیا ہی تھا۔ کہ حضرت نے مجھے طلب فرمایا۔ اور کہا۔ ابو الحسن! بازار جاؤ فلاں صراف کو کہو کہ ابوسعید کہتے ہیں میں دینار بھیجو۔ میں صراف کے پاس گیا۔ اور کہا تیس دینار دے دو۔ صراف نے بات سنی۔ اور تیس دینار خالص نیشاپوری تولے اور مجھے دے دیئے میں حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا۔ اب جاؤ اور انہیں خرچ کرو۔ دوسرے دن حضرت نے مجھے پھر بلایا۔ اور فرمایا۔ ابو الحسن آج اسی صراف کے پاس پھر جاؤ اور تیس دینار اور لے آؤ اور خرچ کرو۔ میں گیا۔ لے آیا۔ تیس دینار پھر حکم دیا۔ کہ جاؤ۔ تیس دینار علیحدہ لانا۔ اور دس دینار علیحدہ لانا۔ اب دس دینار خرچ کر لینا۔ اور تیس دینار دے کر نیشاپور کے لئے ایک گدھا گرایہ پر لے آنا۔ میں صراف کے پاس آیا۔ اور کہا تیس دینار علیحدہ دینا اور دس دینار علیحدہ۔ صراف کہنے لگا۔ پہلے تو تم نے کبھی جدا جدا نہیں مانگئے۔ ابو الحسن نے کہا۔ آج حضرت نیشاپور جانے والے ہیں۔ کل کلاں یہ دینار مجھ سے نہ مانگتے رہنا۔ آج آ جاؤ اور اپنا قرضہ لے لینا۔

صراف میرے ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ صوفی اپنی اپنی سواریاں تیار کر رہے تھے۔ ان پر بوجھ لاوے جا چکے تھے۔ صراف خاموش ہو کر حضرت کی خدمت میں کھڑا رہا۔ مگر حضرت شیخ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ گھوڑے پر بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ صراف آپ

کے پیچھے پیچھے دروازے تک گیا۔ آپ دروازے کے باہر نکلے تو صرف بڑا تنگ دل ہو کر پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ نیشاپور کے راستے پر پہنچے تو نیشاپور کی طرف سے ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ ایک شخص قافلے کے آگے آ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں۔ بتایا گیا کہ حضرت شیخ ابوسعید ابو الخیر ہیں وہ شخص آگے بڑھا سلام کیا۔ آپ نے دیکھتے ہی فرمایا کہ ایک سو دینار اس صرف کو دے دو۔ اس نے ایک تھیلی نکالی اور سو دینار صرف کے حوالے کئے حضرت نے صرف کو فرمایا۔ تمہارا حساب بے باق ہو گیا اس نے کہا۔ ہاں حضرت! آپ نے فرمایا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ صرف کہنے لگا اب تو میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جب تک آپ مجھے قبول نہ کریں۔ صرف پر ایک نگاہ ڈالی اور اسے مرد کامل بنا دیا۔

سرخس میں ایک قاضی سیفی ہوئے ہیں جو قاضی القضاة بھی تھے۔ اور معتبر عالم دین بھی۔ وہ اصحاب الرائے تھے۔ بزرگان دین اور صوفیاء کے منکر تھے۔ ان دنوں قاضی سیفی کا حکم چلتا تھا۔ بڑا صاحب جلال اور حکومت کے ہاں قابلِ صدا احترام مانا جاتا تھا۔ اس نے کئی بار لوگوں کو تیار کیا۔ لالچ دیا کہ حضرت شیخ کو قتل کر دیں مگر کسی کو اس کام کی ہمت نہ پڑی۔ آخر کار ایک شخص آمادہ ہو گیا۔ اور قاضی نے اسے بہت سا پیشگی روپیہ دیا۔ اور پھر آئندہ دینے کا وعدہ بھی کیا۔ ایک دن مقرر ہوا کہ آج حضرت شیخ ابوسعید کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی دن آپ ایک بہت بڑے مجمع میں وعظ فرما رہے تھے۔ دوسری طرف قاضی سیفی نے بھی لوگوں سے خطاب کرنا تھا۔ مساجد میں اور بازاروں میں اعلان کیا جا رہا تھا کہ قاضی سیفی فلاں جگہ خطاب کریں۔ حضرت شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان سنا تو اپنے مریدوں کو فرمایا۔ وضو کرنا۔ آج قاضی سیفی کی نماز جنازہ پڑھی جانی ہے۔ لوگ حیران تھے کہ قاضی زندہ سلامت ہے ایک جگہ خطاب کرنے والا۔ مگر حضرت اس کی نماز جنازہ کا اعلان کر رہے ہیں حضرت نے بات کہہ دی لوگوں نے کس لی۔

ادھر قاضی اپنے خطبے کی تیاری میں ایک حمام میں غسل کے لئے گیا۔ اس دن سے بند روز پہلے ایک ایسا شخص قید سے رہا ہو کر آیا تھا جسے قاضی سیفی نے اس بنا پر قید میں ڈالا تھا کہ اس نے طلاق کی قسم کھائی تھی۔ عورت جدا ہو گئی تھی۔ اسے مہراوردیگر اخراجات برداشت کرنا پڑے۔ قید خانہ میں رہنا پڑا۔ اسی دن وہ شہر میں رہا ہو کر آیا۔ ایک لوہار سے خنجر خریدا۔ اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ اس نے اچانک قاضی کو دیکھا۔ کہ حمام سے اکیلے ہی چلا آ رہا ہے۔ آتش انتقام بھڑک اٹھی۔ اسی وقت خنجر مارا۔ قاضی کا پیٹ پھاڑ دیا۔ وہ اسی جگہ مر گیا۔ شہر میں شور مچ گیا۔ کہ قاضی سیفی کو قتل کر دیا گیا حضرت ابھی تک وعظ فرما رہے تھے۔ لوگوں نے حضرت کے اس اعلان کو تسلیم کیا۔ حضرت نے فرمایا۔ قاضی نے ہمارے قتل کا حکم دیا تھا۔ وہ ہمارا کیا ہوتا ہے! ہم نے اس کے قتل کا اعلان کیا۔ وہ خدا کا کیا ہوتا ہے!

گندم کے ذخیرے میں برکت :- شیخ عمر شوکانی امام اجل مالکان شوکانی کے والد خواجہ محمد جوانی کے عالم میں تباہیہا کرتے اور سر پر خوبصورت سی ٹوپی رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت شیخ ابو سعید قدس سرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آپ کے سامنے سے اسی شاندار لباس قبا و کلاہ میں گزرتے حضرت نے ایک نگاہ دیکھا۔ فرمایا۔ کہنے لگا۔ واقعی شیخ نے سچ کہا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس میں تبدیلی آئی۔ تو بہ کی۔ اپنے گھر کو ایک خانقاہ کی شکل دے دی۔ بہت سا مال و دولت مخلوق خدا پر خرچ کیا۔ حضرت شیخ او آپ کے درویشوں پر بہت کچھ خرچ کیا۔ اپنی خانقاہ میں چالیس صوفیہ کے قیام و طعام کا بندوبست کیا۔ اور شوکان میں ان پر خرچ کرنے لگا۔ ایک عالیشان گنبد اور شوکان کی جامع مسجد کے بلند مینار اپنے مال سے تعمیر کرائے۔ اپنے مکان میں ایک بہت بڑا گودام بنایا۔ جو ہر وقت گندم سے بھرا رہتا تھا۔ درویشوں اور غریبوں پر خرچ کرتا رہتا۔ اپنے دل میں کہا کرتا تھا۔ یہ گندم پوری نہ ہوگی۔ دونوں عمارتیں بن کہ

تیار ہو گئیں مگر گندم کا ذخیرہ ابھی تک موجود تھا۔ اسے تعجب ہوا۔ اسے یقین ہو گیا اس گندم سے جس قدر خرچ کرتا رہا ہے۔ اسی قدر بیکت آتی رہتی ہے۔ ایک دن ایک شخص کو بھیجا کہ اس گودام میں دیکھو کتنی گندم ہے جتنی ہے باہر ڈھیر لگا ڈھیر لگا تو وہ حیران رہ گیا۔ کہ بے پناہ گندم کا ذخیرہ پڑا ہے۔ وہ لوگوں کو ہر روز دیتا جاتا مگر گندم کا ذخیرہ کم ہونے کو نہ آتا۔ ایک عرصہ کے بعد اس نے پوچھا کہ گندم کتنی رہ گئی ہے۔ بتایا گیا۔ گودام ببا لب پڑے۔

آپ نے طوس کے ایک قاری عبدالملک شاداں کو اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے مقرر کر رکھا تھا۔ گندم کے ذخیرہ کا قصہ اسے سنایا۔ وہ رو پڑا۔ اور کہنے لگا۔ یہ اس شیخ طریقت کی بکت ہے جس کے تم مرید ہو۔ یہ بات جو تم نے مجھے کہی ہے کسی دوسرے کو نہ سنانا۔ اور مجھے یقین ہے کہ حضرت شیخ کی دعا و برکت سے تم اور تمہاری اولاد عمر بھر کھاتی رہے۔ لوگوں کو کھلاتی رہے تو یہ گندم ختم نہ ہو گی۔

ایک دفعہ حضرت شیخ طوس جا رہے تھے

**ڈاکوؤں کی بستی تائب ہو گئی :-** وہ برہنہ داوہ روانہ ہوئے۔ ان کی

خواہش تھی۔ کہ وہ راستے میں ایک گاؤں رفیقاں میں قیام کریں گے۔ چند صوفیاء اور درویش قافلے سے آگے نکل گئے۔ تاکہ اس گاؤں میں آپ کے قیام کا جائزہ لیں۔ اور دیکھیں وہاں کس خانقاہ میں قیام کیا جا سکتا ہے۔ وہاں پہنچے تو وہاں کوئی خانقاہ نہیں تھی۔ سارا گاؤں ڈاکوؤں اور چوروں کا تھا۔ وہاں ایک معلم یا امام مسجد تھا جس نے حج کیا تھا۔ نیک آدمی تھا بچوں کو پڑھا کر روزی حاصل کرتا تھا۔ اس نے سنا کہ حضرت شیخ تشریف لائے ہیں تو حضرت کے پاس دوڑا دوڑا آیا۔ اور کہا یہ چوروں ڈاکوؤں کا گاؤں ہے کوئی خانقاہ نہیں۔ سب گاؤں دالے حرام خور ہیں۔ گاؤں میں صرف میں ہی ایک ایسا شخص ہوں جو حلال روزی پر اکتفا کرتا ہوں۔ دوسرے کوئی ایسا شخص نہیں جو ایک دینار

بھی حلال روزی رکھتا ہو۔ اور نہ ہی ان سے اصلاح احوال کی توقع ہے یہ صورت حال بیان کرنے کے بعد حضرت شیخ سے گزارش کی کہ آپ میرے ہاں قیام فرمائیں حضرت شیخ نے فرمایا۔ ہم تو گاؤں کے نمبردار اور ڈاکوؤں کے سالار کے گھر قیام کریں گے۔ معلم نے بتایا۔ وہ تو پرلے درجے کا بد معاش اور بد قماش ہے چھپوں کا سردار اور ڈاکوؤں کا پیشرو ہے۔ اس کا سارا مال حرام کی کمائی ہے۔ ہمیشہ شراب نوشی کرتا ہے اس کے سارے گھر میں ایک کپڑا بھی نمازی نہیں۔ حضرت شیخ نے معلم کی ان تمام باتوں پر التفات نہ کیا۔ چنانچہ معلم وہاں سے لوٹا۔ اور نمبردار کو جا کر کہنے لگا۔ حضرت شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ آرہے ہیں اور تمہارے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ نمبردار نے سنا۔ تو حکم دیا کہ میرے اس ناپاک گھر میں پاکیزہ کپڑے بچھا دیئے جائیں۔ تاکہ شیخ اور ان کے مرید پاک جگہ پر بیٹھ سکیں وہ حیران تھا۔ کہ آج ان بزرگوں کو حلال کا کھانا کہاں سے کھلاؤں بڑا متردد تھا۔ اس کی بوڑھی ماں زندہ تھی۔ بڑی نیک اور پارسا بی بی تھا۔ دوڑا دوڑا اس کے پاس گیا۔ اور کہا اماں کہیں سے حلال روٹی ملے تو حضرت کی خدمت میں پیش کروں۔ میرے سارے گھر میں ایک چیز بھی ایسی نہیں جو حرام نہ ہو مجھے بڑی فکر ہے ان نیک مہمانوں کو کیا کھلاؤں۔ اس کی والدہ اٹھی۔ اور ہاتھ میں پہنی ہوئی چوڑیاں اتار دیں۔ اور لڑکے کو دیتے ہوئے کہا۔ یہ چوڑیاں میری والدہ نے مجھے اپنی حلال کی میراث سے دی تھیں۔ انہیں فروخت کر دو اور دعوت کا سامان کرو۔ میرا خیال ہے کہ حضرت شیخ تمہارے پاس اسی لقمہ حلال کو جانتے ہوئے آرہے ہیں نمبردار نے چوڑیاں لیں بازار میں فروخت کیں۔ مہمانوں کو دعوت دی۔ والدہ کی بات نے اس کے دل میں اثر کیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سنیں۔ اور آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ گاؤں کے اکثر و بیشتر لوگ بھی حضرت شیخ کے ہاتھ پر توبہ کرنے جمع ہو گئے نمبردار سوچ رہا تھا کہ آیا اس کی والدہ کی چوڑیاں کی رقم سے کتنا خرچ ہو گیا ہے۔ جب سارے پیسے ختم ہو گئے تو حضرت

نے فوراً اعلان کیا۔ کہ میرے گھوڑے پر زین رکھو اور روانہ ہونے کے انتظامات کرو۔ ممبردار نے بار بار التجا کی کہ ایک دو دن مزید قیام کریں۔ مگر حضرت نے اس کی بات نہ مانی اور روانہ ہو گئے۔

ایک عرصہ کے بعد نظام الملک نے رفیقان گاڈل کو خرید لیا۔ اور سارا گاڈل حضرت شیخ کے بیٹوں کو ہبہ کر دیا کہ یہاں دینی علوم اور خانقاہ کے اخراجات چلائیں۔ آج (تصنیف کتاب کے وقت) یہ گاڈل حضرت شیخ کے فرزنداتاد ابو احمد جو ہمارے دوسری ماں کے بیٹے ہیں۔ کے پاس وقف ہے۔ اور وہ یہاں قیام پذیر ہیں۔

جناب عمر شوقانی بیان کرتے ہیں کہ حمزہ نامی درویش تھا۔ حضرت شیخ کا مرید تھا وہ کاری گر تھا۔ مگر بڑا پیارا آدمی تھا۔ دل میں محبت کے جذبات رکھتا تھا۔ آنکھیں تر تھیں اور اکثر اوقات حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں حاضر رہتا۔ سحری کے وقت گھر سے باہر آتا۔ اسی وقت حضرت شیخ اپنے صومعہ سے نکل کر نماز تہجد ادا کرتے حضرت صبح کی نماز کے بعد مجلس وعظ میں تشریف لاتے تو حمزہ پہلے ہی موجود ہوتا۔ مجلس ختم ہوتی تو حمزہ بھی چلا جاتا۔ کوئی ایسی مجلس نہ ہوتی جس سے وہ غیر حاضر ہوتا حضرت شیخ بھی اسی درویش پر نگاہ شفقت فرمایا کرتے ایک دن مینہ میں شیخ کی مجلس میں آ رہا تھا۔ اس کے پاس سونے کی ایک تھیلی تھی۔ دل میں خیال آیا۔ اگر یہ سونا مجلس میں سے گیا اور حضرت کی مجلس میں کسی سائل نے سوال کر دیا۔ تو حضرت نے اسی وقت مجھے حکم دینا ہے کہ یہ سونا اسی سائل کو دے دو چنانچہ اسے کسی دیوار کے نیچے رکھ کر مجلس میں جانا چاہیے۔ اس نے ایک ٹکڑے دیوار دیکھی اس میں چھپا کر رکھ دیا۔ اور مجلس میں حاضر ہوا۔ حضرت تقریباً آدھی مجلس کو چلے گئے۔ تو حمزہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے۔ حمزہ اٹھو! اس دیوار کے نیچے سونا چھپا آئے تھے۔ چور لئے جا رہا ہے۔ حمزہ مجلس سے اٹھا اور دیوار کی طرف دوڑا۔ دیکھا تو واقعی ایک چور اس دیوار کے قریب پہنچ چکا تھا۔ نزدیک پہنچ کر وہ سونا اٹھالیا۔ اور



اسے اٹھا کر حضرت کی خدمت میں لے آیا۔

اس دن کے بعد یوں ہوتا کہ جب تک حضرت کی خدمت میں نہ آتا اسے چین نہ آتا۔ گھر بار اور اہل و عیال کو چھوڑ کر حضرت کا مستقل درویش بن گیا۔ زندگی بھر حضرت کی خدمت میں رہا مرنے کے بعد وہیں دفن ہوا۔ آج تک اس کی قبر زیارت گاہ عوام ہے

نظام الملک طوسی خانقاہ شیخ میں :- زندگی میں اصفہان شہر میں ایک

خانقاہ کی بنیاد رکھی تو امیر سید محمد کو خانقاہ کی خدمت پر مامور کیا۔ یہ ایک بڑا عالم فاضل علوی سید تھا۔ اس خانقاہ میں سال کے بعد تمام اسلامی ممالک کے علماء و فضلا سادات کرام اور صوفیہ عظام اور اصحاب ذکر و ارباب فکر جمع ہوا کرتے تھے۔ رجب کے مہینہ میں نظام الملک خانقاہ کے ناظم سید محمد کو بلاتے اور کہتے ان بزرگوں کی ضروریات دریافت کر کے بتائیں۔ اس طرح جو جو مطالبات کرتے نظام الملک انہیں بطریق احسن پورا کر کے ان حضرات کو روانہ کرتے تھے اور اس طرح یہ حضرات بھی نظام الملک کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے۔

ایک بار رجب کا مہینہ آیا۔ شعبان گزر گیا رمضان آیا۔ مگر کسی شخص کی کوئی حاجت پوری نہ ہو سکی۔ اور نہ ہی کسی کو بلایا۔ نہ ان کے حال پر توجہ دی۔ اس موضوع پر مختلف حضرات گفتگو کرنے لگے۔ کہ نظام الملک کو کس پریشانی نے آیا ہے کہ وہ اس کا رخیر سے رک گیا ہے بعض حضرات کو شک گزرا کہ کسی شخص نے ان کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دی ہے۔ رمضان گزر گیا۔ شوال آ گیا نظام الملک نے سید محمد کو کہلا بھیجا کہ ان بزرگوں سے کم از کم دس حضرات کو میرے پاس بھیجا کہ میں ان سے بعض امور پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سید محمد کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو ان بزرگوں میں سے دس صوفیہ کو لے کر نماز عشاء کے بعد نظام الملک کے پاس پہنچے۔ دل میں ڈر تھا کہ خدا معلوم کیا کہتے ہیں۔ اندر گئے تو اس وقت نظام الملک مصلیٰ

پرکھڑے نماز عشاء ادا کر رہے تھے۔ شمع اس کے سامنے روشن تھی۔ سلام کیا بڑی عزت سے پیش آئے اور فرمانے لگے آپ شاید نہیں جانتے میں اپنی ابتدائی عمر میں علم دین کی تحصیل میں مصروف رہا۔ میں اپنی خواہش اور طلب کے مطابق علم دین حاصل نہ کر سکا۔ میں نے اپنے والد کو کہا مجھے مرو میں بھیج دیں۔ وہاں تحصیل علم میں آسانی رہے گی میرے والد رضامند ہو گئے۔ ایک غلام ایک چچر اور زادراہ مجھے دیا۔ اور کہا کہ جب قافلہ میں شریک ہو جاؤ۔ تو قافلہ والوں سے اجازت لے کر راستہ میں ایک دن کے لئے مینہ میں جانا۔ وہاں حضرت شیخ ابوسعید ابو الخیر کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ اور یاد رکھنا کہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ اور کیا کہتے ہیں؟ ان سے دعا بھی طلب کرنا۔

ہمارا قافلہ باز جاہ کے مقام پر پہنچا۔ میں نے قافلے والوں کو کہا کہ مجھے ایک دن کے لئے حضرت شیخ کی زیارت کی اجازت دی جائے وہ مان گئے۔ میں علی الصبح مینہ پہنچا۔ میری نگاہیں مینہ پر پڑیں۔ ادھر ادھر کی ساری دادی نیگوں نظر آئی حدنگاہ تک نیلی پوش صوفیا نظر آئے۔ صوفیوں کی ٹویوں کی ٹولیاں نیلے لباس میں دکھائی دیں۔ میں حیران ہوا کہ اتنے لوگ بیک وقت ایک ہی لباس میں کہاں سے آگئے پھر ساری دادی میں مجلس لگائے بیٹھے ہیں۔ میں جس مجمع کے پاس سے گزرتا۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر اٹھتے۔ اور میری طرف آتے اور ایک ایک سلام کہتا۔ گلے لگاتے۔ معانقہ کرتے۔ اور واپس چلے جلتے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ آج ہمارے شیخ نے بتایا تھا کہ جس شخص نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھنا ہو جس نے دنیا پر حکمرانی کرنی ہے اور عاقبت کو سوار نہا ہے وہ از جاہ کے راستہ پر پہنچ کر اس کا استقبال کرے ہم اسی لئے استقبال کو آئے ہیں۔

ان کی یہ بات سن کر میرے دل پر بڑا اثر ہوا۔ آنکھوں سے آنسو چپکنے لگے ایک مجمع بھے حضرت شیخ کی خدمت میں لے گیا۔ سلام پیش کیا۔ دست بوسی کی حضرت شیخ نے مجھے دیکھا۔ فرمایا

بیٹا مرحبا! تمہیں مبارک ہو! دنیا کی سرداری تمہیں مل گئی ہے! تم آگے بڑھو۔ وقت تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تم جس راستے پر جا رہے ہو وہاں سے تو تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ البتہ تمہارے فیض سے بے پناہ طلبہ علم دین فیض یاب ہوں گے۔ اور ان دین والوں کے مقاصد پورے ہوں گے۔ آج میرے ساتھ وعدہ کرو۔ کہ تم زندگی بھر طالب علموں سے رعایت کرو گے اور محبت سے پیش آؤ گے۔ نظام الملک نے کہا حضرت جس طرح آپ نے فرمایا ہے میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں ان لوگوں کے پاؤں کے نیچے آنکھیں بچھا دوں گا۔ سر جھکا دیا۔ اور دیر تک ازراہ تعظیم کھڑا رہا حضرت نے پھر سراٹھایا۔ اور فرمایا بیٹے ابھی تک کھڑے ہو؟ میں نے کہا حضرت مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ آپ نے اجازت دی۔ میں نے کہا حضرت جس واقعہ کی آپ بشارت دے رہے ہیں۔ اُس کی کوئی علامت یا بشارت ہوگی۔ آپ نے فرمایا ہاں ایک وقت آئے گا۔ کہ اس نیک کام کی توفیق تم سے چھین لی جائے گی۔ یہ تمہاری عمر کا آخریں دور ہوگا۔

نظام الملک یہ بات سنانے کے بعد رو دیئے اور کہا حضرات آپ یقین جانیں کہ رجب سے لے کر آج تک میں نے بارہا کوشش کی ہے کہ حسب سابق آپ کی ضروریات کو پورا کروں مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق چھین لی گئی ہے۔ آج تیس دن ہوئے ہیں۔ کہ میں آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے خود آنا چاہتا تھا۔ کہ تیس دن سے اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکا ہر رات نماز پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے رُود کر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ان حضرات کی توفیق دے مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں عمر کے آخریں دور میں پہنچ چکا ہوں اور غالباً حضرت شیخ کی بات پوری ہونے والی ہے۔ اس کے بعد نظام الملک نے یہ مہدی کو حکم دیا کل عید الفطر کی نماز پڑھو۔ تو فوری طور پر سب سے پہلے یہ کام کرو کہ ان تمام حضرات کو خزانے کے دروازے پر لے جانا۔ اور ہر ایک کی ضروریات کو پورا کرنا اب دیر نہ ہو۔ اختیار نامہ اور حکم نامہ بھی لکھ دیا۔ یہ محمد فرماتے ہیں کہ دوسرے دن نماز عید ادا کرنے کے بعد سلطان سلجوقی تو فوراً کوچ کو گیا۔ مگر نظام الملک تین دن تک وہاں ہی رہا

میں نے حسب الحکم تمام حضرات کی ضروریات کو پورا کیا۔ نقد روپیہ فزانی سے لیا۔ اور تمام کو بانٹا گیا۔ چوتھے دن نظام الملک روانہ ہوئے۔ بادشاہ کے لشکر کے پیچھے جا رہے تھے۔ ہنادندہ پہنچے تو ایک محمد باطنی نے آپ پر قاتلانہ حملہ کر کے شہید کر دیا۔ اور تمام لوگ آپ کی شخصیتوں سے محروم کر دیئے گئے۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

خواجہ امام ابوعلی فارمدی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت دیواریں جھاڑا کریں :- شیخ ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں

لہ :- نظام الملک رحمۃ اللہ علیہ جس پایہ کا وزیر تھا۔ تاریخ اسلام میں براہمہ کے علاوہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس نے تیس سال تک اس شان و شکوہ سے وزارت کے منصب کو نبایا کہ اس کے سامنے براہمہ کی داتا نہیں ماند پڑ گئیں۔ ملک شاہی دور کی ساری درخشانی نظام الملک کی ضیاء استیوں کا نتیجہ تھی۔ اور خاندان سلجوق کا سارا عدالتی نظام اسی وزیر کی تدبیر کا مرہون منت تھا۔ نظام الملک کا پورا نام دانت ابوعلی حسن بن علی نظام الملک رضی امیرالمومنین تھا۔ باپ طوس کا معمولی زمیندار تھا۔ ۳۸۵ھ میں ولادت ہوئی۔ سات برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ نو عمر میں فقہ حدیث ریاضی اور مردجہ علوم پر عبور حاصل کیا۔ والی بلخ کی ملازمت کی۔ پھر الپ ارسلان کے والد جغزی کے پاس مرد میں پہنچے۔ اس نے اس کو ہر قابل کو چمکنے کا موقعہ دیا۔ الپ ارسلان نے اپنا کاتب بنایا۔ الپ ارسلان کے اتن قریب ہوئے کہ قلمدان وزارت حاصل کیا۔ زمانہ وزارت میں بڑے بڑے کارنامے سرانجام دیئے۔ ملک شاہ سلجوقی نے تخت نشین ہوتے ہی نظام الملک کو اور بلند مرتبت بنا دیا۔ ملک شاہی عدہ ہی نظام الملک کا زریں دور ہے۔

نظام الملک نے اس وسیع ترین سلطنت اسلامیہ میں علم و فن کے دریا بہا دیئے اس کی علم پروری علاؤ نازی اور اقوام مشائخ ضرب المثل ہے۔ اس کی مجالس فقہاء۔ آئمہ۔ اور اصحاب خیر و صلاح سے معمور تھیں ہوتیں۔ شیخ ابوالحسن خیرازی۔ ابوالقاسم قشیری اور ابوعلی فارمدی جیسے مشاہیر اسلام ان کی مجالس کے آفتاب و اہتاب تھے۔ وہ ان کے سامنے دوڑاؤ بیٹھا۔ اس نے علم و فن کی اشاعت میں بڑے بڑے کارنامے سرانجام دیئے۔ دینی علوم کی درس گاہیں تمام ممالک میں قائم کیں۔ مدرسہ نظامیہ لاکھوں روپے سے قائم کیا۔ اور ہر سال اس دارالعلوم پر لاکھوں روپیہ خرچ کرتا۔ رمضان المبارک ۴۸۵ھ میں ایک باطنی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

حاضر ہوا۔ تو آپ نے مجھے بڑی ریاضتوں اور مجاہدوں کا عادی بنا دیا۔ اس طرح میں عبادت کے معاملہ میں بڑا مہذب اور مودب ہو گیا آپ نے مجھے ابو بکر عبد اللہ کے ساتھ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مینہہ میں بھیجا۔ ہم مینہہ پہنچے نوافل ادا کئے سنتیں پڑھیں۔ اور حضرت شیخ کی خدمت میں حاضری دی۔ آپ نے حسن مودب کو حکم دیا کہ ایک جھاڑا لاؤ۔ وہ لے کر آیا تو آپ نے مجھے دے کر فرمایا۔ اس سے دیواروں کو جھاڑا کرو۔ ابو بکر عبد اللہ کو کہا کہ تم درویشوں کے جوتے سیدھے کیا کرو۔ ہم تیس دن رہے اور یہ کام کرتے رہے۔ چوتھے دن حضرت نے ہمیں بلایا اور کہا اب تم حضرت ابو القاسم گورگانی کی خدمت میں چلے جاؤ۔ ہم واپس آ گئے۔ ایک عرصہ گزر گیا ہے یہ دونوں بزرگ اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے لیکن آج میری شہرت کا یہ عالم ہے کہ دنیائے اسلام کے لوگ مجھے پہچانتے ہیں۔ مریدوں کا ایک وسیع حلقہ ہے۔ شیخ ابو بکر عبد اللہ کو اس قدر شہرت اور مشہوری نہ مل سکی۔ ایک دن حضرت ابو بکر عبد اللہ نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ بوعلی کو کہا تھا کہ دیواروں کو جھاڑتے رہو۔ اس طرح آپ ساری زندگی لوگوں کے دلوں کی دیواروں کو صاف کرتے رہے۔ مجھے کہا گیا تھا کہ درویشوں کے جوتے سیدھے کرتے رہو۔ میں ساری عمر جوتوں میں بسر کر دی۔ نہ کسی نے مجھے پہچانا نہ کسی نے میری شہرت سنی!

ایر مسعود دنیائے اسلام کے معروف اور  
**گر شیر شوی از دستِ ماجاں نری** :- طاقتور بادشاہ ہوئے ہیں اپنے زمانہ میں  
اس کا ثانی نہیں تھا۔ ایک دفعہ حضرت شیخ قرضہ میں زہر بارہ ہو گئے تو آپ نے حسن مودب کو اس کے پاس بھیجا کہ درویشوں کو قرضے کے بوجھ سے نجات دلائی جائے حسن اس کے پاس گئے سلام پہنچایا۔ تو اس نے پڑھے آداب کا اظہار کیا۔ بڑی رعایات کیں۔ اور کہا ہم نے حضرت کے دل کا بوجھ اتار دیا ہے حسن دوبارہ گیا مگر اس نے مال دیا۔ کئی بار گیا۔ مگر وہ وعدہ فردا پرماتا گیا۔ آخر کار حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ نے حسن مودب کو یہ شعر لکھ کر بھیجا۔

گر آنچہ بگفتہ بپایاں بڑی گر شیر شوی از دست ما جاں بڑی  
اگر تم اپنے وعدہ کو پورا نہیں کرو گے۔ اگر تم شیر بھی ہو گے مگر ہمارے ہاتھ سے بچ کر

نہ جاؤ گے)

حسن موذبنے یہ کاغذ مسعود کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے پڑھا۔ غصتے سے لال ہو گیا  
اور کہنے لگا یہ کیا دھمکی ہوئی! حسن کو وہاں سے اٹھا دیا۔ اور خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ حسن نے  
ساری صورت حال حضرت شیخ کی خدمت میں بیان کر دی۔

مسعود کا شغف تھا کہ اس نے خورستان کے بڑے بڑے کتے پال رکھے تھے یہ کتے  
جسے پکڑ لیتے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ دن کو زنجیروں میں جکڑے رہتے مگر رات کے وقت  
انہیں کھول دیا جاتا۔ وہ خیمہ کے ارد گرد کھومتے رہتے کسی کو جرات نہ ہوتی کہ خیمہ کے پاس ٹھیکتا  
ایک رات خدا معلوم مسعود کے دل میں کیوں خیال آیا۔ کہ وہ رات کی تنہائی میں اٹھ کر لشکر  
اور کمانڈروں کو خفیہ طور پر دیکھے آدھی رات کو اٹھا۔ پوسٹین اوڑھی۔ بال بکھیر لئے تاکہ اسے  
کوئی شخص پہنچان نہ سکے۔ اس وقت اس کے تمام حاشیہ بردار اور غلام سو رہے تھے خیمہ سے  
نکلا۔ ابھی چند قدم باہر گیا ہی تھا کہ کتوں نے اسے نہ پہنچانا۔ دوڑ کر چھپے۔ وہ چیخا۔ چلا یا تو نوکر  
اور خادم اٹھ کر دوڑے دائیں بائیں سے جمع ہو گئے۔ لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے کتوں  
نے اسے چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا العیاذ باللہ۔

شیخ عبدالصمد بن محمد الصوفی السرخسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کے خاص الخاص مریدوں  
میں سے تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصہ تک حضرت کی مجلس سے دور رہا۔ مجھے بڑا افسوس  
تھا۔ کہ میں ان فرابد روحانی سے محروم ہوں جو آپ کی مجلس سے ملتے تھے۔ میں مینہ میں  
پہنچا۔ تو اس وقت حضرت شیخ مجلس میں بیٹھے وعظ فرما رہے تھے۔ آپ کی نگاہ مجھ پر پڑی  
فرمایا۔ عبدالصمد۔ فکر نہ کرو۔ اگر تم دس سال بھی ہماری مجلس سے دور ہو گے۔ تو ہم صرف ایک  
لفظ ہی کہیں گے۔ اور وہ ایک لفظ ناخن پر لکھا جا سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ

کاناخن آگے بڑھایا فرمایا۔ وہ لفظ یہ ہے ذَبْحِ النَّفْسِ وَالْإِفْلَاحِ۔ نفس کو مار دو اور پڑاہ نہ کرو، میں نے یہ بات سنی تو رقت میں آگیا۔ فریاد نکلی اور زمین پر گر پڑا۔

ایک بار ایسا موقعہ آیا۔ کہ کئی روز تک خانقاہ

**آہوان صحرا سرخود نہا ذبرکت** کے مطبخ میں گوشت نہ بک سکا درویشوں اور صوفیوں کو بڑی تشویش تھی۔ حسن مودب کو تقاضا کرنے لگے۔ مگر اس کی ہمت نہ تھی کہ گوشت مہیا کر سکے۔ ایک دن حضرت شیخ خانقاہ سے باہر نکلے۔ تمام صوفیہ اور درویش بھی آپ کے ساتھ ہوئے۔ مرو کے راستہ چل پڑے اور مینہ سے دُور صحرا میں جا نکلے۔

ایک اونچی پہاڑی پر جا پہنچے رہم اس سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ شیخ پر صورت انقیاض وارد ہوتی تو آپ مرو کے راستہ بیابان میں چلے جاتے تھے، حضرت وہاں ہی کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر گزری تو ایک ہرنی دوڑتی ہوئی آئی اور شیخ کے سامنے زمین پر لیٹنے لگی حضرت شیخ اس کی بچاؤ کی دیکھ کر روکنے لگے۔ آپ نے فرمایا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا!! یہ ہرنی

اسی طرح زمین پر لیٹ رہی تھی۔ حضرت شیخ نے مجمع کو مخاطب فرماتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو یہ ہرنی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے۔ میں اس لئے آئی ہوں کہ درویشوں پر قربان ہو جاؤں تاکہ آپ کے درویش خوش ہو جائیں۔ ہم نے اسے بار بار کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہارے بچے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر وہ بار بار التجا کرتی ہے کہ میں آپ کے دوستوں پر قربان ہونا چاہتی ہوں۔ یہ بات سنتے ہی حضرت شیخ اور تمام صوفیاء روکنے لگے ان پر رقت طاری ہو گئی اور نعرے مارنے لگے مگر وہ ہرنی اسی طرح زمین پر لوٹتی تھی اور بار بار نظروں سے دیکھتی تھی۔

حضرت شیخ نے حکم دیا۔ کہ ہرنی کو اٹھا کر قصاب کی دکان پر بھیج دیا جائے۔ حسن کو کہا کہ قصاب کو کہنا کہ تیز چھری سے ذبح کرے اسے تکلیف نہ ہو۔ رات کو سارے درویشوں نے ہرنی کے گوشت سے دعوت حاصل کی۔

**خلق کے ثمرات** :- خواجہ ابو علی ناردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت

شیخ اور ہم لوگ طوس سے میلنہہ کی طرف آرہے تھے۔ بہت سے درویش ساتھ تھے۔ راستہ میں ایک پہاڑی علاقہ میں پہنچے۔ دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ راستہ میں کھڑا ہے ہم سب ڈر گئے۔ ادھر ادھر بھاگے۔ مگر حضرت شیخ اپنے گھوڑے پر اسی طرح سوار تھے۔ شیخ گھوڑے سے اتر آئے سانپ آپ کے سامنے زمین پر بیٹ رہا تھا میں حضرت شیخ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ تم نے بڑی تکلیف کی۔ اب جاؤ یہ سنتے ہی سانپ جنگل کی طرف چلا گیا۔ تمام درویش پھر جمع ہوئے۔ پوچھنے لگے حضرت یہ کیا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کئی سال ہم دونوں ان پہاڑوں میں اکٹھے رہتے رہے ہیں یہ میرا ساتھی تھا ایک دوسرے کے تعلقان اچھے رہے ہیں اور ایک دوسرے کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ اب اسے خبر ملی کہ میں ادھر سے گزر رہا ہوں تو ان یادوں کو تازہ کرنے کے لئے راستہ میں آ بیٹھا تھا ان حَسَنَ الْعَهْدِ مِنَ الْاِیْمَانِ ط (اچھا عہد ایمان کی علامت ہوتی ہے) پھر حضرت نے فرمایا جس کا خلق اچھا ہو ہر چند اس سے اچھے خلق کا مظاہرہ کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم صلوات اللہ علیہ خلق تھے آگ بھی ان سے خلق سے پیش آتی۔

ایک دن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ میلنہہ میں مجلس وعظ میں تشریف فرما تھے۔ ایک درویش اٹھا۔ اور کہنے لگا۔ مجھے ایک سیر گوشت دیں۔ ایک ترک مجلس میں بیٹھا تھا کہنے لگا۔ میں دیتا ہوں۔ مجلس ختم ہوئی تو وہ شخص حضرت کے پاس آیا۔ سلام عرض کیا۔ آپ نے پوچھا۔ بھائی تم گوشت کا کیا کر دو گے۔ کیا میں اس سے شور باتیار کروں گا۔ آپ نے فرمایا۔ تھوڑے سے شور بے کے لئے تم نے اتنا شور مچا یہ ہے ترک نے گوشت لا دیا۔ اور وہ لے کر گھر چلا گیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیگانہ مرد اس کی بیوی کے ساتھ حالت غیر میں بیٹھا ہے درویش بڑاشت نہ کر سکا۔ چھری لے کر دونوں کو قتل کر دیا۔ اور گوشت وہاں ہی پھینک کر بھاگ گیا۔

میں نے حضرت مالکانی رحمۃ اللہ علیہ کی قلم سے لکھا ہوا دیکھا کہ لکھا تھا کہ ایک بار ایک عورت حضرت شیخ کی مجلس میں بیٹھی تھی کہ اس پر رقت طاری ہو گئی۔ اس دنت وہ کوٹھے کی



چھت پر تھی۔ نیچے گری۔ شیخ نے ایک نگاہ ڈالی تو وہ زمین پر آنے کی بجائے دیوار کے ساتھ ٹک گئی دوسری عورتوں نے اسے پکڑ کر کھینچا۔ اور اس طرح وہ پچ گئی۔ دیکھا تو دیوار میں ایک میخ گڑھی ہوئی تھی جس سے اس کے کپڑے اُلجھ گئے تھے۔

میں نے اشرف ابوالیمان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا دیکھا درزی اور جولا ہا ہے کہ ایک بار ایک درزی اور ایک جولا ہا جو حضرت کی کرامات کے منکر تھے۔ باہم دوست تھے وہ جب بھی بیٹھے حضرت کے متعلق کہتے کہ شیخ کی باتوں میں حقیقت نہیں ہے ایک دن دونوں نے مشورہ کیا۔ کہ یہ شخص کرامات کے دعوے کو تارہتا ہے۔ اگر وہ یہ معلوم کر لے کہ ہم کون ہیں تو ہم اسے ولی اللہ مان لیں گے دونوں حضرت کی مجلس میں آئے حضرت نے دونوں کو مجمع میں دیکھا تو فرمایا۔

برفلک ہر دو مرد پیشہ ورائند ذال یکے درزی و دیگر جولا ہا

اشارہ درزی کی طرف کیا۔ اور فرمایا۔ یہ درزی اب بادشاہوں کا لباس تیار کیا کرے گا پھر جولاہے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ یہ شخص اب سیاہ گڈڑی بنا کرے گا۔ دونوں نے سنا تو بڑے شرمندہ ہوئے۔ اور انکار کرامات سے تائب ہو گئے۔

خواجہ عماد الدین محمد بن العباس

ایک بال دنیا و آخرت سے محبوب ہے :- رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

میں ابھی سات سال کا تھا۔ میں نے اپنے والد سے سنا جنہوں نے فرمایا کہ حضرت خواجہ محمود ریس مینہ کی بیٹی نے بتایا تھا کہ ایک دن حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ مینہ میں مجلس و عظیم تشریف

فرماتے تھے۔ آپ نے اس دن سرخ صوف کا خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ سر پر سفید

پگڑی تھی۔ چہرہ سفید سُرخ تھا۔ میں آپ کے چہرے اور لباس کو بغور دیکھ رہی تھی۔ میں نے

دل ہی دل میں کہا یا اللہ دنیا میں آج شیخ کا کوئی ثانی ہے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا

تو شیخ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم جو کچھ سوچ رہی ہو۔ اگر اسے دیکھنا چاہتی ہو تو غور

سے دیکھو۔ ایک درخت کی طرف اشارہ کیا جو دروازے کے باہر تھا۔ میں نے دیکھا تو درخت کے نیچے ایک خوش شکل نوجوان کھڑا تھا۔ کالا رنگ۔ خشک اور بے رنگ چہرہ۔ اور نہیف و نزار شیخ کے بالکل برعکس وہ کھڑا کھڑا حضرت شیخ کی باتیں سننے میں مگھتا۔ میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ اس نوجوان میں جھلا کیا خوبی ہے جس کے لئے شیخ نے میری توجہ دلائی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ حضرت نے فرمایا ہوش کرو۔ میں نے ہوش سنبھالا تو آپ نے فرمایا جس نوجوان کو تم دیکھ رہی ہو۔ اس کے بالوں کی ایک تار اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا و آخرت سے زیادہ محبوب ہے۔ ظاہریت پر قیاس نہیں کرنا چاہیئے۔!

خواجہ امام عماد الدین محمد فرماتے ہیں۔

**بخاری شریف کی آخری حدیث** : ایک دن حضرت شیخ قدس سرہ دعو

فرما رہے تھے۔ خواجہ حسن مرقندی مجلس میں آئے۔ حضرت شیخ کی باتیں سننے لگے۔ دل میں کہا کہ یہ کیا بات ہے جو شیخ کہتے ہیں؟ اسی وقت حضرت نے اس کی طرف منہ کر کے فرمایا۔ خواجہ آپ نے پندرہ بار صحیح بخاری پڑھی ہے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث کون سی ہے خواجہ حسن نے واقعی صحیح بخاری کو پندراں بار پڑھا تھا۔ مگر دماغ پر زور ڈالنے کے باوجود حدیث نہ بتا سکے۔ آپ نے فرمایا۔ **كَلِمَاتَانِ خَسِنَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ جَنَّتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ** خواجہ امام حسن نہایت شرمندہ ہوئے اور دل ہی دل میں نادام تھے۔ جب باہر آئے تو کہنے لگے۔ میں نے پندراں بار بخاری شریف پڑھی اور اسے زبانی یاد کیا لیکن یہ حدیث مجھے یاد نہ آئی۔ خواجہ عماد الدین محمد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جدا مجاہد استاد ابو بکر نوقانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا۔ ایک دن حضرت شیخ خواجہ حمویہ اور میں تینوں مینہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ فتن کا ایک نوجوان آیا کہنے لگا۔ پتیس مینہ کون ہیں حضرت شیخ نے خواجہ حمویہ کی طرف اشارہ کیا۔ نوجوان کہنے لگا مجھے اسلام سکھاؤ خواجہ حمویہ نے حضرت شیخ کو کہا۔

آپ سے اسلام پیش کریں۔ میں نے کہا۔ اتنی دیر نہ کریں۔ اس نوجوان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے اسلام سے روشناس کریں۔ حضرت شیخ نے مجھے حکم دیا۔ کہ تم ہی اسے کلمہ پڑھا دو۔ میں نے اسے کلمہ پڑھایا۔ وہ نوجوان مسلمان ہو گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اب بتاؤ کیا معاملہ ہے کہ تم اسلام لانے کے لئے اتنے بے تاب ہو۔ کہنے لگا۔ ہم دو بھائی ہیں بغرض تجارت ختن سے طبرستان آئے۔ ایک رات مجھے خواب میں کسی نے حکم دیا۔ کہ میں اسلام قبول کر دوں۔ اور مبینہ کے مہتر یا رئیس کے ہاتھوں دولتِ اسلام حاصل کروں۔ میں اٹھا۔ تو اسی دن سے ارادہ کر لیا کہ مسلمان ہوں گا۔ جب میں دریائے دجلہ کے طرف آیا۔ میرا دل تجارت سے اچاٹ ہو گیا دنیا کی طلب سے ٹھنڈا ہو گیا اور صرف دولتِ اسلام کی تلاش میں سرگرداں رہنے لگا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا خواب سچا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو مالِ تجارت دے دیا۔ اور خود تارک الدنیا ہو گیا۔ آج اللہ نے مہربانی کی کہ آپ کے ہاتھوں دولتِ اسلام پالی ہے۔

حضرت شیخ نے مجھے پھر حکم دیا۔ کہ اسے قرآنِ پاک کی چند سورتیں یاد کروادوں تاکہ اسے نماز پڑھنے میں سہولت ہو۔ میں نے اس نوجوان کو سورہ والضحیٰ تک آخری سورتیں زبانی یاد کروادیں۔ اسی اثنا میں خواجہ جمویہ اپنے گھر چلے گئے اور گھر سے ایک بگڑی کرتے ازار بند۔ موزے مکر بند غرضیکہ کہ پورا لباس بھیجا۔ اور حضرت شیخ قدس سرہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے یہ ساری چیزیں اٹھائیں اور حسنِ مودب کو بلا کر کہا۔ انہیں بازار میں فروخت کر آؤ۔ اس نوجوان کے اسلام لانے کی خوشی میں تمام درویشوں کی دعوت کرو۔ اسے نہلاؤ۔ اور نیا لباس پہناؤ۔ وہ شخص چند دن حضرت کی تربیت میں رہا اور پاک بازوں میں شمار ہونے لگا۔

خواجہ عبدالکریم جو حضرت شیخ کے خاص انخاص خادم تھے نے بتایا۔ کہ ایک دن مجھے ایک درویش نے بٹھا کر کہا کہ میں حضرت شیخ کی زندگی کے چند واقعات لکھ دوں۔

کوئی شخص آیا۔ اور کہنے لگا کہ حضرت شیخ نے یاد فرمایا ہے۔ میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کیا کر رہے تھے۔ میں نے بتایا کہ ایک درویش آپ کی زندگی کے چند واقعات لکھ رہا تھا۔ آپ نے سنتے ہی فرمایا عبد الکریم داستان نویس نہ بنو۔ بلکہ یوں زندگی بسر کرو کہ لوگ تمہاری داستانیں یاد کریں۔ اس میں چند فائدے ہیں۔ ایک تو یہ بات تھی کہ حضرت نے اپنی فرہت سے معلوم کر لیا کہ خواجہ عبد الکریم کیا کر رہے ہیں دوسرے اسے تادیب کی کہ یوں کرو اور یوں رہو۔ تیسرے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی کرامات اور حالات لکھے جائیں اور لوگوں میں مشہور کی جائیں چنانچہ اس راقم کتاب نے ابتدائی حصے میں لکھا ہے کہ بزرگان دین اپنے حالات کو پردہ گناہی میں رکھنا پسند کرتے ہیں۔

الجاہ میں ایک حمزہ سکاک نامی درویش رہتا


**قوت برداشت کی تربیت :-** تھا۔ وہ حضرت شیخ قدس سرہ کا مرید تھا۔ وہ حضرت شیخ کی مجالس میں حاضر نہ ہوتا تھا لیکن جمعرات کو اہتمام سے حاضری دیتا پھر جمعرات اور جمعہ کی ساری مجالس میں شرکت کرتا۔ حضرت کے پیچھے نماز جمود ادا کر کے پھر چلا جاتا تھا حمزہ حضرت کی نگاہوں میں بھی بڑا عزیز و محترم تھا مگر اس میں ایک عادت تھی کہ حضرت کے درویشوں پر دستہ پڑھتا تھا۔ ایک دن حضرت کی مسجد میں درویش بیٹھے تھے۔ حمزہ بھی مسجد میں آیا۔ اور مسجد کے دروازہ کو بڑے زور سے بند کیا۔ تمام درویشوں کو ہی حرکت سے سخت تکلیف ہوئی حضرت نے بھی اسے ناپسند فرمایا۔ آپ خلافت معمول مسجد میں تشریف لائے۔ آپ کو دیکھ کر تمام لوگوں میں ایک قسم کا اضطراب اور گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ اور سب نے مل کر حمزہ کی شکایت کی کہ یہ شخص ہمیں بڑا تنگ کرتا ہے۔ شیخ نے حکم دیا حمزہ کو بلاؤ۔ اس وقت حمزہ بازار چلا گیا تھا۔ لوگ اس کے پیچھے گئے اور اسے بلا لائے۔ آپ نے فرمایا۔ حمزہ درویشوں کو تم سے شکایت ہے۔ کہ تم ان کے آرام میں مغل ہوتے ہو۔ اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ حمزہ کہنے لگا حضرت جب یہ لوگ حمزہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے

تو انہیں بار برداری کے کپڑے اتار دینا چاہیے حضرت اس وقت بڑے اچھے مزاج میں تھے نعرہ مارا۔ اور کہا حمزہ پھر کہو۔ پھر کہو! حمزہ نے پھر کہا۔ حضرت شیخ نے پھر نعرہ مارا اور کہا حمزہ پھر کہو! حمزہ نے تیسری بار کہا حضرت نے پھر نعرہ بلند کیا۔ اور حسن مودب کو کہا۔ اٹھو۔ اور شکر لے کر آؤ۔ حسن شکر کا ایک طبق بھر لائے۔ اور حضرت شیخ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے حمزہ کے سر پر نچا اور کونا شروع کی اور اسی طرح نعرے مارتے گئے۔ اور کہتے گئے مَنْ لَسُو بَطْنُ اِحْتِمَالِ الْاَذَى فَسَلِيْهِ اِنْ يَسْرَعُ ثَوْبَ الْحَمَائِيْنَ جو دوسروں کی تکلیف کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ انہیں مردوں کے کپڑے اتار دینا چاہیے۔

ایک دفعہ حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ بارود کے راستہ سے سفر فرمایا ہے تھے۔ وہاں ایک عارف باللہ رہا کرتے تھے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کی حضرت اگر آپ بارود میں چند روز قیام فرمائیں تو آپ کی کتنی مہربانی ہوگی۔ یہاں کے لوگوں کو بھی آپ کے فیضان سے کچھ حصہ مل سکے حضرت نے اس کی بات مان لی۔ آپ تیس دن قیام فرما رہے۔ یہ عارف ہر روز ایک دینار حسن مودب کو دیتے اور کہتے کہ درویشوں کے لئے کھانا تیار کرو۔ حسن خرچ کرتے جاتے۔ لوگوں کو اعتراض تھا آیا یہ دینار حلال کی کمائی ہے۔ کیونکہ ظاہراً وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کی بات سننے لگے خاموش رہتے۔ تیس دن گزرے۔ تو شیخ نے آگے جانے کا ارادہ کیا اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے میزبان کو بلایا جائے۔ جب آئے کہ آپ نے درویشوں پر جو کچھ خرچ کیا ہے۔ کہاں سے آیا تھا۔ اس نے کہا۔ میری دادی نے اپنے ورثے سے دیا تھا یہ میری حلال کی میراث تھی۔ دادی کے اس ہار میں سونے کے تیس دانے تھے۔ ہر روز ایک ایک دانہ خرچ کرتا رہا ہوں۔ آج یہ دانے ختم ہو گئے۔ اور حضرت نے سفر کا آغاز کر لیا ہے۔ اس کی بات سن کر لوگوں کا شبہ جاتا رہا۔ اور حضرت کے حق میں عقیدت

زیادہ ہو گئی۔

یاد رہے کہ حضرت شیخ قدس سرہ کی ذات والا صفات کرامات کا ایک مجموعہ ہے ہم نے نہایت ایجاز اور اختصار سے ان کرامات اور واقعات کو بیان کیا ہے جو مستند اور تحقیق شدہ تھے۔ اور ہم نے ان کی چھان بین میں بڑی محنت کی ہے اگر لوگ ان واقعات سے استفادہ کریں گے تو یہ حضرت کی زندگی کے نورانی واقعات کا عشرِ عشر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس شیخ عالی مقام قدس سرہ کی برکات عالیہ تاقیام قیامت جاری اور ساری رکھے۔ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَعِزَّتِهِ الطَّاهِرِينَ ط



## باب دوم

### فصل دوم

# حضرت شیخ ابوسعید کی زبانی مفید حکایات

ایک دن حضرت شیخ ابوسعید ابو الخیر قدس سرہ وضو فرما رہے تھے آپ نے حسن مودب کو آواز دی اور کہا کہ ہمارے سر سے کپڑے ہٹالو۔ اور درویشوں کے لئے کوئی میٹھی چیز تیار کرو۔ حسن مودب نے عرض کی حضرت آپ وضو سے فارغ ہو لیں تو میں حکم بجالاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نیکی کی تکمیل تک شیطان حملہ کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھو نیکی کا جب بھی خیال آئے اس میں جلدی کرنا چاہیے اور پھر زندگی پر غرور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انبیاء کرام اور مشائخ کرام تک برگزیدہ لوگ بھی شیطان کے مکر و فریب سے محتاط رہے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رِسُولًا وَلَا نَبِيًّا إِذْ أَتَيْنَاهُ  
الْقَى الشَّيْطَانَ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنْخُ الْقَدَمَا  
أَيْلَتِي الشَّيْطَانَ ثُمَّ يَجِيءُ اللَّهُ -

## ترجمہ :-

اور ہم آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا اور نہ ہی کوئی نبی ایسا آیا ہے۔  
کہ جب اس نے کسی چیز کی خواہش کی جو تو اسے شیطان اپنی مرضی کو سے۔ پھر  
وہ اللہ کا حکم بنا کر پیش کرے۔

حضرت شیخ قدس سرہ کے زمانے میں ایک درویش تھے وہ بڑی سخت اور دشوار  
خدمات سرانجام دیتے جہاں کہیں کوئی مشکل کام ہوتا وہ وہاں پہنچ جاتے ایک بار وہ حضرت  
شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حضرت میں یہ تمام مشکل کام اللہ کی رضا کے لئے کرتا  
ہوں اس وقت وہ درویش ایک مکان کی تعمیر میں مصروف تھے اور گارے اور کچھڑے سے لت پت  
تھے کم از کم آپ میری حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے تعریف تو کر دیں حضرت شیخ ان کی بات  
سن کر بڑے خوش ہوئے۔ اس دن کے بعد حضرت اسے کوئی کام کرتے دیکھتے تو بڑی خوشی  
کا اظہار فرماتے اور اس کی تعریف کرتے جس سے وہ درویش بڑی راحت محسوس کرتا۔  
اور اپنے اندر قوت کار میں اضافہ محسوس کرتا۔

جن دنوں حضرت شیخ قدس سرہ عوس میں قیام فرماتے تھے ایک دن  
اللہ کار ساز ہے! :- خواجہ امام ابو الحسن رومی کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔  
حضرت شیخ کے سامنے ایک مسئلہ تھا۔ جسے آپ حل کرنا چاہتے تھے۔ باتوں باتوں میں اس  
مسئلے کا حل نکل آیا۔ تو شیخ نے فرمایا: ہمارا تو اللہ ہی کار ساز ہے! اور کہا الحمد للہ رب العالمین  
حضرت خواجہ امام ابو الحسن فرمانے لگے حضرت ہمارے کام تو ابو علی دادگر کرتا ہے۔ حضرت  
نے فرمایا۔ نہیں صرف بات اتنی ہے کہ آپ جب کام کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ میں نے یہ نام  
لیے کیا۔ میں ایسا کرتا ہوں۔ ہمیں ایسا کرنا چاہیے! آپ کے کام بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ مگر  
آپ لوگ اپنے آپ کو درمیان میں رکھتے ہیں۔ لیکن میں اپنے آپ کو درمیان میں نہیں لاتا۔



خواجہ امام مظفر خدائی نے ایک دن فرمایا کہ ہمارا معاملہ شیخ ابوسعید کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے پیمانہ اور دانہ ہو۔ شیخ کی حیثیت ایک دانہ ہے باقی ہم ہیں حضرت ابوسعید کے ایک مرید بھی اسی مجلس میں سن رہے تھے غصہ کھا کر مجلس سے اٹھ آئے۔ اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خواجہ امام مظفر سے جو کچھ سنا تھا۔ بیان کر دیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا۔ جاؤ۔ اور امام مظفر کو کہو کہ وہ دانہ بھی تم ہی ہو۔ ہم تو کچھ بھی نہیں!

حضرت شیخ قدس سرہ طوس میں تھے۔ جب وہاں ادب اور احترام سے روانہ ہوئے تو استاد ابو بکر قدس سرہ آپ کو اوداع کہنے باہر آئے۔ حضرت آپ کو داپس جانے کا کہتے مگر وہ از رو ادب و خلوص داپس نہ جاتے۔ حضرت نے زور دے کر کہا۔ استاد اب داپس چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگے۔ حضرت آپ جس راستہ پر چل پڑے ہیں اس سے داپس نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا۔ تدبیر کی راہ سے اٹھ کر اب تقدیر کے راستے پر چلو!

حضرت شیخ قدس سرہ کا ایک نو عمر بچہ تھا۔ فوت ہو گیا۔ حضرت کو اس سے بڑا پیار تھا۔ قبرستان میں گئے تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے قبر میں اتارا اور مٹی کے سپرد کر دیا۔ آپ قبر سے نکلے تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور یہ شعر زبان پر تھا۔

زشت باید دید و انگارید خوب زہر باید خورد و انگارید قند  
تو سنی کردم ندانستم ہے کز کشیدن سخت تر گرد و کند

کچھ عرصہ کے بعد آپ کا ایک اور فرزند بھی فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بہشت والوں نے ہم سے کچھ یادگاریں طلب کی تھیں۔ ہم نے پیشگی بیج دیں۔ تاکہ ہم پہنچیں تو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک وہاں ہو۔

حضرت نیشاپور میں تھے۔ ایک دن حکم فرمایا گھوڑے پر زین کسیں۔ تاکہ باہر چلیں۔

گھوڑے پر زین رکھی گئی۔ حضرت روانہ ہوئے بہت سے لوگ خدمت میں موجود تھے نیشاپور سے کچھ دور ایک گاؤں تھا۔ وہاں پہنچے تو پوچھا اس گاؤں کا کیا نام ہے۔ لوگوں نے کہا۔ "درِ دست" شیخ وہاں ہی قیام فرما ہوئے۔ دوسرے دن لوگوں نے کہا۔ حضرت اب! پس جانا چاہیئے۔ آپ نے فرمایا۔ انسان بڑی منزلیں مار کر درِ دست پر پہنچا ہے اب اس سے آگے ہم کہاں جائیں گے۔ چنانچہ آپ چالیس دن وہاں ہی رہے اس گاؤں کے لوگ اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ اور اخلاقی پستیوں میں گرے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ کی برکات سے تمام تائب ہوئے۔ حضرت کے مرید ہو گئے اور حضرت نیشاپور آگئے تو یہ لوگ وہاں بھی آتے رہے۔ ایک بار حضرت نے نصد کرایا۔ خون بہہ رہا تھا۔ آپ نے حسن مودب سے پوچھا جس کو دیکھ رہے ہو۔ حسن کہنے لگے۔

مردان جہان نصد کنند خون آید      تو نصد نسی و عشق تو بیدن آید  
- دنیا کے لوگ تو نصد کراتے ہیں تو ان کا خون نکلتا ہے۔ مگر آپ نے نصد کرایا تو آپ کا عشق بہہ رہا ہے۔ آپ نے اسی دقت نصد کرنے والے کو بلا لیا۔ اور فرمایا۔ اسے بند کر دو۔ اسی دقت خون بند کر دیا گیا۔

ایک دن حضرت شیخ ابو سعید قدس سرہ  
**ابو علی سینا حضرت شیخ کی مجلس میں** : العزیز نیشاپور میں مجلس میں تشریف  
فرماتے تھے اسی دوران خواجہ بوعلی سینا حضرت کی خانقاہ کے دروازے پر آئے دونوں حضرات نے اس سے پہلے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا جب بوعلی اندر آئے تو حضرت نے دیکھتے ہی فرمایا۔ آج ہمارے پاس ایک حکمت دان آئے ہیں۔ بوعلی سینا آئے اور مجلس میں بیٹھ گئے مگر شیخ نے گفتگو جاری رکھی۔ مجلس ختم ہوئی۔ تو اپنے صومعہ میں چلے گئے بوعلی سینا کو بھی اندر بلا لیا۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ تیس رات دن دونوں حضرات خلوت میں محو گفتگو رہے دونوں حضرات

نازاد کرنے کے علاوہ کبھی باہر نہ آئے تھے تین دن کے بعد بوعلی سینا نے اجازت لی اور چلے گئے۔ بوعلی سینا کے شاگردوں نے آپ سے پوچھا۔ ابو سعید ابی النخیر کیسے ہیں فرمایا: جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ دیکھتے ہیں؟ ادھر حضرت شیخ قدس سرہ کے مریدوں نے حضرت سے دریافت کیا حضرت یہ ابوعلی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ فرمایا: جو کچھ وہ جانتے ہیں ہم دیکھتے ہیں۔“

اس دن سے شیخ بوعلی سینا کے دل میں حضرت شیخ ابو النخیر کے متعلق عقیدت کا بند بے پیدا ہوا۔ وہ اکثر و بیشتر حضرت کی ملاقات کو آتا۔ اور کئی کرامات دیکھتا ایک دن اچانک نیشاپور میں حضرت کے پاس آ گیا حضرت نے اس سے پہلے اپنے اصحاب کو حکم دیا تھا۔ کہ گھوڑے پر زین رکھیں ہم اندر زن جانا چاہتے ہیں داند زن کا گاؤں نیشاپور کے نزدیک ایک پہاڑ کے دامن میں ہے۔ جہاں حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی غار ہے، بوعلی سینا حضرت کو ملے۔ تو آپ نے فرمایا۔ ہم زیارت کا ارادہ رکھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے بوعلی سینا نے کہا میں بھی چلوں گا۔ دونوں حضرات چل رہے صوفیہ کی ایک بہت بڑی جماعت بھی ہمراہ تھی۔ بوعلی سینا کے شاگردوں کا ایک خاص بڑا گروہ بھی ساتھ ہو لیا۔ راستہ میں کئی جگہ کانچ کے کانے پڑے دکھائی دیئے۔ حضرت شیخ ابو سعید نے فرمایا۔ ایک کانا مجھے بھی اٹھا دو۔ پھر ایک ایسی وادی آئی۔ جہاں سخت پتھر تھے۔ حضرت شیخ اس کانے کو جس پتھر پر لگاتے پتھر میں سوراخ ہو جاتا۔ بوعلی سینا اور ان کے شاگرد دیکھ رہے تھے۔ بوعلی حضرت کے پاؤں میں گر گئے۔ لیکن اس وقت تک کسی کے علم میں یہ بات نہ تھی کہ حکمت کا یہ امام کیوں گواہ ہے لیکن اس دن سے بوعلی سینا حضرت کے ایسے مرید ہوئے کہ تقریباً ہر روز زیارت کو حاضر ہوتے اس دن کے بعد حکمت و عرفان پر جتنی کتابیں لکھیں اس میں ایک باب ادبیا کرام کی کرامات کا لکھا۔ اشارات وغیرہ کتابوں میں ایسے آثار ملتے ہیں پھر

بوعلی سینا نے ادویات، اللہ کی کرامات تصرفات، علوم و عرفان سلوک، چادۂ طریقت و حقیقت پر کئی ایک مستقل کتابیں تصنیف کیں۔

خواجہ حسن مودب پہلی بار نیشاپور میں حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دنیا کے تمام مال و متاع کو حضرت کی خدمت میں نذر کر دیا حضرت نے چند دنوں میں ہی درویشوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اور حسن مودب کو ریاضت اور عبادت میں لگا دیا۔ اس سلسلہ میں آپ بذات خود حوصلہ افزائی فرماتے۔ تربیت کرتے اور ننگانی فرماتے تھے۔ لیکن ان ریاضتوں کے باوجود خواجہ حسن کے اندر بویئے خواجگی موجود تھی۔ آپ نے ایک دن حسن کو آواز دی اور کہا جاں اٹھاؤ۔ اور کرمانیوں کے چوک میں چلے جاؤ۔ اور وہاں سے تمام جگر بند اور شکنجے اور جھریاں جو بھی نظر آئیں خرید لو اس جاں میں ڈال کر تمام گوشت اپنی پشت پر لاد کر لے آؤ۔ آپ حضرت کے حکم سے چلے تو گئے۔ مگر آپ کو یہ کام بڑا گراں گذرا۔ مجبوراً کرمانیوں کے چوک میں پہنچے تمام جگر بند اور جھریاں خریدیں جاں میں رکھے پشت پر لادے اس حالت میں چلے آئے۔ تھے کہ خون اور نجاست آپ کے کپڑوں اور بدن پر بہ رہا تھا۔ اور حسن لوگوں سے منہ چھپائے نہایت شرمندگی سے چلے آئے تھے لوگوں نے حسن کو ہمیشہ خوش لباس میں دیکھا تھا۔ مگر آج وہ اسی غلاظت میں اٹھے پڑے اسی بازار سے گزر رہے ہیں۔ انہیں خواجگی اور امارت کے احساس سے دست بردار ہونا بڑا مشکل تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

إِنَّ آخِرَ مَا يَخْرُجُ عَنْ رُؤْسِ النَّاصِبِ يَقِينُ خُبَّ السَّرِيَّاسَةِ  
درد یقین کے دماغوں سے جو چیز سب سے آخر میں نکلتی ہے۔ وہ حکمرانی کی محبت اور خود سری کی بڑھوتی ہے)

حضرت شیخ کی بھی یہی خواہش تھی کہ حسن کے دماغ میں خود سری اور حکمرانی کی اکڑ

کو ختم کر دیا جائے۔ حسن نے یہ حال اٹھایا۔ اور بدین ہٹیٹ کذائی کرمانیوں کے بازار سے حضرت شیخ کی خانقاہ تک آئے تو عدنی گویاں کے گنجان بازار سے گزر ہوا۔ یہ بازار تمام نیشاپور کے بازاروں میں بارونق بازار تھا۔ حضرت نے حسن کو خانقاہ کے دروازے پر دیکھتے ہی فرمایا حسن! نہیں دروازہ حیرہ پرے جاؤ۔ اور وہاں کنویں کے پانی سے دھو کر واپس لاؤ۔ یہ تو بہت گندمی ہیں۔ یہ بازار شہر کے دوسرے کنارے پر تھا حسن دروازہ حیرہ پر گئے۔ اور ان تمام کو صاف کیا۔ دھویا۔ اور پھر خانقاہ کی طرف لائے اس دوران حسن سے خواجگی کی بو اور حکمرانی کی اگر چہ چکی تھی۔ اب وہ آزادانہ اور خوش خوش آ رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا۔ اب اسے باورچی کے حوالے کر دو تاکہ وہ اسے تیار کرے درویشوں کے لئے پکائے۔

حضرت شیخ نے دیکھا کہ اس کام کے سرانجام دینے میں حسن نے بڑا محسوس کیا ہے اور اسے سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ آپ نے آواز دے کر حسن کو بلایا۔ اور فرمایا حسن! اب تم مہنا لوصاف اور پاکیزہ کپڑے پہن لو۔ اور کرمانیوں کے بازار میں چلے جاؤ۔ اور وہاں سے دروازہ حیرہ جانا اور لوگوں سے پوچھنا کہ کسی شخص نے تمہیں وہ ادھریاں اٹھائے آتے جاتے دیکھا تھا۔ حسن نہائے۔ لباس بدلے اور حسب الحکم چلے گئے۔ تمام بازاروں میں عام لوگوں اور دکانداروں سے پوچھا۔ کہ کسی نے انہیں دیکھا ہو۔ سب نے بتایا۔ نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا۔ حسن واپس آئے تو حضرت شیخ نے فرمایا۔ حسن! صرف تم ہی اپنے آپ کو دیکھتے رہے ہو کسی شخص کی نگاہ نے تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ تمہارا ہی نفس ہے جو تمہیں اکڑا اور فخر پر آمادہ کرتا ہے۔ درنہ دوسرے لوگوں کو اس سے کیا سرد کار ہے اس نفس پر سختی کرنا چاہیے اس کی سرزنش ہی کامیابی کی دلیل ہے اسے اس طرح دبائے رکھو کہ نہ اسے اپنی ذات کی پرواہ رہے نہ ممنوق کی حسن نے حضرت کی یہ گفتگو سنی۔ تو خواجگی اور دنیاوی نمائش کی ساری باتیں دل سے نکال دیں۔ رات کو کھانا پکا۔ سارے درویش دسترخوان پر جمع ہوئے۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا۔ پیٹ بھر کر کھاؤ۔ یہ حسن کی خواجگی کا سالن ہے اور آج رات تمہاری دعوت حسن کا غرور ہے۔

ایک دن حضرت شیخ کے پاس ایک شخص آیا۔

اسرارِ خداوندی کی حفاظت اور کہنے لگا۔ حضرت میں اس لئے حاضر ہوا

ہوں کہ آپ اسرارِ حق کی تلقین فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا کل آنا۔ وہ دوسرے دن آیا حضرت شیخ نے درویشوں کو کہا تھا کہ ایک چوہا پکڑ کر ایک برتن میں بند کر کے اس کا منہ کپڑے سے بند کر دو۔ اس شخص کو بلایا۔ اور برتن اسے دے کر کہا۔ اسے لے جاؤ۔ اور اسے اپنے گھر رکھو۔ مگر اسے کھونا نہیں۔ اور خیال رکھنا۔ وہ لے کر چلا گیا مگر رات کو اس کے دل میں بار بار خیال آتا کہ اس برتن میں بھلا کیا ہے جسے نہ کھونے کا کہا گیا ہے۔ اس نے ضبط کیا۔ مگر سہرا کار اس نے فیصلہ کیا کہ منہ کھول کر دیکھوں۔ کیا ہے۔ پکڑا کھولا تو ایک چوہا پھلانگ کر بھاگ گیا۔ وہ آدمی دوسرے دن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کہنے لگا۔ حضرت میں نے تو آپ سے

اسرارِ خداوندی دینے کو کہا تھا آپ نے مجھے چوہا دے دیا۔ حضرت نے فرمایا بھلے آدمی۔ ہم نے ایک چوہا تمہیں دیا۔ تم اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اسرارِ خداوندی کیسے برداشت کرو گے۔

حضرت شیخ کی یہ عادت تھی کہ آپ کا کوئی

گھر میں تین چیزوں کا خیال رکھو۔ مرید شادی کرتا تو آپ اس کی بیوی کو

بلا تے اور فرماتے گھر میں تین کام ضرور کرنا۔

۱۔ تمہارا خاوند جو چیز کھانے کے لئے گھر میں لائے۔ اس کی حفاظت کرو۔ اور

کچھ نہ کچھ بیچ جائے تو اسے خاوند کی اجازت کے بغیر فریح نہ کیا کرو جس طرح عورتیں سوت کی چند تاریں بھی علیحدہ رکھ کر اس کے بدلے کچھ نہ کچھ خریدتی رہتی ہیں۔

۲۔ گھر میں لکڑی کا جالا کبھی نہ لگنے دو کیونکہ اس جالتے میں شیطان اپنا ڈیرہ

لگا لیتا ہے اور ہمارے مرید شیطان سے دور رہتے ہیں۔

۳۔ جو کچھ پکاتا چاہو۔ اسے پہلے دھولیا کرو۔ خواہ گوشت ہو خواہ سبزی یا دال

ہو۔ ان تین چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو۔

ایک بار حضرت شیخ وضو کرنے کے لئے بیٹھے تھے کہ ایک مرید کو وضو کے لئے پانی لانے کو کہا۔ اسے دیر ہو گئی۔ دوسرے درویشوں نے اعتراض کیا اور کہہ رہے تھے۔ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اتنی نزدیک سے پانی لانا تھا۔ وہاں بیٹھ رہا ہے وہ پانی لے کر آیا تو حضرت نے ان درویشوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا دراصل جس پانی سے ہم نے وضو کرنا تھا وہ بھی چشمہ سے نہیں نکلا تھا۔ جب وہ برآمد ہوا۔ تو اس سے پانی لے آیا ہے تم خواہ مخواہ اعتراض کرتے رہے ہو مگر مدرسہ میں حضرت خواجہ امام ابو بکر صابونی ہمارے حضرت کے شریک مجلس تھے۔ اور ہم سبق بھی تھے۔ حضرت نے شہرت عامہ حاصل کی۔ تو ایک دن خواجہ ابو بکر حضرت کی خدمت میں آئے۔ اور فرمایا ہم ایک ہی مدرسہ میں ہم سبق تھے اکٹھے پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بزرگ بنا دیا۔ اور ہم اسی طرح مدرسہ میں استادی کر رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ تمہیں یاد ہے ایک دن ہمارے استاد ہمیں یہ حدیث لکھا رہے تھے۔

مِنْ حَسَنِ الْإِسْلَامِ الْمَرْعُ شُرَكَهُ مَا لَا يَغِيْبُهُ

جس شخص نے اسلام کی حقانیت کو قبول کر لیا۔ وہ اس کے علاوہ تمام چیزوں

کو چھوڑ دیتا ہے۔

تمہیں یاد ہے گھر جا کر تم نے کیا کیا؟ امام ابو بکر فرمانے لگے۔ میں نے لکھا یاد کیا۔ اور مزید حاصل کرنے کے درپے ہو گیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا۔ ہم نے ایسا نہیں کیا تھا ہم گھر گئے۔ جو کچھ ہماری اپنی ضرورت کی چیز تھی۔ اُسے رکھا۔ باقی سب کی سب چیزیں بانٹ دیں۔ اور دل کو تمام ضروریات سے فارغ کر لیا۔ اور دل میں بٹھالیا کہ یہ حدیث پر ہے اب کسی چیز کو اپنے پاس دبانے رکھنا درست نہیں۔

سرخس میں لوگوں نے حضرت شیخ سے پوچھا حضرت طریف کسے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ تمہارے شہر میں تو لقمان کو ظریف کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا۔ حضرت ہمارے

شہر میں تو اس سے سخت گفتار اور سنجیدہ انسان نہیں ملتا حضرت نے فرمایا تمہیں بھول ہوئی ہے۔ ظریف تو پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں۔ اور پاکیزہ چیز وہ ہوتی ہے جو کسی دوسری سے ملی ہوئی نہ ہو۔ اور کسی دوسرے چیز سے اس کو پیوند کاری نہ ہو۔

حضرت شیخ کو لوگوں نے بتایا کہ فلاں بزرگ پانی مرد کامل کے اوصاف پر چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بڑا آسان ہے مرغابی اور بگلا بھی پانی پر چلتا رہتا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا فلاں بزرگ ہوا میں اڑتے ہیں آپ نے فرمایا۔ یہ بھی آسان ہے یہ چلیں یہ مکھیاں ہوا میں اڑتی پھرتی ہیں۔ پھر کہا گیا کہ فلاں بزرگ لمحے میں ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا شیطان ایک لمحہ میں مشرق سے مغرب پہنچ جاتا ہے۔ ان چیزوں کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ مرد خدا وہ ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کے درمیان رہے۔ نشست و برخاست کوئے سوئے۔ جاگے۔ لوگوں سے عین دین رکھے۔ مخلوق خدا کے معاملات میں دخل رکھے اندریں حالات ایک لمحہ بھی یاد خداوندی سے غافل نہ رہے۔

ایک مؤذن مینہ میں ظہر کی نماز کی اذان کہہ رہا تھا۔ اور اقامت کا وقت ہوا تو حضرت کو آواز دی مگر آپ گھر سے باہر نہ آئے مؤذن کئی بار حضرت کے گھر کے دروازے تک آیا۔ اور اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر چلا گیا۔ نماز کا وقت تک ہو گیا۔ مگر آپ گھر سے نہ نکلے آخر کار حضرت باہر آئے۔ مؤذن نے اقامت کہی۔ نماز ادا کی گئی۔ حضرت مسجد میں بیٹھے تو مشائخ اور صوفیہ نے پوچھا حضرت آج خیر تھی کہ آج آپ گھر سے نہ نکلے آپ نے فرمایا آج دنیا نے ہمارا گریبان پکڑ رکھا تھا۔ اور کہہ رہی تھی آپ سے سب سے کچھ نہ کچھ لیا ہے میرا حصہ بھی ملنا چاہیے۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس سے جان چھڑائیں فریاد بھی کی مگر وہ ہمارا گریبان نہ چھوڑتی تھی۔ نماز کا وقت جا رہا تھا۔ ہم نے پورا زور لگایا۔ مگر وہ باز نہ آئی۔ آخر کار ہم نے مفضل کو اس کے حوالے کر دیا۔ پھر کہیں جا کر اس نے ہمارا گریبان چھوڑا



ایک وقت آیا کہ آپ کے فرزندوں میں سے صرف مفضل اور ان کی اولاد دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہوتی رہی۔ ورنہ حضرت کی دوسری اولاد تنگ دستی سے وقت گزارتی رہی۔ خواجہ مفضل اور ان کے بیٹے صاحب ثروت ہونے مال و دولت سے مالا مال ہوئے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ خواجہ مفضل کی اولاد ہی دنیا کی نعمتوں سے پھلی پھولی۔

حضرت شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ ایک بار طوس بخشش کے لئے ایک قدم آئے۔

میں آئے۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ حضرت وعظ فرمائیں حضرت نے قبول کر لیا۔ دوسری صبح استاد کی خانقاہ میں منبر بچھا یا گیا۔ لوگ جوق در جوق آتے تھے اور بیٹھتے جاتے تھے۔ حضرت منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ قاری نے تلاوت قرآن کی آیتیں لوگ آئے کہ تل دھرنے کی جگہ نہ رہی، ایک شخص نے اعلان کیا کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ سے ایک ایک قدم آگے آجائے تو بخشا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ اہلہ وجمعین یہ کہہ کر آپ نے فرمایا۔ لوگو! جیسا کہ میرے دوست نے ابھی بھی فرمایا ہے کہ جو ایک قدم آگے بڑھے گا۔ اللہ اسے بخشے گا۔ چونکہ تم لوگ ایک ایک قدم آگے بڑھے ہو سب کے سب بخشے گئے ہو۔ یہ کہہ کر آپ منبر سے نیچے آگے اور مزید کچھ نہ کہا۔

حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ العزیز فرمایا کرتے۔ کہ بزرگان دین میں سے ایک سو بزرگوں نے باتیں کیں ہیں۔ جو بات پہلے بزرگ نے کہی تھی وہی ہر ایک نے آفرین بزرگ تک کہتے رہے۔ کسی ایک نے دوسرے سے اختلاف نہیں کیا۔ صرف الفاظ مختلف تھے۔ مطلب اور معنی ایک ہی تھا۔

التصوّف شرک التکلیف ط: تصوف کیا ہے؟ تکلف کو ترک کر دینا تکلف میں خمی اور تکبر ہوتا ہے۔ تکلف پھوڑ دیا جانے تو تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا۔ مشائخ نے فرمایا ہے جو چیز لوگوں کو پسند آئے وہ اللہ کو پسند نہیں آتی۔ جو چیز اللہ کو پسند آتی ہے اسے لوگ پسند نہیں کرتے۔ ایک بار حضرت شیخ قرآن پڑھ رہے تھے آپ ہر



شیخ نے مزید بتایا کہ شیخ عبداللہ بن سہیل تستری قدس سرہ فرمایا کرتے تھے۔  
قَلْبٌ لِّمَنْ يَلْبَسُ الْحِرْقَتَهُ وَهَمَّ الْأَزْدَقُ فِي قَلْبِهِ  
وہ بہت ہی قبیح انسان ہے جس نے فرقہ تو نہیں لیا۔ مگر اس کے دل میں روزی  
کی فکر ہو۔

وہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ اَرْزَقُ الْعِبَادَ عَلَى اللَّهِ لَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا فَضْلُهُ  
حضرت شیخ نے بتایا کہ ہم ایک بار طبرستان میں حضرت ابوالعباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ  
کے پاس تھے آپ کی خدمت میں مختلف درویش آئے۔ آپ ان کی خواہشات پوری کرتے  
جاتے خود فرماتے اسے ہر ایک کو خواہش دینا اسے پورا کرنا۔ مجھے کوئی خواہش اور تمنا نہ دینا۔ ہر ایک  
کو آرزو دے ہمیں آرزو بھی نہ دے۔ بس ہمیں وہ دے کہ ہم ضرہ ہوں۔

ایک دن حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ العزیز نیشاپور  
لَيْسَ فِي جَبَّةِ سَوَى اللَّهِ  
تقریباً بڑے جوش میں فرمایا: لَيْسَ فِي الْجَبَّةِ سَوَى اللَّهِ (ہمارے گریبان میں  
اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے) یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنی انگشت شہادت سے اپنے گریبان  
ن عرف اشارہ فرمایا۔ اور سنیہ مبارک پر انگلی رکھ دی۔ اس مجلس میں بڑے بڑے مشائخ موجود  
تھے۔ جن میں ابو محمد جوینی، استاد امام، ابوالقاسم القشیری، استاد اسماعیل صابونی اور دوسرے  
حضرات رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے اسمائے گرامی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ کسی نے بھی اعتراض  
نہ کیا بلکہ ان بزرگان دین پر ایک رقت طاری ہو گئی۔ تمام نے اپنے فرقے اتار کر رکھ دیئے۔  
بے خودی کے عالم میں جھوم اٹھے۔ جب حضرت شیخ منبر سے نیچے آئے حضرت کا جبہ مبارک اور  
مشائخ کے فرقے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے۔ مگر حضرت کے جبہ کا وہ حصہ جس کی طرف آپ نے  
انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ بطور تبرک محفوظ کر لیا گیا۔ آنے جانے والے لوگ اس ٹکڑے کی زیارت  
کرتے تھے۔ حضرت کی وفات کے بعد یہ ٹکڑا خواجہ ابوالفتح اور ان کی اولاد کے پاس رہا۔ مدتوں

عالم اسلام کے عقیدت مند حضرت شیخ کے مزار کی زیارت کو حاضر ہوتے تو اس ٹکڑے کی زیارت کرتے غزوں کے حملوں تک یہ محفوظ تھا۔ غزوں نے لوٹ مچائی تو برکات کے ساتھ یہ ٹکڑا بھی گم ہو گیا۔

نیشاپور میں ایک حمزہ تراب نامی درویش رہا کرتا تھا۔ بڑا متواضع شخص تھا۔ ایک دن اس نے حضرت شیخ کی خدمت میں رقعہ لکھا تو اذرہ تو اضع نیچے لکھا۔ تراب قدمیہ در آپ کے قدموں کی خاک حضرت نے جواب میں یہ شعر لکھا۔

سے گر خاک شدی۔ خاک ترا خاک شدیم چوں خاک ترا خاک شدیم! پاک شدیم!

راقم مولف کتاب کے جدا مجد خواجہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت کی زبان سے اکثر اشعار بلا ارادہ وارد ہوتے تھے۔ اگرچہ اس شعر کے علاوہ بھی آپ نے مندرجہ ذیل دو اشعار کہے تھے۔ مگر ان کی تصدیق نہیں ہو سکی آپ فرماتے ہیں۔

جانا بز میں خادراں غائے نیت کش با من در دزگار من کاے نیت  
بالطف و نوازش جمال تو مرا در داں صد ہزار جاں غائے نیت

حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو القاسم یاسین سے سنا کہ ایک دن آپ نے مجھے فرمایا۔ ابو سعید!

مرد باید کہ جگر سوخته خنداں بودا نے ہمانا کہ جنیں مرد فرداں بودا  
مرد حق تو وہ ہے جو جگر سوخته بھی ہو اور خنداں بلب بھی ہو۔

ایک دن حضرت گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ کے پاس بہت سے مشائخ اور عزیز بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص مجلس میں ہی بلند آواز سے رونے لگا۔ جس سے تمام اہل مجالس محسوس کرنے لگے۔ حضرت شیخ نے ایک نگاہ پڑھتے ہی اسے دیکھا اور فرمایا۔ ان شیت ان تقون  
لما قلت ناعدا کما فعدت فان من ثبت ثبت ومن صبر ظفر

اگر تم چاہتے ہو کہ وہ بات کہو جو میں نے کہی ہے۔ تو ایسے بیٹھ جاؤ جیسے میں بیٹھا ہوں۔  
یاد رکھو جو ثابت قدم رہتا ہے وہ ثابت قدم ہو جاتا ہے جو صبر کرتا ہے اسے ہی صبر  
کی دولت ملتی ہے۔

آپ نے مزید فرمایا۔

سَمِعْتُ اَنْ عَقْبَهُ ابْنُ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مُمْ  
مَجَّوْرًا الْعَبْدَ مِنْكَ عَيْلَتَهُ فَتَنْبَلِي  
سَهْلًا لَوْ اَنْ ذُو نَكَحَ الْيَقِيْنَ مُعْتَرِضًا  
ذَلُو وَعَيْتٍ وَفِيهَا بِنْدِينَا سَقَرٌ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مُمْ  
مَجَّوْرًا الْعَبْدَ مِنْكَ عَيْلَتَهُ فَتَنْبَلِي  
سَهْلًا لَوْ اَنْ ذُو نَكَحَ الْيَقِيْنَ مُعْتَرِضًا  
ذَلُو وَعَيْتٍ وَفِيهَا بِنْدِينَا سَقَرٌ

حضرت شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن ایک شخص حضرت ابوالفضل حسن

قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کہنے لگا۔ حضرت میں نے کل رات آپ کو خواب میں دیکھا تھا  
کہ آپ مرے پڑے ہیں اور لوگ جنازے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ یہ بات تم  
نے اپنے لئے دیکھی تھی۔ یاد رکھو جنہیں مرا ہوا دیکھو۔ وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں مَنْ عَاشَ لِلَّهِ  
لَا يَمُوتُ اَبَدًا جو اللہ کے لئے زندہ رہتا ہے کبھی نہیں مر سکتا۔

ایک دن ایک درویش وضو کر رہا تھا حضرت شیخ بھی وضو کرنے کے  
لئے وہاں چلے گئے۔ درویش وضو کرتا جا رہا تھا۔ اور کہہ رہا تھا۔

اللَّهُمَّ اَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي۔ اسے اللہ مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ دینا حضرت  
شیخ نے سن کر فرمایا اے درویش اس نامہ اعمال سے کیا پڑھو گے۔ ایسا نہ کہا کرو۔ تمہیں  
اس بات کی طاقت نہیں ہے۔ درویش نے پوچھا۔ حضرت میں کیا پڑھا کروں۔ فرمایا کہا کرو۔  
اللَّهُمَّ الْمَغْفِرُ وَالرَّحِيمُ وَلَا تَسْأَلِ اَسْأَلُ اَسْأَلُ اَسْأَلُ اَسْأَلُ اَسْأَلُ اَسْأَلُ اَسْأَلُ اَسْأَلُ اَسْأَلُ  
اور مجھے سوال نہ فرمانا۔

نماز میں درویش پاک :- بابا حسن حضرت شیخ قدس سرہ کے پیش رو تھے حضرت کی

خانقاہ میں امامت انہی کے ذمہ تھی۔ ایک دن صبح کی نماز پڑھا رہے تھے دعا مانگتے ہوئے فرماتے تھے تبارک ربنا وتعالیت اللہم صل علی محمد و آل محمد حضرت شیخ نے فرمایا کہ بابا حسن تم نے آل محمد پر درود نہیں پڑھا۔ بابا حسن کہنے لگے حضرت جہاں صحابہ کرام پر درود نہ پڑھا جائے وہاں آل محمد پر درود پڑھنے سے کیا فائدہ! حضرت نے فرمایا۔ ہم تو جہاں بھی گئے۔ آل محمد کو وہاں ہی پایا۔

جس زمانہ میں حضرت شیخ ابوالخیر قدس سرہ نیشاپور میں تھے تو وارد دل کی صفائی :- گرد کے لوگ آپ کی مخالفت کرتے تھے حضرت استاد امام ابوالقاسم بھی آغاز میں حضرت کے مخالف تھے۔ ایک بار آپ حضرت شیخ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو مخالفت ختم کر دی۔ بایں ہمہ کبھی کبھی امام ابوالقاسم کے اندر اندر ہی آپ کی مخالفت کا خیال آتا تھا۔ ایک دن حضرت شیخ امام ابوالقاسم اور دوسرے صوفیاء کے ساتھ ایک بازار سے گزر رہے تھے اس بازار میں ایک اجنبی کتا آپہنچا۔ اس بازار کے تمام کتے اس کے پیچھے پڑ گئے اور بھونکنے لگے۔ اسے دبوچ لیا اور اسے زخمی کر دیا اور مار مار کر بازار سے نکال دیا۔ حضرت شیخ رک گئے اور فرماتے لگے۔ ابوسعید اس شہر میں مسافر ہے اور اجنبی ہے۔ اس کے ساتھ کتوں کا سا سلوک نہیں کرنا چاہیے اس دن سے حضرت امام ابوالقاسم کا سینہ صاف ہو گیا۔ اور مخالفت کا خیال بھی نہ آتا۔

خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کے خاص خادموں میں

خانشہ راہ :- سے تھے۔ نیشاپور کے رہنے والے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی

بچہ ہی تھا۔ کہ میرے والد مجھے حضرت شیخ قدس سرہ کی خدمت میں لے گئے میرے والد تو واپس چلے آئے مگر میں حضرت کی خدمت میں ہی رہا۔ میں نے دیکھا۔ حضرت شیخ خانقاہ کے پردوں کی اس دھول کو دیکھنے لگے جو اڑاڑ کر پڑی ہوئی تھی۔ حضرت نے فرمایا۔ پردوں پر پڑی ہوئی دھول کو بھاڑ کر میرے پاس لاؤ۔ میں اٹھا۔ اور جتنی مٹی تھی۔ جھاڑ لایا۔ فرمایا۔ تمہاری زبان میں

سے کیا جکتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ خاشکہ فرمایا۔ یاد رکھو۔ دنیا اور آخرت تو راہ خدا وندی کا خاشاک، خاشاک ہیں۔ جب تک یہ خاشکہ راستے سے صاف نہ ہو گا۔ منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَدْنَا هَا اِمَا طَتَّةُ الْاَذَى حَسَنُ الطَّبْرِيقِ۔ ایمان کا کمترین درجہ یہ ہے کہ راہ سے خاشکہ ہٹا دیا جائے۔ پھر فرمایا جہاں خدا ہے وہاں دوسری چیز نہیں رہ سکتی جہاں خدا ہے وہاں دوسرا شخص نہیں آ سکتا جہاں تو ہے وہاں دوزخ ہی دوزخ ہے جہاں تم نہیں وہاں بہشت ہی بہشت ہے۔

حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ کا ایک مرید عراق سے چلا اور آپ کی دنیاوی تحفے :- خانقاہ مینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا لباس بڑا قیمتی تھا۔ راستے

میں اپنے دل میں فخریہ سوچتا چلا آ رہا تھا کہ آج میں حضرت شیخ کی خدمت میں ایسا ہی قیمتی اور خوبصورت لباس لے جاؤں گا۔ حضرت دیکھ کر بڑے خوش ہوں گے۔ یہ تحفے آپ کو خوش کر دیں گے۔ وہ ابھی مینہ سے تقریباً تیس میل دور تھا۔ تو حضرت نے درویشوں کو حکم دیا کہ گھوڑے پرزیں کسیں۔ گھوڑا تیار ہوا۔ حضرت سوار ہوئے اور بہت سے درویشوں کو لے کر صحرا کی طرف نکل گئے۔ اب درویش نے حضرت کو درویشوں کے ساتھ دیکھا۔ تو اس کا سر عزور سے اور اونچا ہو گیا کہ میرے استقبال کو آ رہے ہیں۔ غالباً انہیں میرے خوبصورت تحفوں کی خبر ہو گئی ہے اس خیال سے اس کے دل میں حُب دنیا اور بڑھ گئی۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور قدم بوسی کے لئے زمین پر گر گیا۔ آپ نے فرمایا۔ وہ کپڑے جو ہمارے لئے تحفے لائے ہو۔ وہ تو دکھاؤ درویش فوراً کپڑے لے آیا۔ آپ نے کپڑے لے کر درویشوں کو حکم دیا۔ انہیں پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اور ان کے ٹکڑے صحرا کی ان جھاڑیوں پر بچیر دو۔ یہ دیکھ کر درویش شرمندہ ہو گیا۔ اور بڑا شکستہ دل ہوا۔ حضرت نے فرمایا۔ دنیا کی ان چیزوں پر غرور کرنا۔ غرور ہونا۔ اور اسے بڑی نعمت سمجھنا اچھا نہیں ہے۔ یونگا ہوں میں ان قیمتی کپڑوں کی یہ قیمت ہے۔ یہ دنیا پرستی درویشوں کو زیب نہیں دیتی۔ درویشوں کا طائفہ تو ان چیزوں سے

بے نیاز ہوتا ہے۔ ان کی نگاہیں تو آخرت کی نعمتوں پر ہوتی ہیں یہ دیکھ کر اس درویش سے دنیا کی نعمتوں کی محبت سرد ہو گئی۔ مینہ میں آیا۔ تربیت حاصل کی۔ اور خاص بزرگوں سے شمار ہونے لگا۔ ایک دن ایک درویش مینہ میں حاضر ہوا۔ اور سامان سفر لئے ہوئے حضرت کی خدمت میں آگیا۔ اور عرض کی حضرت میں نے بڑا سفر کیا۔ نہ خود آرام کیا۔ نہ کسی کو آرام کرتے دیکھا آپ نے فرمایا۔ یہ بات تعجب انگیز نہیں ہے۔ یہ سفر جسے تم مکمل کر کے آئے اس سے اپنی مراد پا چکے ہو۔ اگر تم سفر نہ کرتے۔ تو خود بھی آرام کرتے دوسروں کو بھی آرام کرتا دیکھتے۔ انسان کا اپنا آپ ہر اس کا قید خانہ ہے۔ اپنے آپ کے قید خانے سے باہر نکلے۔ تو آزادی کی رحمتیں پاتا ہے۔

طوس میں ایک سید زادہ تھا جس کا نام شیر حمزہ تھا۔ ان سادات سے رواداری کی۔ کا گھر طوس کے صحرا کے کنارے تھا۔ حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ العزیز کو اس سے بڑا پیار تھا۔ آپ طوس جاتے تو اسی کے پاس ٹھہرتے۔ حمزہ آپ کا مرید بھی تھا۔ ایک دفعہ حضرت طوس میں گئے۔ تو لوگوں کو کہا حمزہ کو بلا لاؤ۔ لوگوں نے بتایا۔ حضرت وہ تو بگڑ گیا ہے۔ شراب نوشی میں غرق رہتا ہے۔ جام پر جام اٹھاتا جاتا ہے چالیس دن ہو گئے خود بھی پیتا ہے۔ اپنے غلاموں اور کنیزوں کو بھی پلاتا رہتا ہے۔ تمام کو عریاں رقص کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا۔ بڑی حیران کن بات ہے اس درگاہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتیں۔ اس سے زیادہ نہ کچھ کہا۔ نہ اعتراض کیا۔ لوگوں نے حمزہ کو خبر دی۔ کہ حضرت ابوسعید قدس سرہ طوس میں تشریف لائے ہوئے ہیں اب یہ بڑے کام چھوڑ کر انسان بن جاؤ۔ دوسرے دن پاک صاف ہو کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے اس سے اسی سابقہ محبت اور التفات کا برتاؤ کیا۔ اور اس کے بڑے کام کی طرف اشارہ تک نہ کیا۔

جن دنوں حضرت شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور میں قیام فرماتے تھے۔ تو حضرت شیخ ابوعبداللہ باکو



رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں ہی تھے وہ ان دنوں شیخ ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں رہا کرتے تھے۔ اور حضرت سلمی کی وفات کے بعد اسی خانقاہ کے پیر اور نگران بنے۔ یہ ابو عبد اللہ باکو حضرت شیخ سے جب بھی سوال کرتے طنزاً یا اعتراضاً کرتے۔ حضرت شیخ بڑے تحمل سے جواب دیتے یہ دن حضرت شیخ کو کہنے لگے کہ آپ میں مجھے چند چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو مشائخ میں نہیں پائی جاتیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ آپ بوڑھوں کو بھی نوجوانوں کے سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ بچوں کو بڑوں کے رویہ کھڑا کرتے ہو۔ چھوٹے بڑے کے درمیان کچھ فرق نہیں رکھتے نوجوانوں کو سماع کی مجالس میں رقص کی اجازت دیتے ہو ایک درویش فرقہ اتا رہتا ہے تو دوسرے کو دے دیتے ہو۔ اور کہتے ہو۔ الفقیر اقلیٰ بخیر قسۃ درویشوں کو فرقہ ہی اچھا لگتا ہے، یہ باتیں ہمارے پیروں اور بزرگوں کے ہاں نہیں پائی جاتیں۔ حضرت شیخ نے پوچھا کوئی اور بات بھی رہ گئی ہے؟ کہنے لگے۔ بس۔ آپ نے فرمایا۔ چھوٹے اور بڑوں کے ہات ہمارے نزدیک واقعی کوئی چھوٹا بڑا نہیں سب یکساں ہیں جو راہ طریقت پر چل پڑا اگرچہ جمان ہو۔ اسے بڑوں کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جو چیز ہم ستر سالہ بوڑھوں کو نہیں ہی ہو سکتا ہے ان نوجوانوں کو مل جائے۔ یہ اس کی دین ہے۔ اس میں ہم امتیاز نہیں کر سکتے۔ باقی رہی بات کہ نوجوان سماع میں رقص کرتے ہیں۔ یاد رکھو۔ نوجوانوں کے نفس خواہشات کے پتلے ہوتے ہیں۔ وہ جب ہاتھ مارتے ہیں تو خواہشات کم ہوتی جاتی ہیں۔ جب پاؤں جھاڑتے ہیں تو خواہشات بھڑتی جاتی ہیں۔ جب ان کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں تو بزرگوں کی صف میں مناسب طریقہ سے بیٹھتے ہیں۔ اگر ان کی خواہشات دبی رہیں تو گناہ کبیرہ کے ارتکاب کا خطرہ رہتا ہے ان کی خواہشات کی آگ سماع میں ہی ٹھنڈی ہو جاتی ہے فرقے محفوظ رکھنے سے یہ نائدہ ہوتا ہے۔ کہ انہیں فرقے کی محرومی کا احساس نہیں ہوتا اور ان کی نگاہیں دوسروں کے فرقے کی طرف نہیں اٹھتیں۔ اس طرح جمعیت دن حاصل رہتی ہے شیخ عبد اللہ نے آپ کی باتیں سنیں تو فرمایا۔ اگر ہم حضرت شیخ ابو سعید کو نہ دیکھتے تو زندگی بھر کسی صوفی کو نہ دیکھتے!

شیخ ابو عبد اللہ باکو رحمۃ اللہ علیہ ایک دن حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ  
آدابِ مجلس :- العزیز کی مجلس میں حاضر تھے۔ بڑے امیرانہ لباس میں سنہری کمر بند  
باندھا ہوا تھا حضرت نے انہیں دیکھا اسی دوران ایک اور شخص حضرت کی خدمت میں آگے  
بڑھا اور کہنے لگا۔ اللہ آپ کو بہشت دے حضرت نے فرمایا۔ ہمیں بہشت کی ضرورت نہیں بہشت  
میں معذور۔ لنگڑے۔ لوبے۔ اور فاقہ مست و دلش ہوں گے۔ وہ اندھے۔ مفلوج اور ضعیف پڑے  
ہوں گے ہمیں تو دوزخ کی ضرورت ہے۔ جہاں ہمیشہ۔ مزدور۔ فرعون اور ہامان جیسے اکڑ کر بیٹھے  
ہوں گے۔ ہمارے خواجہ عبد اللہ جیسے کمر بند لوگ بیٹھے ہوں گے۔ ہم تو ہاں جائیں گے جہاں ہمارے  
خواجہ ہوں گے یہ بات کہہ کر عبد اللہ باکو کی طرف اشارہ کیا۔ عبد اللہ سمجھ گئے بڑے نادم ہوئے شکستہ  
ہو گئے۔ جان گئے کہ میرے اس تکبرانہ انداز نے حضرت کو ناراض کر دیا۔ حضرت کے نزدیک آئے  
قدسوں میں گر پڑے تو بہ کی۔ اور آئندہ مکے سے اس تکبرانہ انداز کو ترک کر دیا۔ اور پھر مجلس میں کبھی اکڑ  
کر نہ بیٹھے۔

پیرجی آپ کا خاص درزی تھا۔ ایک دن اس نے حضرت کے کپڑے پھینچے اور ایسے وقت  
لے کر آیا۔ جب آپ دوپہر کو آرام فرما رہے تھے۔ آپ کا خادم خاص عبد الکریم حضرت شیخ کے سر ہانے  
بیٹھا تھا اور پنکھا چلا رہا تھا۔ جسی کپڑے پکڑے اندر آگیا۔ خواجہ عبد الکریم نے کہا۔ یہ کپڑے لانے کا  
وقت ہے۔ کہنے لگا۔ جہاں تم سما سکتے ہو۔ میں بھی سما جاؤں گا۔ عبد الکریم نے پنکھا تو ایک طرف رکھ  
دیا۔ اور تھپڑھی کو دے مارنے لگے سات تھپڑ مارے تھے کہ حضرت سوئے سوئے فرمانے لگے بس  
کانی ہیں۔ جسی باہر آگیا۔ اور خواجہ بخار سے شکایت کرنے لگا کہ خواجہ عبد الکریم نے میری یہ خاطر کی  
ہے۔ حضرت شیخ ابوسعید نماز کے لئے باہر آئے تو خواجہ بخار نے کہا۔ حضرت آج کل کے نوجوان  
بوڑھوں پر دست درازی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خواجہ عبد الکریم کا ہاتھ ہمارا ہی ہاتھ تھا۔  
ایک دن حضرت شیخ قدس سرہ العزیز نیشاپور میں مجلسی وعظ برپا کئے ہوئے تھے۔ شیخ  
ابوالقاسم قشیری قدس سرہ بھی مجلس میں بیٹھے تھے۔ حسین آباد گاؤں میں آٹاپینے کی ایک چکی پر

آپ کا دعویٰ تھا۔ کہ یہ آپ کی ہے۔ دوسری طرف ایک دیہاتی دعویٰ کرتا تھا۔ کہ یہ چکی اس کی ہے ایک تاری حضرت شیخ کی مجلس میں قرآن پڑھا تھا اس نے یہ آیت پڑھی **لَمِنَ أَمَلِكِ الْيَوْمِ** راج یہ ملک کس کا ہے؟ حضرت شیخ فرمانے لگے۔ میں تو مانتا ہوں کہ یہ ملک تیرا ہے۔ مگر ابوالقاسم قسیری کو مزا لیں وہ کہتے ہیں کہ حسین آباد کی چکی ان کی ہے!

ایک دن حضرت شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مجمع صبر و تحمل کی مثال :- کے ساتھ ایک بازار سے گزر رہے تھے ایک عورت نے چھت سے خاکستریچے ڈالی حضرت کے کپڑوں پر بھی پڑی۔ مگر آپ نے پرواہ نہ کی۔ مریدوں کو بڑا غصہ آیا۔ چاہتے تھے کہ اس عورت کو سبق سکھائیں۔ حضرت نے فرمایا۔ سبر کرو۔ جو شخص آگ کا مستحق تھا۔ اس پر تھوڑی سی خاکستریچہ پڑی ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے اس کا شکر ادا کریں آپ کی بات سن کر سارے صوفیا پر رفت طاری ہو گئی۔ اور کچھ کہے بغیر آگے بڑھے۔ اللہ اکبر!

ایک دن حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ اپنے حجر میں تشریف فرما تھے۔ آپ کی نوہمی فاطمہ بانو جو خواجہ ابوطاہر کی بیٹی تھیں۔ ایڑن پر سوت لپیٹ رہی تھی۔ اسی دوران دھاگہ الجھ گیا وہ بڑی متردد تھیں۔ آپ نے پچی کو یوں پریشان دیکھا تو فرمایا۔ فاطمہ آئندہ دھاگہ الجھا۔ یہ آیت پڑھ لینا **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَصَتْ خَزَايَاهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ** انکاشا۔ فاطمہ یہ پڑھ لیتیں اور دھاگے کا الجھاؤ ختم ہو جاتا۔

نیشاپور میں ایک دن حضرت ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ اجزیز گھوڑے پر سوار جا رہے تھے ایک گرجے کے دروازے کے سامنے سے گزرے۔ اتفاقاً اس دن اتوار تھا شہر کے تمام عیسائی گرجے میں جمع تھے۔ آپ کے مریدوں نے عرض کی۔ حضرت آج انہیں دیکھیں تو سہی یہ کیسے عبادت کرتے ہیں۔ حضرت شیخ نے بات مان لی۔ اور سارے گرجے کے احاطے میں داخل ہو گئے۔ عیسائیوں نے حضرت کو آتے دیکھا

بڑے حیران ہوئے۔ نہایت احترام سے استقبال کیا حضرت شیخ نے ایک قاری کو اشارہ کیا کہ: قرأت قرآن کرے۔ یہ مشترکہ مجمع جس میں عیسائی اور مسلمان دونوں تھے۔ قرآن سن کر رونے لگے شیخ اٹھے۔ اور مجمع سے باہر نکل آئے دوسرے دن ایک شخص نے کہا۔ وہ ایسا موقع تھا اگر حضرت حکم دیتے تو تمام عیسائی صلیبیں پھینک دیتے۔ آپ نے فرمایا ہم نے تو صلیبیں نہیں لگوائیں تھیں کہ پھینکوانے کا حکم دیتے۔ نہ ہی زنا بندھوانے تھے۔ کہ توڑنے کا حکم دیتے۔

ایک دن حضرت شیخ قدس سرہ نیشاپور میں مجلس وعظ میں بیان فرمایا کہ: **گوہر خدمت خالق** رہے تھے۔ دربان وعظ فرمایا۔ ہماری خانقاہ میں اوپر سے لے

کر نیچے تک موتی بی موتی بھرے ہوئے ہیں آپ دُک انہیں کیوں نہیں اٹھاتے لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا مگر موتی نہیں دکھائی نہ دیئے بنسے لگے حضرت یہاں تو موتی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ مخلوق کی خدمت کر۔ خدمت کر دیہی موتی ہیں!

جن دنوں خواجہ ابوظہر حضرت شیخ کے بڑے صاحبزادے قدس سرہ **سورہ الم نشرح** ابھی چھپتے تھے آپ کے ہم سبق بچوں نے صاحبزادہ کی تثنیٰ اٹھائی اور آپ کے گھر لے آئے۔ خواجہ حسن نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا۔ بچے ابوظہر کی تثنیٰ اٹھالائے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا۔ اس پر کیا لکھا ہوا ہے عرض کیا سورہ الم نشرح حضرت نے فرمایا۔ ان بچوں کو پھل پیش کر دجس نے کچھ پھل بچوں کے سامنے رکھا۔ حضرت نے فرمایا۔ تمہارا مائیر مہتر کون ہے۔ ایک لڑکے کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ یہ وہ ہے! فرمایا۔ کتب میں اساد کو کہیں آئندہ تثنیٰ پر سورہ الم نشرح نہ لکھو! بلکہ سورہ الم نشرح لکھائیں۔

نیشاپور میں حضرت کی خانقاہ کے متصل ایک بڑھیا عورت کا **بڑا بزرگ چھوٹا غصہ**۔ حجرہ تھا۔ وہ ہمیشہ ہاون دستہ ہاتھ میں پکڑے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی۔ درویشوں کے ذکر و اذکار میں خلل ہوتا۔ ایک دن درویشوں نے حضرت کی خدمت میں آیت کی۔ مگر حضرت نے کچھ نہ کہا۔ ایک دن وہ بڑھیا گھر پر موجود نہ تھی۔ درویشوں نے صلح کی اور اس

کا حجرہ گرا دیا۔ تاکہ ہاون دستے کی بجائے کچھ عرصہ تک اپنا حجرہ بناتی رہے گی۔ بڑھیا واپس آئی۔  
تو حجرہ گرا ہوا دیکھا کہ کہنے لگی۔ افسوس۔ اتنے بڑے بزرگ اور اتنا چھوٹا سا عرصہ!

ایک دن حضرت شیخ قدس سرہ حمام میں گئے۔ اسی دوران خواجہ امام ابو محمد جوینی قدس سرہ  
آپ سے ملنے کو آئے۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ تو حمام میں گئے ہیں۔ خواجہ امام بھی حمام کی طرف  
چلے گئے۔ حضرت شیخ سے ملے۔ تو آپ نے فرمایا۔ حمام بہت اچھا ہے۔ خواجہ امام نے کہا۔ ہاں اچھا  
ہے۔ فرمایا۔ کیوں اچھا ہے؟ خواجہ امام نے کہا۔ کیونکہ اس میں حضرت شیخ جلوہ فرما ہیں۔ آپ نے  
فرمایا۔ اس سے کوئی اچھی توجیہ فرما ہیں۔ خواجہ امام نے عرض کی آپ ہی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا۔  
اس سے کہ آپ یہاں ہیں اے ہیں۔

خواجہ ابوالفتح رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار عراق کے چند  
اصلی صوفی :- عقیدت مند حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے

اور آپ کے بڑا قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کر کے لئے حضرت کی خدمت میں پیش کیا تو آپ  
نے ان لوگوں کی خوشی کے لئے انہیں پہن لیا۔ اچھی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ کہ آپ کی خانقاہ  
کی تہی جو اکثر گھر میں گھومتی پھرتی رہا کرتی تھی۔ آپ کے اس مرقع کو دیکھ کر آئی لوگوں کے  
سامنے ان کپڑوں پر پیشاب کر کے بھاگ گئی۔ حضرت بتی کی یہ حرکت دیکھ کر فرمانے لگے۔ ہم نے سوچا  
تھا کہ عراق کا تحضہ پہن کر بڑے صوفی اور بزرگ نظر آئیں گے۔ مگر اس جلی نے ہماری صوفیت پر پیشاب  
کر دیا ہے۔ یہ لباس لے ہیں۔ اور ابوالفتح کو دے دیں۔ اصلی صوفی وہی ہے۔ چنانچہ لباس اتار کر  
ابوالفتح کو دے دیا گیا حضرت ابوالفتح نے پہن لیا۔ اور حضرت کے بعد آپ فخریہ فرمایا کرتے کہ ہمیں  
تو بتی کی مہربانی نے اصلی صوفی بنا دیا ہے۔

مجھے ایک نیک سیرت بزرگ نے بتایا۔ کہ جن دنوں ہمارے شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور  
میں قیام فرماتے تھے۔ تو تمام طبقوں کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور بیعت کرتے مشائخ  
علماء اور اساتذہ بھی آپ سے بیعت ہونے لگے۔ جو لوگ آپ کی بزرگی کے منکر تھے۔ وہ بھی آپ

کے عقیدت مند بن گئے۔ ان دنوں قاضی ابو بکر حیرہ وقت کے بہت بڑے عالم اور امام عصر تھے۔ زینشا پور میں چار ابو بکر نامی بزرگان دین مدفون ہیں جن کے مزارات مستجاب الدعوات میں ہیں۔ قاضی ابو بکر قدس سرہ انہیں میں سے ایک ہیں، ایک دن قاضی ابو بکر نے دعوت کا اہتمام کیا۔ اور شہر کے تمام آئمہ اور مشائخ کو شریک دعوت کیا۔ حضرت ابو سعید قدس سرہ کو بھی دعوت دی گئی۔ تمام حضرات جمع ہوئے تو علماء کرام نے اپنے معمول کے مطابق بعض مسائل پر گفتگو شروع کی اسی دوران ہر مذہب کے امام کی افضلیت پر گفتگو ہونے لگی۔ ہر ایک اپنے امام فقہ کی فضیلت دوسروں سے زیادہ بتاتا۔ اور دوسرے مذاہب کی تنقیص پر اظہار خیال کرتا۔ یہ موضوع وسیع ہوتا گیا۔ حتیٰ کہ سلسلہ گفتگو ختم ہونے کو نہ آتا۔ تمام حضرات اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم قرآن حکیم کو حکم اور منصف بناتے ہیں اور اسی کے فیصلہ پر خاموشی اختیار کر لی جائے گی۔ کیونکہ قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے لَا رَطْبَ وَلَا يَابِسَ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينٍ۔ (دنیا کی کوئی خشک و تر چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ کیا گیا ہو) ہر مذہب کے تصور سے قرآن پاک کی جلد کھولا جائے۔ اور جو آیت کریمہ سامنے آئے اُسے فیصلہ جانتے ہوئے عمل کیا جائے اور بحث ختم کی جائے۔ اس کے بعد کوئی عالم دین بھی دوسرے پر طعن و تہلیل نہ کرے۔ قرآن پاک کی ایک جلد لائی گئی۔ تمام اس بات پر متفق ہو گئے۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ آپ قرآن پاک کا کوئی سا صفحہ کھولیں انہوں نے فرمایا یہ قرآن میرے مطالعہ میں رہتا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کو یہ شبہ پڑے کہ میں نے نشان زدہ صفحات کھول دیئے ہیں۔ اس لئے کوئی اور صاحب کھولیں۔ ہر ایک کو کہا گیا مگر سب نے عذر پیش کیا۔ آخر کار سب نے اتفاق کیا کہ حضرت شیخ ابو سعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کھولیں گے۔ وہ صاحب حال بزرگ ہیں۔ ان کی راہنمائی سب کے لئے قابل قبول ہوگی۔ حضرت کو قرآن پاک کی جلد پکڑا دی گئی۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کہا۔ کیا مذہب شافعی حق ہے؟ قرآن کا ایک صفحہ کھولا اور دائیں جانب سے ساتویں خط

پڑھی لکھا تھا۔ ولایتوں کا حق ہو قُلْ اَبی و دبی و انہ لِحَقِّ۔ (لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ آپ فرمادیں میرا اللہ حق ہے، آپ نے جو نہیں بہ آئینہ کہ یہ پڑھی تمام حاضرین قرآن کے اس معجزہ سے متعجب ہو گئے اور کہنے لگے۔ اب یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے۔ پھر کسی نے دوسری بار قرآن کھونے کو نہ کہا۔

اس واقعہ سے کئی لطائف اور اسرار ظاہر ہوئے ایک یہ کہ مذہب شافعی از روئے قرآن حق اور سچا ہے اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرے مذاہب جھوٹے ہیں۔ ما شارکاً دوسرے یہ کہ جب تم کوئی دینی کام کرنے لگو۔ اور فیصلہ نہ کر سکو تو کون کون کام زیادہ اچھا ہے تو قرآن سے فیصلہ لے لیا کرو کیونکہ اس معاملہ میں اب روم کے تمام بزرگان دین آئینہ کبار اور مشائخ کرام متفق ہیں۔ خواجہ امام ابو محمد جوینی۔ آپ کے بیٹے امام الحرمین قاضی صاعد علی بن مہدی ابو بکر اسحاق استاد اسماعیل صابونی استاد امام ابو القاسم قشیری اور دوسرے بلند پایہ علماء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین جیسے موجود تھے۔ یہ لوگ کسی نہ کسی مذہب یا سلسلہ کے مقتدا مانے جاتے ہیں۔ کسی نے بھی اس طریق کار پر اعتراض نہ کیا تیسری بات یہ ہے کہ ہر کام کا آغاز دائیں جانب سے ہونا چاہیے۔ خصوصاً دینی معاملات میں دائیں ہاتھ کو مقدم جانا چاہیے جو تھے یہ کہ ہر بات طاق سے کرنا چاہیے۔ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر عمل ہو۔ ان اللہ تعالیٰ و تسریح الوتر اللہ ایک ہے۔ اور ایک طاق کو ہی پسند فرماتا ہے، اگر ہم اس واقعہ کی تفصیلات اور ان کے فوائد بیان کرتے جائیں تو ایک دفتر درکار ہے۔

حضرت شیخ نیشاپور سے روانہ ہو کر میلنہہ کو آرہے تھے راستہ میں ترکمانوں کا حملہ ہوا۔ طوس کے دروازہ نو بہار میں پہنچے۔ حضرت تنہا سوار تھے۔ اور دوسرے ساتھی پیچھے آرہے تھے۔ یہ ترکمانوں کے حملوں کے آغاز کا زمانہ تھا۔ سارا خراسان بد امنی کا شکار ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں چار پانچ ترکمانوں نے حضرت شیخ کو آگھیرا۔ اور حضرت شیخ کا گھوڑا پھینکا چاہا۔ آپ نے فرمایا۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو۔ انہوں نے حضرت کو کہا

نیچے اتر آئے۔ آپ نے فرمایا۔ مجھے چار آدمی مل کر گھوڑے پر بٹھاتے ہیں۔ ابھی انہیں آئینے دو یہ گھوڑا تمہارا ہوا۔ اسی اثنا میں حضرت کے بہت سے ساتھی آپہنچے۔ آپ نے انہیں کہا۔ مجھے اس گھوڑے سے اتار لو اور یہ گھوڑا انہیں دے دو۔ ساتھیوں نے کہا۔ حضرت ہم تو یہ گھوڑا ہرگز نہیں دیں گے ہم مقابلہ کریں گے۔ حضرت نے فرمایا نہیں ہم نے کہہ دیا ہے۔ کہ یہ گھوڑا انہیں دینا ہے۔ چنانچہ سب نے حضرت کو اتارا اور گھوڑا انہیں دے دیا۔ ترکان گھوڑا لے کر چلے گئے آپ وہ رات ایک گاؤں میں رہے۔ دوسرے دن عصر کے وقت بہت سے ترکان آپ کا گھوڑا لئے حاضر ہوئے۔ گھوڑا واپس کیا اور ایک اور خوبصورت سا گھوڑا نذر کیا۔ اور حضرت سے معافی کے خواستگار ہوئے اور کہنے لگے۔ حضرت یہ نادان نوجوان غلطی کر بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا۔ ہم گھوڑا واپس نہیں لیں گے جس گھوڑے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں پھر اس پر سواری نہیں کرتے آپ کی بات سن کر تمام ترکان تائب ہوئے اپنے سر منڈا ڈالے اور حضرت کی برکت سے اسی سال حج پر چلے گئے۔

جن دنوں حضرت شیخ نیشاپور کی خانقاہ میں وعظ فرمایا کرتے تھے ایک بوڑھی عورت کا گھر آپ کے مکان کے پاس ہی تھا۔ وہ عورت آپ کو وعظ کہتے سنتی مگر ان کی مجلس میں آنے کی بجائے حضرت امام ابو القاسم قشیری کی مجلس وعظ میں چلی جاتی۔ ایک عرصہ تک اس کا یہی معمول رہا۔ لوگوں نے اسے بار بار کہا کہ قریب وعظ چھوڑ کر وہاں کیوں جاتی ہو۔ نہایت درد سے کہنے لگی۔ میں کیا کروں۔ حضرت کو میں دیکھ نہیں سکتی۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے لئے میری آنکھیں کھولی گئی ہیں۔

ایک دن حضرت شیخ نیشاپور میں ہی مجلس وعظ میں تشریف فرما تھے۔  
**دل کی خوشی** آپ کے ہاتھ میں ایک ٹپکا تھا۔ فرمانے لگے تیس ہزار دینار۔  
نیشاپوری کی ضرورت ہے جو شخص یہ پگڑی خرید کر حسن مودب کو تیس ہزار دینار دے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ ایک بوڑھی عورت نے آواز دی میں دوں گی۔ لوگوں نے کہا۔ مائی!



تین ہزار دینار نیشاپوری ہیں؛ کہاں سے لاؤ گی۔ کہنے لگی۔ میں جانتی ہوں۔ بوڑھی اٹھی اور جو کچھ والدین سے لائی تھی اور اپنے خاوند سے حاصل کیا تھا۔ سارے کا سارا حضرت کے سامنے لے آئی شیخ نے بلند آواز سے کہا۔ مبارک باد۔ گڑھی عورت کو پکڑا دی اور روپیہ حسن مودب کو فرمایا۔ حسن اب کہو۔ اس کے لئے کیا دعا کروں۔ حسن نے اس بوڑھی سے پوچھا کیا دعا چاہتی ہو۔ بوڑھی نے کہا دعائے دل خوشی حسن نے شیخ کو کہا۔ اور حضرت شیخ مسکرا دیئے۔ اور فرمایا۔ اے سلیم القلب بی بی۔ تم نے ددیت۔ جاہ۔ کیوں نہ مالگا۔ ہمیں ستر سال ہو گئے ہیں دل خوشی کو تلاش کرتے کرتے مگر ابھی تک اس کی خوشبو مشام جان تک نہ پہنچی تو نے یہ کیا مانگ لیا!۔

ایک دن حضرت شیخ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے۔ نیشاپور کے ایک سید امام آپ کو سلام کہنے آئے تھے اور حضرت کے پہلو میں بیٹھے تھے اسی اثنا میں شیخ ابوالعباس ثقفانی بھی تشریف لے آئے حضرت نے آپ کو سید امام کے پاس پرے بٹھا دیا۔ سید زادے کو یہ بات ناگوار گزری کہ اتنا بڑا آدمی اور پرے کر بٹھا دیا جائے حضرت شیخ نے سید زادے کے چہرے کے تاثرات پڑھ کر کیا۔ میاں سید زادے ان بزرگوں کو جو رتبہ حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مگر آپ کا جو احترام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔

از برائے مصطفیٰ :-  
سردار باش :-  
ایک بار حضرت شیخ قدس سرہ نیشاپور کے بازار میں جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ ہی صوفیاء کی ایک جماعت تھی آپ بازار میں چند لمحات رکے تو بازار میں بہت بڑا مجمع ہو گیا دوسری طرف سے بعض لوگ طوطیاں بجاتے نیم عریاں حالت میں چلے آ رہے تھے۔ ان کے پاؤں میں چمڑے کے موزے تھے۔ اور ایک شخص کو گردن سے دبائے آگے بڑھے۔ جب حضرت شیخ کے قریب پہنچے تو آپ نے دریافت کیا۔ یہ کون ہے؟ بتایا کہ یہ جوئے بازوں کا سردار ہے آپ نے پوچھا۔ تمہیں یہ سرداری کیسے ملی۔ کہنے لگا۔ حضرت راستبازی۔ اور پاک بازی

سے آپ نے سن کر نعرہ لگایا۔ اور فرمایا۔ راستباز۔ پاک باز۔ اور سردار۔ باکش !  
خواجہ علی طوسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کے سسر تھے۔ دسترخوان پر  
حضرت شیخ کے ہم نوالہ وہم کا سہ بھی تھے۔ حضرت شیخ پہلے کھانے کے مسنون طریقے اور آداب  
مجلس لیکھا کرتے تھے۔ ایک دن خواجہ علی ایک پیالہ دھو رہے تھے۔ حضرت شیخ نے پوچھا۔ آپ  
کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے۔ پیالہ پاک کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسے دھو دھو کر تمہارا دینا  
دوسرے دن کھانا کھاتے وقت حضرت خواجہ اپنی جگہ سے ہٹ کر ایک گوشے میں بیٹھے۔ دسترخوان  
بچھا حضرت شیخ نے کہا۔ آج مجھے خواجہ علی نظر نہیں آ رہے۔ لوگوں نے بتایا وہ ایک گوشے میں  
بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ ہمارے نزدیک آ کر بیٹھیں۔ آپ کا بوجھ ہم برداشت کریں گے۔  
دوسرے کیوں کریں۔

خواجہ ابوالفتح کی روایت کے مطابق جب خواجہ گل شکانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت  
شیخ قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت بڑے ظریف اور خوش مذاق نوجوان  
تھے بڑے خوبصورت کپڑے پہنا کرتے۔ ایک بار حضرت شیخ کی کسی نے دعوت پکائی۔ آپ اپنے  
صوفیاء کے ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت کی عادت تھی۔ صوفیاء کی جماعت آگے آگے ہوتی۔ آپ  
پیچھے؛ خواجہ گل حضرت شیخ کے آگے آگے جا رہے تھے۔ اور اپنے لباس اور رفتار پر بار بار  
نگاہ ڈالتے۔ حضرت شیخ نے دیکھا کہ خواجہ گل آگے آگے نہ جاؤ۔ خواجہ گل آپ کے پیچھے پیچھے  
چلے گئے۔ حضرت شیخ نے فرمایا۔ خواجہ پیچھے پیچھے نہ چلو وہ دائیں طرف چلو۔ گاہے گاہے حذر قدم  
چلے تھے تو حضور نے فرمایا خواجہ دائیں ہاتھ نہ چلو۔ خواجہ آپ کے بائیں طرف ہو کر چلنے  
لگے۔ حضرت نے فرمایا خواجہ بائیں ہاتھ نہ چلا کرو۔ خواجہ تنگ دل ہو کر کھڑے ہو گئے  
اور کہنے لگے حضرت پھر کس طرف نہ چلوں۔ آپ نے فرمایا۔ اپنے آپ میں رہو اور سیٹھ  
چلتے جاؤ۔

ۛ تابا تو توئی ترا بدیں حرف چہ کار کین آب حیوان ہست ز آدم بنیرا

یہ بات سنتے ہی خواجہ گل جوم اٹھے۔ شیخ کے قدموں میں گر پڑے۔ توبہ کی سفر  
حجاز پر روانہ ہوئے اور بندگان خاص سے ہو گئے۔

خواجہ ابوالفتح کی روایت ہے کہ حضرت شیخ قدس سرہ ایک دفعہ نیشاپور سے  
روانہ ہوئے اور ملینہ میں آ رہے تھے۔ ایک بہت بڑا ہجوم آپ کے ساتھ تھا۔ دوسرے  
دن مشہد میں ایک مجلس میں بیٹھے وعظ فرما رہے تھے۔ حدنگاہ تک حاضرین بیٹھے ہوئے  
تھے۔ بڑا اچھا وقت بنا ہوا تھا۔ لغزہ تجیز سبحان اللہ۔ مرجا بلند ہو رہے تھے حاضرین  
پر ایک کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ حضرت کے ہمسایہ میں ایک شخص رہتا تھا جسے احمد بوشہ  
کہتے تھے اس کا معمول تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ساری رات شراب نوشی میں  
مشغول رہتا۔ اور ہاھو کا شور رہتا۔ یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا۔ اس کے اس فعل سے  
حضرت کے خادم صوفیہ اور دوسرے عقیدت مند بڑے نالاں تھے۔ سب نے یہ پروگرام  
بنایا کہ لے رہاں سے ہٹا دیا جائے اور اس کا مکان منہدم کر دیا جائے تاکہ یہ تماش بیوں  
کا اثر ختم ہو جائے حضرت نے بھی ان کی یہ باتیں سنیں۔ تو فرمانے لگے۔ سبحان اللہ۔  
ایک باطل کا اتنا اثر ہے کہ تم لوگ حق چھوڑ کر اس کے درپے ہو گئے ہو۔ تم اپنے حق اور  
صداقت میں اتنے کچے ہو۔ کہ اس کے سرور کو چھوڑ کر باطل کے درپے ہو گئے ہو۔ جانا کہ  
حق کی روشنیوں کا یہ اثر ہونا چاہیے کہ باطل ان کے سامنے ماند پڑ جائے۔ حضرت کی بات  
سن کر سب کے سب دم بخود ہو گئے بعض زہم دل رونے لگے اور خاموش رہے وہ دن  
گزر گیا۔ حضرت نے کچھ نہ کہا۔ اور نہ ہی وعظ کیا۔

دوسرے دن خواجہ ابوالفتح اپنے والد مکرم حضرت شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کی  
خدمت میں حاضر تھے۔ احمد بوشہ حضرت کے سامنے سے گزرا۔ مگر سر جھکائے گزر گیا۔ یوں  
محسوس ہوتا تھا کہ وہ شرمندگی سے حضرت سے آنکھیں نہیں ملا سکتا وہ آگے چلا گیا  
مگر حضرت نے اسے آواز دیکر بلایا۔ اور کہا "اسلام علیکم" ہم دونوں کی آپس میں دشمنی

تو نہیں ہے۔ ہم تو ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں اور نیک ہمسائے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اگر کبھی آپ کے ماں مہمان آجائیں۔ اور کسی چیز کی ضرورت پڑے تو بلا تکلف منگوا لیا کریں۔ اگر کوئی خدمت درکار ہو تو بلا کم و کاست حاصل کر لیا کریں۔

یہ بات سنتے ہی احمد بوشتر نے حضرت کے قدم چوم لئے اور کہنے لگا حضرت آئندہ ایسا کبھی نہیں ہو گا۔ کہ آپ کے آرام میں خلل ہو۔ تو بہ کرتا ہوں۔ اور مرید ہوتا ہوں۔  
خواجہ ابوالفتح فرماتے ہیں۔ زیادہ عرصہ نہ گزارا تھا۔ کہ حضرت شیخ کا وصال ہو گیا ہر ایک کو وصیت کی گئی۔ احمد بوشترہ ادب سے کھڑا ہو گیا۔ اور کہنے لگا۔ حضرت میں بوڑھا ہوں گیا ہوں۔ ابھی تک روشنائی نظر نہیں آئی آپ جا رہے ہیں میں کیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا نکر نہ کرو۔ جس کی نگاہوں نے میرے چہرے کو دیکھ لیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل کرم کی باریش ہونے لگتی ہیں۔

خواجہ ابوالفتح فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ کا دستو تھا کہ بدھ دار کو حمام میں جاتے۔ نہاتے۔ لباس بدلتے اور کچھ وقت گزارتے۔ ایک بار شیخ محمد جوینی قدس سرہ آپ کو ملنے آئے۔ مگر آپ کے متعلق دریافت کر کے حمام میں ہی چلے گئے۔ آپ نے فرمایا خواجہ! یہ حمام کی آسائش اور سکون کیوں کر ہے۔ خواجہ نے فرمایا۔ لوگ تھکے ماندے آتے ہیں۔ گرم پانی سے نہاتے ہیں۔ گرم فضا میں انہیں سکون ملتا ہے اور انہیں آرام ملتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس سے کوئی بہتر چیز بیان کرو۔ خواجہ محمد جوینی نے کہا۔ حضرت سارا ہفتہ لوگ اپنے اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں۔ کپڑے میسے ہو جاتے ہیں۔ بدن ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ بال بڑھ جاتے ہیں یہاں آتے ہیں نہاتے ہیں لباس بدلتے ہیں۔ بال ترشواتے ہیں حجامت بناتے ہیں اعصاب پر دباؤ اور تھکاوٹ سے سبکسار ہوتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے آپ کو خوش تر پاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ خواجہ اس سے بھی اچھی بات سناؤ خواجہ

محمد جوینی کہنے لگے۔ حضرت اب آپ کچھ بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا۔ دو مخالف طبیعتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں لیکن آپس میں شکر و شکر ہو جاتے ہیں انہیں اپنی مخالفت بھول جاتی ہے۔ خواجہ محمد جوینی رو پڑے اور کہا حضرت جو بات آپ کو سو بھتی ہے اس کی طرف کسی کا خیال بھی نہیں جاتا۔

غزورِ خرد :- ایک دن حضرت شیخ قدس سرہ د عظم فرما رہے تھے۔ اسی مجلس حضرت خواجہ ابوالحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے بھی موجود تھے آپ نے دوران گفتگو فرمایا عہد نبوت سے لے کر آج تک جو بزرگان دین نجات یافتہ ہیں۔ ان کا ایک مکمل سلسلہ اور رابطہ ہے۔ ان میں سے اس صاحبزادے کے والد مکرم خواجہ ابوالحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خواجہ فرقانی فرمایا کرتے تھے کہ علماء امت کافر تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو نورِ عقل سے دیکھا جاسکتا ہے۔ میں نے اللہ کو عقل سے دیکھنے کی کوشش کی تو اپنے آپ کو نابینا پایا۔ جب تک اللہ تعالیٰ وجدان کی روشنی نہ دے۔ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اور نہ اسے کچھ نظر آسکتا ہے میں نے ہزاروں کا ہاتھ پکڑا ہے۔ اور غزورِ عقل کے اندھیرے سے باہر لایا ہوں۔

میرے والد مکرم نور الدین منور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نیشاپور کے قیام کے دوران کہیں جا رہے تھے۔ آپ بازارِ حرب میں پہنچے۔ دکانیں آراستہ اور پڑمیوہ تھیں۔ نیشاپور کے تمام بازاروں میں سے یہ بازار نہایت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ حضرت وہاں پہنچے تو پوچھا۔ اس بازار کو کیا کہتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا۔ حرب! آپ نے فرمایا۔ سبحان اللہ جن لوگوں کے بازارِ حرب کا یہ عالم ہو۔ ان کے بازارِ صلح کی کیا رونق ہوگی۔ میرے والد مکرم نے مزید فرمایا۔ ایک دن میرے والد مکرم مجلسِ وعظ سے فارغ ہوئے تو باہر ایک تخت پر تشریف فرما ہوئے قاریانِ خدش الحان بھی موجود تھے۔ اور دوسرے لوگ بھی مختلف مسائل پر گفتگو کر رہے تھے ہر شخص کسی نہ کسی مسئلہ پر دریافت کر رہا تھا۔ حضرت دیکھ رہے تھے لوگ پوچھتے رہے آپ نے فرمایا۔

گر میں نختن زیاد و ادم دست باور و دنا۔ و طوس یا دمن بس

اگر میں ختن میں بیٹھے بیٹھے یار کے لئے باز دکشادہ کروں۔ ورد۔ نسا اور طوس کے  
دولت سما جائیں۔

وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین فرماتے ہوئے۔ منہ پر ہاتھ پھیرا تخت سے نیچے آئے  
اور پھر مزید کچھ نہ کہا۔ سارا دن گزر گیا۔ آپ نے کچھ بیان نہ کیا۔ حضرت شیخ کی ابتدائی زندگی  
میں مینہہ کے لوگ آپ کے منکر تھے۔ اکثر مخالفت کرتے۔ مینہہ کا رئیس خواجہ حمویہ نے سرخس سے  
ایک عالم کو بلایا۔ یہ عالم پر لے درجے کا متعصب اور بزرگان دین کا منکر تھا۔ اس نے فتویٰ دیا  
کہ حضرت کی مجالس میں جانا خلاف شریعت ہے۔ ایک دن حضرت شیخ کی مجلس وعظ میں عالم دین  
حمویہ بھی تشریف لے گئے۔ کسی نے مجلس سے اٹھ کر حضرت شیخ سے سوال کیا۔ حضرت کی کپڑے کا  
خون پاک ہے یا پلید۔ اور اس کا خون کس قدر کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا دھونا چاہیے۔ حضرت  
نے خواجہ حمویہ کی طرت اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کی کپڑے کے مسائل تو امام حمویہ سے دریافت  
کریں یہ ان مسائل کے ماہر ہیں۔ ہم سے تو حضور کی حدیث کی بات پوچھئے۔

۵۔ ازما بخر حکایت مہر و دونا پیرس!

شیخ کا دستور تھا۔ کہ اپنے خادم خواجہ حسن مودب کو ہر جمعہ کے دن خواجہ حمویہ کی خدمت میں  
بھیجا کرتے۔ ان کے حالات دریافت فرماتے کوئی نہ کوئی پیغام دیتے اور مزاج پرسی کرتے۔ آپ  
کے اس طریقہ محبت سے حضرت خواجہ حمویہ کو بڑی خوشی ہوتی۔ اور حضرت کی توجہ پر فخر کرتے ایک دن  
جمعہ کے دن سخت سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ برفانی طوفان چل رہے تھے حضرت شیخ کو ایک سدا  
پر شورہ بیٹا تھا۔ حضرت نے خواجہ حسن مودب کو بلایا۔ اور فرمایا۔ خواجہ حمویہ کے پاس جاؤ ہمارا  
سلام کہو۔ اور کہنا کہ آج سخت سردی ہے۔ اگرچہ آج بات کرنے کے حالات تو نہ تھے۔ مگر میں  
اس لئے حاضر ہو گیا ہوں۔ کہ آپ کا دل مغموم نہ ہو جائے اور یہ خیال نہ آئے کہ شیخ نے سڑیوں  
کے طوفانوں کے سامنے خلوص و محبت کو جھکا دیا ہے۔

ایک دن حضرت شیخ مجلس فرما رہے تھے۔ مجلس کے دوران فرمایا۔ ایک وقت آئے گا

کہ انسان ایک جگہ سال بھر بھی مقیم نہ رہ سکے گا۔ کسی حجرہ میں پانچ دن تک آرام نہ پاسکے گا کسی مسجد میں ایک دن تک قیام نہیں کر سکے گا۔ آپ نے مزید فرمایا۔ کہ ایک نوجوان ایک بوڑھے کے پاس آیا۔ کہنے لگا۔ بابا۔ ہمیں کوئی بات تو بتاؤ۔ بوڑھے نے سر نیچے جھکایا۔ پھر سر اٹھا کر فرمایا۔ نوجوان! تم ابھی تک انتظار کر رہے ہو۔ اس نے کہا۔ ہاں بابا! فرمایا۔ جو کچھ بھی اللہ کے سوا ہے اس کے متعلق بات کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور جو چیز اللہ کے اسرار میں سے ہے۔ وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جاسکتی۔

ان اللہ تعالیٰ اجل من ان یوصف اذ یدکر زید کربا۔

جن دنوں حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ نیشاپور میں تھے۔ ایک دن لوگوں نے آپ کو ایک خانقاہ میں دعوت دی تاکہ وعظ کر سکیں۔ یہ خانقاہ حضرت سید اجل حسن کے گھر کے ساتھ ہی تھی۔ رات کو مجلس سماع گرم ہوئی صوفیا پر حالت وجد طاری ہوئی تو ہر طرف حق ہوکا شور برپا ہوا۔ بعض صوفیا رقص کرنے لگے۔ اس شور و غوغا سے سید حسن کی نیند اچاٹ ہو گئی اپنے خادموں سے پوچھا کہ یہ کیا شور و شر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خانقاہ صدوقی میں شیخ ابوسعید آئے ہوئے ہیں اور صوفیا اس وقت وجد میں آکر رقص کر رہے ہیں سید حسن ان دنوں صوفیا کے سخت خلاف تھے اور ان کے اطوار و احوال سے منکر تھے۔ انہوں نے اپنے آدمیوں کو کہا چھت پر چڑھ کر ان صوفیوں پر پتھر اوڑھ کر دو۔ چنانچہ سید حسن کے ملازم کوٹھے پر چڑھ گئے۔ اور دیوار کی اینٹیں اکھاڑ اکھاڑ مجلس میں برسائے لگے صوفیا کو بڑی تکلیف ہوئی۔ حضرت شیخ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا۔ سید حسن اجل کے ملازم اینٹیں برسائے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو اینٹیں پھکیں گئی ہیں میرے پاس لاؤ۔ لوگ لے کر آئے تو آپ ایک ایک ٹکڑے کو اٹھاتے۔ بوسہ دیتے اور آنکھوں پر لگاتے جاتے اور ایک طباق میں رکھتے جلتے تھے اور فرماتے کہ خاندان نبوت جو کچھ بھی دیں اسے تبرک سمجھیں اور اسے دل و جان سے قبول کریں۔ ہماری وجہ سے ایک سید زاوے

کی نیند میں خلل آیا ہے اور ہم بازار عدنی گویاں میں چلیں اسی وقت اٹھے گھوڑے پر سوار ہوئے اور سارے مجمع کے ساتھی بازار عدنی گویاں میں چلے گئے۔ سید حسن کے خادموں نے دیکھا۔ تو نیچے اتر آئے۔ اور سارا واقعہ سید حسن کو سناتے جاتے۔ اور ساتھ ہی روتے جاتے۔ سید حسن نے سمجھا ان لوگوں کو صوفیاء نے مارا ہے۔ پوچھا تم لوگ روتے کیوں ہو۔ انہوں نے سارے حالات تفصیل سے بیان کئے تو سید حسن بے حد شرمسار ہوئے اس شرمساری کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ سید حسن بیمار ہو گئے۔ بستر پر پڑے روتے جاتے اور کہتے کہ میں نے صوفیاء کا دل دکھایا ہے اس کیفیت سے صوفیاء کے خلاف نفرت کے جذبات ختم ہو گئے۔ دل کی دنیا بدل گئی۔ ساری رات کروٹیں پیتے گزری۔ دوسرے دن علی الصبح اٹھے حکم دیا کہ میری سواری تیار کریں۔ سوار ہو کر حضرت شیخ قدس سرہ کی خانقاہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ رات کے واقعہ کی معافی طلب کریں اور حضرت شیخ بھی صبح صبح اٹھ کر صوفیاء کی ایک جماعت کے ساتھ سوار ہوئے۔ اور سید حسن کے گھر کو آ رہے تھے۔ تاکہ رات کے واقعہ پر معافی مانگیں۔ دونوں بزرگ نیشاپور کے چوک میں ملے۔ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ اور عذر کرنے لگے۔ اور ہر ایک دوسرے سے کہتا۔ آپ اپنے گھر واپس جائیں میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔ سید اجل نے کہا۔ حضرت اگر آپ اپنے گھر واپس جائیں تو میں سمجھوں گا آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں خدمت میں حاضر ہو کر معافی طلب کروں گا حضرت نے فرمایا۔ مجھے سید زادہ کے حکم کی تعمیل عزیز ہے۔ واپس آئے دونوں حضرات نے ایک دوسرے سے معذرت چاہی۔ ایک دوسرے کو معاف کیا۔ تمام صوفیاء کے دلوں کا غبار مٹ گیا۔

حضرت سید اجل عرض کرنے لگے۔ اگر حضرت شیخ آج رات ہمارے غریب خانہ میں قدم رنجہ فرمائیں۔ تو میرے لئے باعثِ صد افتخار ہو گا۔ حضرت شیخ اسی رات سید اجل کے گھر گئے۔ سید حسن نے بڑے پر تکلف طریقہ سے دعوت کی۔ آپ کے آداب کو برقرار رکھا۔ دونوں حضرات ملے صوفیاء اور ملازم اکٹھے رہے۔ اس دن سے سید اجل حضرت شیخ سے ارادت و محبت کرنے لگے۔ پناہ حضرت شیخ جب تک نیشاپور میں رہے۔ سید حسن اجل نے آپ پر تیس ہزار دینار



خرج کئے۔

ایک دفعہ حضرت شیخ کی مجلس وعظ کے دوران ایک درویش اٹھا۔ اور ایک لمبا واقعہ بیان کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا۔ درویش۔ ذرا بیٹھ جاؤ۔ میں تمہیں ایک بات سنا تا ہوں وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا۔ اتنے بے وقوف سانے سے کیا فائدہ! اب تم نے سوال کرنا ہو تو صرف آنا کہہ دیا کرو۔ پیچ بولنا امانت ہے! جھوٹ بولنا خیانت ہے! مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے! اس نوجوان نے کہا۔ میں اب ایسا ہی کہوں گا۔

حضرت شیخ ابوسعید ابو الخیر قدس سرہ کو ایک دن انقباض کی **شاہِ سرخس** کیفیت طاری ہوئی آپ اپنے معمول کے مطابق مینہ سے سرخس کو روانہ ہوئے۔ جب دشتِ کرد میں پہنچے۔ تو لقمان کو دیکھا۔ لقمان نے کہا ابوسعید کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرا دل تنگی محسوس کر رہا تھا۔ سرخس جا رہا ہوں لقمان نے کہا جب آپ سرخس پہنچیں تو شاہِ سرخس کو میرا سلام کہنا۔

حضرت شیخ ابوسعید کہتے ہیں ہم سرخس میں پیر ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ کہ کسی نے اندر آ کر کہا کہ لقمان۔ درہے ہیں۔ اور کہتے ہیں مجھے رباط بور جائیں لے جائیں۔ تین دن سے اس نے سوائے رونے کے بات تک نہیں کی آج اس نے کہا ہے کہ پیر ابو الفضل کو کہہ دیں کہ لقمان جا رہا ہے کوئی کام ہو تو بتائیے۔ پیر ابو الفضل نے سنا۔ تو فرمایا۔ ہم بھی وہاں جائیں گے۔ اگلے جمع کے ساتھ نکلے۔ لقمان نے آپ کو دیکھا تو مسکرائے۔ پیر ابو الفضل ان کے سر ہانے جا بیٹھے۔ اور انہیں دیکھتے جاتے تھے۔ گرم گرم آہیں بھرتے جاتے۔ لب نہ ہلتے تھے کسی نے مجمع میں سے لا اہ الا اللہ پڑھا۔ لقمان نے مسکراتے ہوا کہا۔ ہم نے خراج ادا کر دیا ہے اپنی برات حاصل کر لی ہے اور توجید پر قائم ہیں۔ ایک درویش نے کہا۔ اب اپنے آپ کو یاد کرنا چاہیے لقمان فرلنے لگے۔ اس کی بارگاہ میں ہم لڑا تو نہیں سکتے۔ پیر ابو الفضل کو یہ بات بڑی پسند

آئی فرمایا۔ سچ کہتے ہیں! چند لمحوں کے بعد اس کی روح پرواز کر دی جان دینے کے باوجود لقمان کی آنکھیں اپنے پر کے چہرہ پر جمی ہوئی تھیں اور ان کی نگاہوں میں ذرہ بھر تبدیلی نہ تھی۔ لوگ باتیں کرنے لگے۔ کوئی کہتا کہ ختم ہو گئے۔ کوئی کہتا نہیں ابھی تک جان ہے۔ اس کی نظریں درست دیکھ رہی ہیں۔ پیر ابو الفضل فرمانے لگے۔ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لیکن جب تک ہم یہاں بیٹھے رہیں گے اس کی آنکھیں کھلی رہیں گی دوست دوستوں کے چہرے سے آنکھیں نہیں ہٹاتے۔ یہ کہتے ہوئے ابو الفضل اٹھے۔ لقمان نے آنکھیں بند کر لیں۔

جن دنوں حضرت شیخ ابوسعید تائن پینچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کی بہت دعوتیں کیں۔ ایک دعوت پر حضرت شیخ پینچے۔ تو کسی کو خواجہ ابوسعید حداد کو بلانے بھیجا۔ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا بھیجا۔ چالیس سال ہو گئے ہیں کہ میں نے اپنا ہی کھانا کھایا ہے۔ کسی کا کھانا نہیں کھایا۔ حضرت شیخ نے سنا تو فرمایا۔ ہمیں پچاس سال ہو گئے ہیں نہ اپنا کھانا کھایا۔ اور نہ کسی کا۔ جب کھایا اپنے اللہ کا دیا کھایا۔ اور اسی سے مانگا ہے اپنی دنوں جب حضرت شیخ تائن میں موجود تھے۔ ایک بزرگ آدمی جن کا اسم گرامی محمد تائینی تھا بسا اوقات حضرت کی مجلس میں حاضر ہوتے۔ اور شیخ کی دعوتوں میں بھی شرکت کرتے۔ ایک دعوت پر وہ حسب معمول شریک دعوت تھے۔ مجلس سماع برپا ہوئی رقص کا دور دورہ تھا وہ مجلس سے اٹھے اور باہر آ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لوگ سماع سے فارغ ہوئے تو حضرت شیخ نے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ جہاں سے سورج طلوع ہوتا اور جہاں غروب ہوتا ہے۔ اس مقام میں حضرت محمد تائینی جیسا فاضل اور بزرگ دوسرا کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ لیکن آپ اس حدیث سے سرودا قفیت نہیں رکھتے کہ سماع کا کیا مقام ہے۔ ایک بار نیشاپور میں حضرت شیخ کی مجلس میں کئی بزرگ موجود تھے جن میں استاد اسماعیل صابونی۔ محمد جوینی۔ استاد ابو القاسم قشیری کے اسمائے گرامی خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔ وہ

ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ رات کو کون کون سا وظیفہ کیا جاتا ہے۔ جب حضرت شیخ کی باری آئی۔ تو ان بزرگوں نے آپ سے پوچھا۔ حضرت آپ کون سا وظیفہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ میں ہر رات اپنے اللہ کو کہتا ہوں۔ یا اللہ میرے درویشوں کو کل ایسی اچھی چیز عطا کر جس کو کھا کر خوش ہو جائیں۔ ان بزرگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا حضرت یہ کیا وظیفہ ہوا۔ آپ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

ان اللہ تعالیٰ فی عون العبد ما دام العبد فی عون أخیه المسلم

یہ سن کر سب بزرگوں نے کہا۔ شیخ کا درد سب سے افضل ہے۔ اس حکایت میں نکتہ یہ ہے کہ جو وظائف آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ یا نماز و روزہ کرتے ہیں وہ تو آخرت کے ثواب اور درجات کے حاصل کرنے کے لئے ہے یہ آپ لوگوں کے نفس کا حصہ ہے۔ اگر نیکی کرو گے تو اس کا ثواب بھی زندگی میں پائیں گے۔ چنانچہ ہمارے تمام اوراد۔ وظائف اور عبادتیں صرف اپنی ذات کے لئے ہیں۔ مگر شیخ کا ورد دوسروں کے فائدے کے لئے ہے مگر ایک بزرگ کے احوال میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اے اللہ میرے اعضا اور بدن کو قیامت کے دن اتنا بڑا کر دے جس سے دوزخ کے تمام علاقے پڑھو جائیں۔ اور کوئی گنہگار میرے سوا وہاں جگہ نہ پاسکے۔ دوزخ کے تمام عذاب میری ہی ذات پر ہوں۔ تیرے بندے اس سے محفوظ ہو جائیں۔ یہ دعا دوسری دعاؤں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

حضرت امام جوینی امام الحرمین ابوالمعالی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے والد ابو محمد جوینی نے فرمایا کہ اٹھو! حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر کی خدمت میں جاؤ۔ شیخ جو کچھ بھی فرمائیں اسے یاد کر لینا اور پھر واپس آکر مجھے بتانا۔ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور سلام عرض کیا۔ حضرت شیخ نے مجھے پوچھا۔ کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا خلتی۔ فرمایا۔ خلاف نہیں چلبئے۔ خلاف نہیں چاہئے۔ میں واپس آ گیا۔ داد کی خدمت

میں حاضر ہوا اور حضرت شیخ کی زبان سے جو کچھ سنا تھا۔ میرے والد نے فرمایا آج کے بعد خلائی نہ پڑھنا۔ اب فقہ اور علم دین پڑھنا۔ میں اس دن سے دینی علوم پڑھنا شروع کئے میں حضرت کی برکت سے اس مقام پر پہنچا ہوں۔

ایک دفعہ حضرت شیخ ہرات کو جا رہے تھے۔ علماء و مشائخ کی

**سفر ہرات :-** خاصی تعداد آپ کے ہمراہ تھی۔ صونیاد کا ایک مجمع ہم سفر

تھا جن میں قاری۔ نعت خوان اور قوال بھی تھے۔ جب زندکار گاؤں میں پہنچے۔ یہ گاؤں شہر سے تقریباً دو فرلانگ پر واقع ہے۔ اس گاؤں میں ایک مرد خدا رہتے تھے۔ جنہیں شیخ ابوالعباس

زندہ کاری (ریکانی) کہتے تھے۔ ان کے ایک بھائی تھے۔ جو بڑے نیک سیرت اور محترم تھے

دو دنوں اکٹھا ہا کرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ جس میں دونوں نشست رکھتے تھے

صونیاد میں سے جو بھی آتا اسے اسی نشست گاہ میں ٹھہراتے اور دعوت کرتے اور خدمات

تواضع بجالاتے۔ البتہ یہ لوگ سماع اور قوالی کے شکر تھے۔ حضرت شیخ تشریف لائے تو اسی

نشست گاہ پر ٹھہرایا۔ جو کچھ حاضر تھا پیش کیا۔ کھانے سے فارغ ہوئے۔ حضرت شیخ نے کہا۔

کوئی شعر تو سنائیں۔ شیخ ابوالعباس کہنے لگے۔ ہمیں یہ عادت نہیں ہے۔ حضرت شیخ نے قوال کو کہا

اچھا تم سادہ۔ قوال نے شعر کہا تو حضرت شیخ ابوسعید پروردگار ہی ہو گیا اٹھے اور رقص کرنے

لگے۔ تمام مجمع بھی شیخ کے ساتھ رقص میں شریک ہو گیا۔ شیخ ابوالعباس نہ نہ کہتے رہے حضرت

شیخ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا تاکہ وہ بھی رقص کرنے لگے۔ مگر وہ اپنے آپ کو

کھینچتے رہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا۔ دیکھو! باہر دیکھو! اس نے صحرا پر نگاہ ڈالی۔ تمام درخت۔

پودے بلکہ ساری وادی حضرت شیخ کی موافقت میں رقص کرتے نظر آئے۔ شیخ ابوالعباس بے خود

ہو کر رقص کرنے لگے۔ اور اپنے بھائی کا بازو پکڑ کر کہا۔ بھائی آؤ۔ ہمیں اس شخص سے کوئی کلمہ نہیں

ہے۔ دونوں رقص میں محو ہو گئے اور انکار کی کیفیت جاتی رہی۔ اس دن کے بعد سماع کے عادی

ہو گئے شیخ اس دن وہاں ہی رہے۔ دوسرے دن ہرات میں آئے۔ شہر کے دروازے پر پہنچے

تو فرمانے لگے۔ اس شہر میں مسلمان آباد ہو گئی ہے مگر کفر ابھی تک دندنارہا ہے۔ شہر میں داخل ہوئے تو اس خانقاہ میں گئے جہاں خانوٹھے۔ خانقاہ کے دروازے پر خالو کھڑا تھا۔ شیخ نے اسے دیکھا اور اس نے بھی حضرت شیخ کو دیکھا۔ مگر ایک دوسرے سے بات نہ کی۔ آپ وہاں سے ہی واپس آگئے اور قاضی ہرات کے گھر گئے۔ اجاب کوئے کہ اس کے گھر جا بیٹھے۔ قاضی کو اندر خبر ہوئی تو ننگے پاؤں دوڑا دوڑا باہر آیا۔ اور حضرت شیخ کی خدمت میں دوڑا نو ہو کر آ بیٹھا۔ اور کہا حضرت کوئی بات تو کریں۔ حضرت شیخ نے فرمایا حُبُّ الدنیا راسُ کلِّ خطیئۃ (دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، یہ بات کہہ کر اٹھے اور باہر نکل گئے۔ قاضی بڑی تواضع اور زاری کرتا رہا مگر شیخ ایک لمحہ بھی نہ رکے۔ باہر نکلے تو ہرات کا ایک عام شخص آپ کی رکاب پر ہاتھ رکھے جا رہا تھا۔ راستہ میں اس نے حضرت شیخ سے سوال کیا۔ حضرت! اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے۔ الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ السُّتُوٰی۔ شیخ نے فرمایا ہمارے گاؤں مینہہ میں بوڑھی عورتیں بتایا کرتی تھیں کہ خدا ہے۔ اور کوئی عرش نہیں ہے آپ یہ باتیں کرتے کرتے ہرات کے دروازے سے باہر نکل آئے ایک محلہ جہاں پانی جمع کرنے کے لئے ایک بڑا سا تالاب بنا یا گیا تھا۔ اور لوگ اسے چاہے یعقوب کہتے تھے۔ پیچھے۔ اس پانی کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا تھا اور زور سے آواز دے رہا تھا۔ گوہر! باہر آؤ۔ ایک عورت نے گھر سے منہ باہر نکال کر جھانکا۔ وہ بوڑھی عمر کی کالی اور چھپک زدہ چہرہ عورت تھی۔ بڑے بڑے دانت جن کی عینی ندمت کی جائے کم ہے۔ حضرت شیخ اور دوسرے لوگوں نے اس بڑھیا کو دیکھا، فرمایا۔ ایسے سمندر کا ایسا ہی گوہر ہونا چاہیئے۔ پھر ہرات کے دوسرے دروازہ کو روانہ ہوئے جسے دروازہ دوسرہ کہا کرتے تھے۔ جب دروازہ پر پہنچے۔ ایک شخص کو کھڑے پایا۔ اس نے ایک ایسی بات کہی جو حضرت شیخ کو سخت ناگوار گذری۔ آپ اس دروازہ سے بھی آگے بڑھے۔ حتیٰ کہ حضرت ہرات سے باہر نکل آئے۔ لوگ آپ کو الوداع کہنے نکلے حضرت شیخ نے ہرات کے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا ہرات والو! اِنِّیْ اَرِیْکُمْ بَجَسِیْر

اِنَّ اَنْتَ عَلَيَّكُمْ عَذَابٌ يَّوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ اِسْمِیٰں تہیں خوش بخوش دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم کسی بڑے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، یہ کہہ کر آگے بڑھے اور ہرات میں ایک لمحہ بھی نہ رکے۔

مجھے حضرت شیخ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد  
آدھے شلغم سے علاج :- میں سے ایک بزرگ نے بتایا کہ حضرت شیخ عبداللہ ابدائے

کار میں ریاضت کرتے ان کی دلی خواہش تھی کہ انہیں حقیقت کے اسرار و رموز سے واقفیت ہو۔ ریاضت کے علاوہ وہ پیرانِ طریقت کی خدمت میں حاضر ہوتے علماء دین کی خدمت میں بیٹھے۔ اور ان سے دعائیں کرواتے۔ بعض اوقات ان کی زبان ہر نفس کلامی بھی آجاتی حالانکہ دلی طور پر آپ نفس گوئی اور فضول باتوں کے سخت خلاف تھے۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ یہ عادت بد ختم ہو جائے۔ لیکن وہ اس پر قابو نہ پاسکتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ ایک دن نیشاپور میں آئے حضرت شیخ ابوسعید ابو الخیر ان دنوں نیشاپور میں قیام فرماتے تھے حضرت عبداللہ انصاری آپ کی مجلس میں گئے مگر دل ہی دل میں ڈرتے تھے کہ کہیں زبان سے کوئی نفس لفظ نہ نکل جائے۔ زیارت کرنے لگے تو اس وقت حضرت شیخ بیٹھے ہوئے تھے ایک مرید ان کی خدمت میں موجود تھا۔ اور شلغم پکا کر ان پر شکر بھیر رہا تھا۔ اور حضرت شیخ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ آپ اسے کھاتے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ انصاری حاضر ہوئے تو حضرت شیخ نے ایک شلغم جسے آدھا آپ نے کھایا تھا۔ عبداللہ انصاری کے منہ میں ڈال دیا۔ اس دن کے بعد ان کی زبان سے نفس کلامی ختم ہو گئی بلکہ غیر مناسب گفتگو بھی نہ نکلی۔ حقائق آشکارا ہو گئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے۔ میری زبان سے جتنے حقائق نکلتے ہیں اس آدھے شلغم کا نتیجہ ہیں۔ جسے حضرت شیخ نے میرے منہ میں رکھا تھا۔

حضرت شیخ ابوسعید ابو الخیر نے اپنی  
دنیا کی دولت اور دین کی سعادت :- خانقاہ کے صوفیاء کے اخراجات کے

لئے پانچ سو دینار نیشاپوری قرض لئے۔ ایک دن حسن مودب کو فرمایا گھوڑے پر زین کسو ہم ابو الفضل فزاتی کے ہاں جانا چاہتے ہیں تاکہ یہ قرضہ وہ ادا کریں۔ حضرت شیخ مدنیوں کی ایک جماعت نے روانہ ہوئے ایک درویش پہلے ہی یہ خبر لے کر ابو الفضل فزاتی کے پاس پہنچ گیا کہ حضرت شیخ! پتا قرضہ ادا کرنے کے لئے اتنے دینار لینے آرہے ہیں اور ان کے ساتھ اتنے لوگ ہیں۔ ابو الفضل آپ کے استقبال کو آگے بڑھے۔ بڑے احترام و اعزاز سے حضرت شیخ کو ایک اچھی جگہ قیام فرمانے کا اہتمام کیا۔ بڑی بڑی پُرتکلف دعوتیں ہوئیں۔ تین دن رات میزبانی کا حق ادا کر دیا۔ ان تین دنوں میں ابو الفضل نے آرام نہ کیا۔ اور حضرت کی خدمت میں لٹرے رہے۔ یا ادھر ادھر دوڑتے رہے۔ چوتھے دن اس سے قبل کہ حضرت شیخ کوئی مطالبہ کریں۔ حسن مودب کو علیحدہ بلایا۔ اور پانچ سو دینار دے کر کہا اس سے شیخ کا قرضہ ادا کر دینا۔ ایک سو دینار مزید نکال کر دیئے اور کہا۔ یہ سفر خرچہ لے لیں۔ ایک سو مزید دیئے۔ کہ یہ وہ خرچہ ہے جو آپ لوگوں نے آتی بار کیا تھا۔ چنانچہ حسن مودب حضرت شیخ کے پاس آئے۔ اور یہ ساری بات سنائی۔ حضرت نے شیخ ابو الفضل کو فرمایا۔ اب تمہارے لئے میں کیا دعا کروں؟ کہنے لگے۔ جو حضرت کی مرضی! فرمایا۔ کیا میں یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ تم سے دیناراپس لے لے ابو الفضل نے کہا نہیں یا حضرت اگر میرے پاس مال دنیا نہ ہوتا تو آج آپ میرے غریب خانہ پر قدم رنجہ نہ فرماتے اور میں خدمت کرنے سے قاصر رہتا۔ حضرت شیخ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا۔ اے اللہ! اس سے دنیا واپس نہ لینا۔ دنیا کی دولت اس کے لئے زاد راہ بنا دے اس کے لئے وبال جان نہ بنے۔ حضرت کی دعا کی برکت سے ابو الفضل کی اولاد اپنے زمانہ کی مالدار اور محتسب لوگوں میں شمار ہوئی۔ انہیں بڑے بلند مراتب ملے۔ آپ کے بیٹے بزرگی اور ولایت کے مقامات بلند پر بھی پہنچے۔ یہ لوگ دین و دنیا میں خراسان کے معروف لوگوں میں شمار ہوئے۔

مشرابی تائب ہو گیا، جن دنوں حضرت شیخ نیشاپور میں قیام فرماتے تھے رات کو

اٹھے حسن کو بلایا اور کہا ابھی کوئی قوال بلا کر لاؤ۔ حسن باہر گئے۔ قوالوں کو ایک ایک کر کے ڈھونڈا مگر کوئی نہ ملا۔ تھگ گیا۔ لوگوں نے ایک نوجوان کا پتہ بتایا۔ مگر وہ شراب خانہ میں پڑا ہوا تھا۔ حسن شراب خانہ میں پہنچے تو وہ دھت پڑا ہوا تھا۔ لوٹ کر حضرت کی خدمت میں آئے۔ اور واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اسے ہی لے آؤ حسن شراب خانہ میں پہنچے اس نوجوان کو لیا اور خانقاہ میں لے آئے۔ نوجوان کی یہ حالت تھی کہ اسے نشہ میں کوئی خبر نہ تھی کہ وہ کہاں آیا ہے حضرت نے اس نوجوان کو کہا کہ کچھ سناؤ۔ اس نے ٹوٹا پھوٹا شعر سنایا۔ مگر نشہ میں بڑکھڑاتا ہوا۔ اور وہ ہیں گے پڑا اور مستی کے عالم میں سو گیا۔ شیخ نے کہا اسے سونے دو صبح اٹھا۔ تو چلانے لگا۔ میں کہاں ہوں؟ حسن نے آگے بڑھ کر کہا کہ تمہیں شراب خانے سے اٹھا کر شیخ کی خدمت میں لایا گیا ہے۔ اور تم نشہ میں سوتے رہے ہو۔ نوجوان ہر ایک کے پاؤں میں گرتا جاتا۔ اور شرمساری سے پانی پانی ہوتا جاتا۔ حضرت شیخ کے پاس پہنچا اور پاؤں کو بوسہ دیا اور کہا حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت شیخ نے اس کے کندھوں پر تھسکی دی۔ اسے حمام میں بھیجا۔ نوجوان نے حمام کو کہا کہ میرے بال کاٹ دو۔ اس نے بال پکڑے کاٹ دیئے حضرت شیخ نے اپنے کپڑے پہننے کو دیئے تیس سات تک دردیشوں کی خدمت کرتا رہا۔ اور حضرت شیخ کی نگاہ کی برکت سے نیک انسانوں میں شمار ہونے لگا۔

ایک دن حضرت شیخ نے کہا کہ میرے گھوڑے پر زین رکھی جائے سواری تیار  
**ایک مغنیہ** ہوئی تو حضرت شیخ سوار ہوئے۔ ایک جماعت ہمراہ تھی۔ بازار میں پہنچے تو ایک گائیکا (مطربہ) عورت دکھائی دی۔ جو شراب میں مست تھی خوبصورت چہرہ اس پر غازہ لگائے حضرت کے سامنے آکھڑی ہوئی لوگوں نے اسے جھڑکا۔ کہ تم کیا رہی ہے شرم کد! یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ حضرت شیخ نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ جب وہ اور نزدیک آئی تو حضرت نے فرمایا۔

آراستہ دست بازار آئی      اسے نیترسی کہ گرفتار آئی!



تسرحمہ :- تم بن سنور کو مست حرام بازار میں آرہے ہو۔ اور دوست! تمہیں پتا نہیں کہ گرفتار آرہے ہو۔ یہ شعرنا تو عورت و بد میں آگئی۔ بڑی روٹی۔ نزدیک کی مسجد میں چلی گئی۔ حضرت شیخ کے ایک مرید نے پکارا۔ حضرت نے فرمایا۔ جا کر دیکھو اس کی کیا حالت ہے۔ وہ آگے بڑھا تو عورت نے اپنا تمام قیمتی لباس۔ ریشمی کپڑے اور زیورات ایک کپڑے میں باندھ کر درویش کے حوالے کر دیئے۔ اور کہا شیخ کی خدمت میں پہنچا دینا۔ اور کہنا اب میں نے توبہ کر لی ہے میرے لئے دعا فرمائیں۔

وہ درویش کپڑے اور زیورات لئے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا پیغام پہنچایا۔ حضرت نے فرمایا مبارک، رہنمایا۔ جو کچھ اس عورت سے لائے ہو اسے بیچ کر حلوا اور نان لاؤ۔ اور غریبوں کو کھلاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عود۔ (راک) طرف چل نکلے۔ یہ واقع سارے شہر میں مشہور ہو گیا لوگ جوق در جوق حضرت شیخ کے پیچھے دوڑے اور غریبوں میں حلوا اور کھانا تقسیم ہونے لگا لوگ کھانے لگے۔ مگر شیخ اور آپ کے صوفیاء اس نظارے کو دیکھے۔ یہ کھانا کھانے کے بعد عود اور صندل کو آگ پر جلا یا گیا۔ خوشبو سے سارا بازار مہک اٹھا۔ شیخ پر رقت طاری ہو گئی۔ نعرہ بلند کیا۔ اور کہا۔ جو سانس آتا ہے۔ اُسے دھوئیں اور ہوا کی نذر کر دو۔ لوگ یہ دعوت کھا چکے تو حضور تمام لوگوں کے ساتھ شہر میں آئے۔ وہ مطر بہ اپنی توبہ پر ثابت قدم تھی۔ وہ حضرت کی نظر التفات سے اپنے زمانہ کی نیک عورتوں سے شمار ہونے لگی۔

خاجہ ابوالفتح رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جن والی خراساں کی اصلاح :- دنوں حضرت شیخ نیشاپور میں تھے۔ سیف الدین دانی نیشاپور حضرت کی زیارت کو حاضر ہوا۔ سیف الدین ان دنوں عالم اسلام کا بڑا حکمران تھا۔ خانقاہ میں آیا۔ بہت رویا۔ اور حضرت کو کہنے لگا۔ مجھے اپنی فرزندگی میں قبول فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا تمہیں بہت بڑا منصب ملا ہوا ہے۔ تم فقروں میں شامل ہو کر کیا کر دو گے۔ جاؤ اور عدل و انصاف سے لوگوں کی خدمت کر دو۔ اس نے انصاف کا وعدہ کیا۔ حضرت نے مزید فرمایا۔ اس بات کا عہد

کو و ظلم نہیں کر دے اپنے لشکر پر پابندی لگا دے کہ وہ عوام الناس پر زیادتی نہ کریں۔ اس نے وعدہ کیا۔ اب حضرت شیخ نے فرمایا آج سے تم ہمارے بیٹے ہو۔ سیف الدولہ سلام کر کے باہر آئے عدل و انصاف کو اپنالیا۔ وہ اپنے عدل و احسان کی وجہ سے سارے خراسان میں مشہور ہو گیا۔ لوگ اس کی ہوازدی اور عدل گسری کی مثال دیا کرتے تھے۔

نیشاپور کے قیام کے دوران ایک دن حضرت شیخ اساد

**سلطان طغرل کا بھائی :-** امام قشیری قدس سرہ کی خانقاہ میں وعظ فرما رہے

تھے۔ وہاں سے فارغ ہوئے تو بازار عدنی گویاں میں سے گزرہوا۔ وہاں ہی راستہ میں ابراہیم نیاں جو سلطان طغرل کا بھائی ملا۔ شیخ کو دیکھ کر اوٹا گھوڑے سے اتر پڑا۔ سر جھکائے کھڑا رہا۔ قدم بھی کی۔ حضرت شیخ نے فرمایا سر کو ادریچے کر دو۔ اس نے ادر جھکا لیا۔ شیخ نے فرمایا۔ ادریچے کو اس نے ادریچے کر لیا حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے اس کا سر زمین کی مٹی کو چھونے لگا۔ شیخ نے فرمایا۔ تمام شد! بسم اللہ کر کے اٹھو۔ اور سوار ہو جاؤ۔ شیخ خود آگے چلے آئے اور اپنی خانقاہ میں آ بیٹھے۔ غالباً کسی درویش کے دل میں خیال آیا۔ کہ یہ کیا بات ہوئی جو حضرت شیخ نے برسر بازار کی۔ کہ سلطان طغرل کے بھائی کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ جو لوگ مجھے سلام کرتے ہیں میرے لئے نہیں کرتے۔ اللہ کے لئے کرتے ہیں۔ ہمارا جسم تو قبلہ خداوند کریم ہے۔ ورنہ مجھے کون جانتا ہے۔ یہ تو اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے ہم درمیان میں نہیں ہوتے۔ اس لئے جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اسے پوری طرح جھکنا چاہیے ہم نے ابراہیم نیاں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کو کہا تھا۔ اپنے سامنے تو نہیں حضرت نے مزید فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ مسلمانان بنایا ہے۔ تاکہ مخلوق اس کو سجدہ کرے حالانکہ وہ اپنی ذات کو سجدہ کرانا چاہتا ہے۔ درمیان میں کعبۃ اللہ کے درو دیوار کیا حیثیت رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے قبلہ خلق بنایا ہے ہماری عزت تو صرف اس کے لئے ہے ہم تو مٹی کا قالب ہیں۔ درویش نے حضرت شیخ کے قدم چومے اور کہا جو کچھ یہ

بزرگان کہتے ہیں اللہ کے لئے کہتے ہیں۔ ظاہر یہ اعتراض کہ تا باطن سے آنکھیں بند کرنا ہے۔

حضرت خواجہ امام ابو علی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی یہ روایت ہے کہ انہوں نے حضرت شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ کہ میں نے حضور نبی کریم صاحب کو ثروتینیم کو خواب میں دیکھا۔ آپ کے سر پر تاج تھا۔ کمرہ میں ایک مرصع لباس۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں ابوالقاسم جنید بغدادی اور ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں دست بستہ کھڑے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر قدم بوسی کی۔ سلام عرض کیا اور گزارش کی حضور یا رسول اللہ ما تقول من اولیاء اللہ؟ حضور نے فرمایا  
هَذَا مِنْهُمْ وَأَنْتَ آخِرُهُمْ مَا ذَا مَضَيْتَ أَنْتَ يَشْنَايَا لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ لِيَذْكُرْ وَإِشَارَاتِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ۔

کتاب کے موائع خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے امام اجل غزالدین محمود ایلباشی طول اللہ عمرہ سے سنا تھا۔ جنہوں نے طوس میں حضرت امام عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا تھا کہ انہوں نے حضرت ابوسعید ابوالخیر سے خود سنا کہ وہ فرمایا کرتے تھے جس وقت میں نے خواب میں نبی کریم صاحب کو ثروتینیم صلوة اللہ علیہ والہہ کو دیکھا تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا۔ ابوسعید جس طرح آخری نبی ہوں اسی طرح تمام آخری ارباب میں سے ہو۔ تمہارے بعد ایسا دلی کوئی نہ ہوگا۔ اپنی انگوٹھی اتار کر مجھے پہنا دی۔

ایک بار حضرت شیخ مینہ

مارا برکیمیہ بند نیست و با خلق خدا جنگ نیست :- میں مجلس وعظ فرماتا ہے

تھے دوران مجلس ماورالنہر سے ایک درویش وارد ہوا۔ مجلس میں بیٹھ گیا۔ مجلس ختم ہوئی تو درویش نے آگے بڑھ کر حضرت شیخ کو سلام کیا تین دن تک خدمت میں رہا۔ ہر روز مجلس میں

بیٹھا۔ تو حضرت ہمیشہ اسی کی طرف منہ کر کے وعظ فرماتے۔ اور بڑی خوبصورتی سے اظہار خیال فرماتے چوتھے دن مجلس کے دوران ہی اس درویش نے نعرہ مارا۔ اٹھا۔ اور کہا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں۔ آپ کیا ہیں؟ کیا چیز ہیں؟ حضرت نے فرمایا۔ ہمارا خزانہ بند نہیں اور مخلوق خدا سے لڑائی نہیں ہے۔ درویش نے یہ بات سنی تو بیٹھ گیا۔ شیخ مجلس سے فارغ ہوئے درویش نے وطن جانے کی تیاری شروع کی۔ روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا وہاں کے بزرگ مشائخ جمع ہو گئے اور حلقہ میں بیٹھ کر مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے لگے۔ وہ درویش بھی ان کے درمیان بیٹھا تھا جب درویش کو گفتگو کرنے کو کہا گیا۔ تو بزرگوں نے کہا میاں خراسان سے جو کچھ لے کر آئے ہو ہمیں بھی سناؤ اس نے بتایا کہ میں نے ایک بزرگ مینہ میں دیکھے ہیں۔ وہ اچھی باتیں کہتا تھا۔ میں ساری تو یاد نہیں رکھ سکا۔ مگر میں نے اس سے ایک سوال کیا۔ کہ تم کون ہو۔ اور احوال کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا ہمارا خزانہ کھلا ہے۔ اور مخلوق خدا سے کوئی جنگ نہیں! یہ سن کر تمام مشائخ اٹھے اور خراسان کی طرف منہ کر کے زمین بوس ہوئے۔ اور حضرت شیخ کا ادب بجالائے جن دنوں حضرت شیخ ابوسعید نیشاپوری میں تھے۔ حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ بھی نیشاپور میں ہی تھے۔ آپ نے حضرت شیخ کو نہ دیکھا تھا نہ ملاقات کی تھی۔ وہ حضرت شیخ کے منکر تھے۔ جو شخص ان کے پاس آتا حضرت شیخ کی باتیں پوچھتے۔ اسی طرح جو نبی امام قشیری حضرت شیخ کے خلاف باتیں کرتے تو لوگ وہاں جانستے مگر حضرت شیخ چپ رہتے۔ ایک دن حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ شیخ ابوسعید اللہ کو دوست رکھتے ہیں مگر اللہ ہمیں دوست رکھتا ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان بس اتنا فرق ہے کہ ہم ہاتھی ہیں۔ جبکہ وہ بچھڑ ہیں۔ حضرت شیخ نے سنا تو فرمایا ہاتھی بھی آپ ہی ہیں اور بچھڑ بھی آپ ہی ہیں۔ ہم تو کچھ بھی نہیں۔ بلکہ ہمارا تو وجود ہی نہیں وہ شخص حضرت امام کے پاس آیا۔ اور انہیں بتایا کہ حضرت شیخ یوں فرماتے ہیں امام قشیری نے اس وقت عہد کیا۔ کہ آج کے بعد حضرت شیخ کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے اس وقت تک کوئی بات نہ کی۔ جب تک آپ کی مجلس میں آنے کا موقع نہ ملا۔ پھر یہ ساری مخالفت محبت میں تبدیل ہو گئی

جن دنوں حضرت شیخ نیشاپور میں تھے۔ تو ایک عالم دین بیمار ہو گئے۔ آپ انکی بیماری پر سی کو گئے۔ ان کے پاس بیٹھے اور باتیں کرتے رہے اسی دوران اس عالم دین کے احباب جمع ہو گئے ان میں کچھ طبیب اور علماء کے پاس بیٹھنے والے بھی تھے۔ ایک کہہ رہا تھا۔ کہ فلاں چیز کا استعمال یوں ہوتا ہے۔ دوسرا کہہ رہا تھا فلاں چیز یوں دینا چاہیے۔ ہر شخص اپنے اپنے ثواب دید کے مطابق بات کر رہا تھا۔ اور عالم دین ہر ایک کا جواب دیتے جاتے تھے۔ تمام کے تمام اپنی ہی باتوں میں مستغرق تھے۔ جب فارغ ہوئے تو حضرت سے معافی طلب کی کہ ان لوگوں سے خواہ مخواہ باتیں کرتے رہے حضرت نے فرمایا۔ آپ کو اس سے بہتر طریقہ سے مرنا چاہیے۔ اس بات سے عالم دین اور محتاط ہوئے اور اسے احساس ہوا کہ واقعی اس نے غلطی کی ہے اور شیخ حق پر ہیں چنانچہ کہا۔ حضور جہاں آپ کی نگاہیں جاتی ہیں۔ ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔

شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ العزیز مرد جا رہے تھے قصبہ لغبتور میں پہنچے تو آپ کو یہ قصبہ پسند نہ آیا۔ حالانکہ وہاں کے لوگ نیک سیرت۔ بزرگ۔ آئینہ مذاہب اور اہل تقویٰ تھے اس شہر میں اس وقت تیس ہزار مفتی اور مستدین لوگ اس شہر میں تھے۔ شہر کے عوام اصلاح یافتہ تھے دیکتے ہیں ایک بادشاہ نے اس شہر میں فساد کرانا چاہا۔ تو شہر کے چھوٹے بڑے سب جمع ہو کر کہنے لگے۔ ہم اپنے شہر میں فساد نہیں ہونے دیں گے۔ یا کسی قسم کی معصیت کا ارتکاب کرے۔ ہمارے نوجوانوں کو کوئی شخص فساد برپا کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتا یا ان نوجوانوں کو کسی گناہ پر لگائے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو یہاں تک بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ یہ خیال بھی کریں کہ فساد کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ حالت دیر تک قائم رہی۔ آخر کار لوگوں کے اتفاق اور نیک نیتی نے اس کو ناکام بنا دیا حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ العزیز اس شہر میں پہنچے تو آپ نے فرمایا۔ یہ شہر جنتیوں پر دوزخ ہے۔ وہاں سے مرد کو روانہ ہوئے قاضی حسین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ کو دیکھا۔ تو آپ سے بیعت ہو گئے حضرت شیخ چند دن وہاں ٹھہرے۔ ایک درویش نے اپنے بیٹے کے ختنے کولنے تو حضرت شیخ اور صوفیاد کو دعوت پر بلایا۔ حضرت اپنے صوفیاد کو لے کر اس کے گھر پہنچے۔ کھانا کھانے کے بعد مجلس سماع

ہوئی شیخ پر ایک حالت خاص طاری ہوئی۔ وہاں سے اٹھے۔ خانقاہ میں آئے۔ صوفی بھی حضرت کے ساتھ ساتھ ہوئے۔ مگر قوال وہاں ہی گاتے رہے۔ اور شہر کے لوگ بھی وہاں ہی رہے۔ لوگوں کو اس قوال اور سماع سے انکار تھا۔ قاضی حسین کے پاس جمع ہوئے۔ اور صورت حال پر اظہار خیال کرنے کو کہا۔ حسین قاضی نے حضرت شیخ کی خدمت میں ایک رقعہ لکھا۔ کہ لوگ آپ کی مجلس سماع کے منکر ہیں اور اب احتجاج کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ نے رقعہ پڑھا اس کی پشت پر لکھا۔

تو یزگشت خونے بدآن خوب رٹے را ورنہ بچشم بد بخواندیش مردمان

قاضی نے یہ بیت پڑھا تو رونے لگا۔ اور لوگوں نے انکار سے توبہ کر لی۔

کہتے ہیں حضرت شیخ مرد میں پہنچے تو یہ سارا قصبہ پیر بوعلی سیاہ خواجہ جبار کی خدمت میں پیش ہوا۔ حضرت شیخ وہاں سے باہر چلے گئے۔ صحرار میں آئے۔ خواجہ جبار ادا تار کا ب تھامے ساتھ ہوئے جس وقت حضرت شیخ ان کے گھر پہنچے۔ تو خواجہ جبار نے آپ کی باگ پکڑا کر رد کنا چاہا اور گزارش کی کہ میرے گھر قدم رنجہ فرمائیں۔ اور چند لمحات مجھے مشرف فرمائیں حضرت تمام جماعت کو لئے وہاں ہی ٹھہرے۔ وہاں ایک بہت بڑا ستون تھا۔ اس پر بہت سی شہتیریاں رکھی تھیں۔ جس پر کھلا چھت تھا۔ گویا ساری عمارت اسی ستون پر کھڑی تھی۔ حضرت شیخ کی نگاہیں اس ستون کو دیکھ رہی تھیں آپ نے فرمایا لا بتوا انک حملت ما حملت یہ کلمہ شیخ کی زبان پر آیا تو خواجہ نے برملا کہا۔ ہاں ہاں حضرت اس ستون پر بڑا فریح آیا ہے میں اس پر بڑا کام کیا ہے۔ بڑی مشقت برداشت کی ہے پھر جا کر اس ستون کو کھڑا کیا ہے۔ سارے شہر میں اس سے بڑا ستون کہیں نہیں شیخ نے سن کر کہا۔ اے سبحان اللہ! ہم کہاں ہیں اور قاضی کہاں! اسی وقت اٹھے۔ وہ کہتا رہا۔ حضرت تشریف رکھئے۔ چند لمحے بیٹھے مگر حضرت شیخ اٹھے۔ اور عبد اللہ مبارک کی حویلی میں چلے آئے۔ اور مرو میں نہ ٹھہرے۔

نیشاپور کے زمانہ قیام میں ایک حضرت شیخ نے نئے کپڑے سلائے اور انہیں ایک بار پانی میں دھو کر نازی کیا۔ اور رسی پر ڈال دیئے تاکہ سوکھ جائیں ایزار پانی گم ہو گئی

ہر شخص سے پوچھا گیا مگر پتہ نہ چلا۔ یہ گستاخی کس نے کی تھی۔ حضرت شیخ رواق خانہ میں بیٹھے تھے۔ اور کچھ نہ کہتے تھے۔ ایک بوڑھا حضرت کے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھا رہتا تھا۔ حضرت شیخ کو اس سے بڑی محبت تھی۔ اور بے حد عزت کرتے۔ صوفیاء نے کہا سب کو دیکھا یہ کہاں سے تلاش کریں۔ سب کی تلاشی شروع کی جائے۔ سب سے پہلے اس بوڑھے کے بستر کی تلاشی لی تو نیچے سے ایزار پائی نکل آئی۔ حضرت کو معلوم ہوا تو حکم دیا۔ اس کا بستر گلی میں پھینک دو۔ چنانچہ صوفیوں نے اُسے اٹھایا۔ اور گلی میں رکھ دیا۔ وہ بوڑھا وہاں سے اٹھا پھر اسے کسی نے نہ دیکھا۔

ایک بار حضرت شیخ کے ایک تاجر اور امیر مرید نے ایک ترک کینز آپ کی خدمت میں پیش کی کہ وہ آپ کی خدمت کیا کرے گی۔ وہ کینز آپ کی خدمت کرتی۔ بڑی نیک سیرت عورت تھی شیخ نے اس کینز کو اپنے بیٹے ابوطاہر کے حوالے کر دیا۔ کینز آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ رو رہی تھی۔ اور کہہ رہی تھی۔ مجھے قطعاً یہ رہم نہ تھا۔ کہ آپ مجھے اپنی خدمت سے محروم فرمادیں گے۔ شیخ نے فرمایا۔ ابوطاہر ہمارے دل کا مگر اہے بیٹا ہے۔ ہم نے تمہیں گھر سے تو نہیں نکالا۔ صرف ان کے حکم میں کر دیا ہے۔ ہم تمہیں خدمت سے محروم تو نہیں کر رہے۔ چنانچہ کینز ابوطاہر کی خدمت کرتی رہی لیکن بایں ہمہ حضرت شیخ کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی۔ ابوطاہر نے اسی کینز سے شادی کی۔ مگر وہ حضرت شیخ کی خدمت گزار ہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی۔ حضرت نے ایک دن خوش ہو کر فرمایا۔ بیٹی!

ازترستان کہ بود آرنده تو گورد۔ دیگر بیارمانسده تو!

یہی کینز تھی۔ جس سے حضرت خواجہ ابوطاہر کے ہاں خواجہ ابوالفتح پیدا ہوئے۔

# ملفوظات واقوال

شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ



○ ہم چلتے چلتے کوہستان کے ایک دامن میں ایک گاؤں طرق نامی میں پہنچے۔ قیام کیا۔ ہم لوگوں سے پوچھا کہ اس بستی میں کوئی بزرگ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا۔ ہاں۔ یہاں ایک بزرگ ہوئے ہیں۔ انہیں دادا کہتے تھے۔ ہم ان کے مزار پر حاضر ہوئے۔ زیارت کی۔ ناتھ پڑھی۔ ہمیں وہاں بڑا سکون ملا۔ گاؤں کے چند لوگ آئے۔ ہم نے پوچھا۔ کسی نے دادا کو دیکھا تھا۔ انہوں نے بتایا۔ ہاں یہاں ایک بوڑھا آدمی ہے۔ اس نے دیکھا تھا۔ اسے بلانے کے لئے آدمی بھیجا گیا۔ اُسے لایا گیا۔ بڑا پر جلال آدمی تھا۔ ہم نے پوچھا کیا آپ نے دادا کو دیکھا تھا۔ اس نے کہا۔ ہاں میں اس وقت بچہ تھا۔ ہم نے پوچھا۔ ان کی کوئی بات سناؤ کہنے لگا۔ مجھے اس وقت بات سمجھنے کا اتنا شعور تو نہ تھا۔ ہاں ایک بات مجھے یاد ہے ایک دن ان کے پاس ایک گودڑی پوش آیا۔ سلام کیا۔ اور پوچھا کیا سفر کا لباس اتاروں تاکہ آپ کے پاس چند لمحے آرام کر لوں۔ میں نے سارا جہاں پھیرا ہے۔ آرام نہیں کر سکا۔ اور نہ ہی مجھے آرام میں کوئی شخص نظر آیا ہے۔ دادا نے کہا۔ ارے غافل۔ تو اپنی ذات کا فکر دور کر دے۔ تو آرام سے رہتا۔ اور لوگ بھی آرام اور سکون کرتے۔ ہم نے کہا۔ اس نے پوری بات کہہ دی ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ اب آپ جائیں۔ اور اس تکلیف کا شکر یہ ادا کرتے ہیں۔“

○ "ایک دن ایک دھریہ حضرت ابوالحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے حلتہ میں آیا آپ اس وقت حق پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ صوفیاں حق کے متعلق اکثر بات کرتے

ہیں۔ لوگ اللہ کے نام کو مختلف اوصافی نام سے یاد کرتے ہیں۔ بعض رحمان کہتے ہیں۔ تاکہ انہیں روزی مل جائے۔ بعض رحیم کہتے ہیں تاکہ انہیں بہشت مل جائے۔ بعض ملک کہتے ہیں۔ تاکہ انہیں مذہب اور مرتبہ مل جائے۔ ہر شخص جس چیز کی حاجت کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ اللہ کو اسی قسم کے وصف سے یاد کرتا ہے۔ صوفیاء کرام اللہ تعالیٰ کو حق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے بغیر کوئی ذات قادر نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ واسطہ رکھتے ہیں۔ ان کا لفظ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں حق۔ اس پر اس دھریے نے ابوالحسن نورسی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا یہ لوگ جو حق کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو دوسروں کو کسی قسم کی آلائش میں آلودہ نہیں کرتے۔ اور وہ خود ہمیشہ پاک صاف رہتے ہیں۔ حضرت شیخ نے فرمایا وہ خود پاک ہے۔ سبحان ہے۔ ہر چیز سے پاک ہے۔ بے نیاز ہے۔ اس کے ننانوے نام ہیں۔ قرآن۔ توریت۔ انجیل اور زبور میں اس کا مشترک نام سبحان ہے۔ جب سبحان کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کمال اور تمام ذات ہے۔ جب یہ نام بیا جائے۔ تو تمام گناہ محو ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بوڑھی عورتیں تسبیح لئے ہزار دانے شمار کرتی ہیں۔ ان کے ہنر میں سرے پر ایک بڑا دانہ ہوتا ہے۔ اسے موذن کہا جاتا ہے۔ جب اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو تمام دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ سبحان کہتے ہیں۔ تو تمام کی تمام پاکیزگی اس کی ذات کے لئے ہوتی ہے۔ کوشش کرنا چاہئے۔ سبحان کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اللہ کی تمام مخلوقات سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے۔ مگر انسان اپنی غفلت کی وجہ سے اس تسبیح کو سن نہیں سکتا۔ وہ ببل جو ہزار سڑوں سے آواز نکالتی ہے۔ ہر آواز میں سبحان اللہ کہتی ہے۔ مگر انسان صرف چند ایک آوازیں سن پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولیکن لا یفقیہون تسبیحہم ط

ہمارے شیخ ابوسعید ابو الخیر فرماتے ہیں۔ کہ مجھے لوگوں نے خواب میں دیکھا

**حکایت :-** کہ میں مرا پڑا ہوں۔ تھوڑی بندھی ہوئی ہے اور باتیں کر رہا ہوں ایک

شخص نے چلا کر کہا۔ او لوگو! جو باتیں کرتے ہو۔ اگر تم یہ دو باتیں کرو جو شیخ کرتے ہیں۔ تو پھر موت کیا ہے۔ مَاتَ الْعَبْدُ وَهُوَ كَرِيْمٌ ذَلَّ

ایک قاری نے حضرت شیخ ابو الخیر کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی إِنَّ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادِكِ الْهِيَ مَعَاذَ اللَّهِ حضرت شیخ نے فرمایا مقررین نے اس آیت کریمہ کی بیل تفسیر کی ہے کہ ارَادَ بِه فَتَحَ مَكَّةَ اس آیت سے مراد فتح مکہ ہے۔ ہم اس کی یہ تفسیر کریں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ فتح مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ ارَادَ بِه بَقِيَاءَ الْاِخْوَانِ۔ اس سے مراد بھائیوں کا دیدار ہے۔ فتح مکہ نہیں۔

○ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب اجارہ کو پوچھا کہ آپ کے نزدیک تورات میں کون سی آیت ایسی ہے۔ جو سب سے مختصر ہو کعب اجارہ نے کہا کہ تورات میں سب سے مختصر آیت یہ ہے الْأَمِنْ طَلَبْتُنِي وَجَدْتَنِي۔ وَمَنْ طَلَبَ غَيْرِي يُعْرِجِدْنِي جس نے مجھے ڈھونڈا پایا جس نے میرے سوا ڈھونڈا کچھ نہ پایا۔ اس آیت کے سامنے یہ بھی لکھا ہے۔

قَدْ طَالَ شَوْقُ الْأَبْرَارِ إِلَى تَعَائِي وَآمَنَّا إِلَى تَعَائِمِهِ

ان کی آرزو میں میرے دیکھنے کے لئے بے تاب ہیں میں بھی ان کے دیکھنے کا شوق رکھتا ہوں۔

○ حضرت بایزید بظامی نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ اسے واحدانیت اور فردیت سے تلاش کرنا چاہیے۔ مگر تم لوگ اسے سیاہی اور کاغذ کے صفحات سے تلاش کرتے ہو۔ کب پاؤ گے!

○ بعض حکمانے کہا ہے۔ وَنَدَّتْ بَاكِيًا. وَالنَّاسُ يَفْتَحُونَ فَاَجْتَبَاهُ بَانَ تَسْمُوثَ ضَنَا جَا وَالنَّاسُ يَبْكُونَ: تم پیدا ہونے والے ہو۔ اس طرح زندہ۔ ہونے کی کوشش کرو۔ کہ تم مرتے وقت ہنستے ہنستے

جاڈا اور لوگ تمہارے لئے رو رہے ہوں۔

جائے کہ حدیث تو کسند خندانم . خنداں خنداں بلب برآید جب نام  
جہاں تیرا ذکر ہوتا ہے۔ میں ہنستا ہوں۔ اور تیرے نام پر ہنستے ہنستے جان لے دیتا ہوں۔  
○ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جسے علم توحید کے ایک ذرہ کا بھی علم ہو گیا  
اس کے لئے ایک پھر کا بوجھ بھی ناقابل برداشت ہے وہ غیر اللہ کسی چیز کو برداشت  
نہیں کر سکتا۔

○ تاعشق ترا بر در آوردم تنگ . از بیشہ بردوں کرد مرا رویہ تنگ  
جب سے تیرا عشق میرے سینے میں سما یا ہے۔ تو مجھے دنیا کے جنگل سے لومڑی نے  
بھی بھگا دیا ہے۔

○ اشرف کلماتہ فی التوحید قول النبی صلی اللہ علیہ  
والہ وسلم سبحان من لم یجعل لخلقہ سبیلاً الی موفتہ الا  
بالعجز عن موفتہ :- ترجمہ وہ ذات پاک ہے جس نے مخلوق کو صرف اپنی توحید کا راستہ  
ہی دکھایا جس نے بھی اس کی معرفت حاصل کی عجز سے کی۔

○ یوسف بن اسن قدس سرہ فرمایا کرتے تھے۔ جو شخص بجز توحید میں جاتا ہے روز  
بروز تشنہ ہوتا جاتا ہے۔ وہ کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ اس کی پیاس بڑھتی جاتی ہے اس کی پیاس  
اللہ کے دیدار کے بغیر نہیں کھیتی۔

○ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ فرماتے ہیں۔ جس توحید کو صوفیاء کرام اختیار کرتے

سے . . . . . سہی نے کیا خوب کہا ہے .

یاد داری کہ دقت زادن تو - ہم خندہ بندہ و تو گریاں  
آہنجاں زی کہ دقت مردن تو - ہمہ گریاں شوند تو خنداں

ہیں۔ وہ تو قدیم سے جدید کو جدا کرنا ہے۔ اور اپنے وطن سے باہر آنے کا نام ہے اور معرفت و ریاضت اختیار کرنا ہے۔ اور جو چیزان کے علم میں ہے اس کا بھول جانا ہے اور یہ ساری چیزیں اللہ کے لئے ہیں۔

○ " ایک شخص حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا۔ حضرت میرے لئے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تمہیں علم غیب ہے تو علم توحید سے بھی واقف ہو تو ساری دعائیں تمہارے لئے درست ہیں اگر ایسا نہیں تو دریا میں ڈوبنے والے کو شور اور نعرہ کب بچا سکتا ہے! "

گر من این دوستی تو برم تا لب گور . بز نم نعرہ دلکن ز تو بنیم ہمبیرا " ○ لوگوں نے حضرت خواجہ ابوالحسن بوشنجی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا۔ کہ ایمان کیلئے؟ آپ نے فرمایا۔ ایمان یہ ہے۔ کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو لقمہ کو دل کے سکوں سے آہستہ آہستہ چبا کر کھاؤ اور یہ یقین کر لو۔ جو تمہارا حصہ ہے۔ وہ ضائع نہ ہو۔ "

○ حضرت ابو عبد اللہ رازی قدس سرہ نے فرمایا۔ مجھے سردی اور بھوک نے آگھیرا۔ میں سو گیا۔ غائب سے آواز سنی۔ کیا تمہیں خیال ہے کہ عبادت صرف نماز اور روزہ کا ہی نام ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تابع بنا لینا نماز و روزہ سے افضل ہے۔ "

○ " لوگوں نے حضرت شیخ سے دریافت کیا کہ تصوف کیا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ یہ تصوف تو تمام کی تمام شکر ہے۔ لوگوں نے عرض کی حضرت تشریح فرمائیے۔ فرمایا کہ دل تصوف تو اس چیز کا نام ہے۔ کہ دل کو غیر کی جزئیات سے بھی محفوظ رکھا جائے غیر جزو نہیں ہوا کرتا۔ "

○ ایک دن حضرت شیخ جنید رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے ارد گرد فقراء کی ایک جماعت بھی تھی۔ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے خصوصاً اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ ایک درویش نے کہا الحمد للہ رب العالمین دوسرے درویش نے کہا۔ یہ عامین کیا ہوتا ہے جس کا ذکر اللہ کی ذات کے ساتھ ہے

حضرت جنید نے فرمایا کہ جب نئی چیز کو قدیم ذات سے ملایا جائے اور نئی چیز تو ناپائیدار ہوتی ہے۔ قدیم قائم رہتی ہے۔ نئی چیز (محدث) قدیم میں گم ہو جاتی ہے۔“

○ حضرت بشی رحمۃ اللہ۔ اللہ اللہ اللہ بہت کہا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا۔

آپ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتے۔ صرف اللہ اللہ ہی کہتے ہو فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے نام کو نفی رائکارہ کے الفاظ سے یاد کروں مجھے ڈر آتا ہے کہیں لا الہ کہتے ہوئے مر جاؤں تو اللہ کے نام سے محروم رہ جاؤں۔

○ لا الہ تو آغاز ذکر ہے۔ مگر الا اللہ انتہائے ذکر ہے۔ ایک سالک کئی سال

تک لا الہ درست نہ کرے۔ الا اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

○ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے جہاں ایک تازیانہ

کام کر جائے وہاں تلوار کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میرے اور مخلوق کے درمیان ایک بال کا رشتہ بھی ہو۔ تو وہ بال کا رشتہ اس وقت تک نہیں ٹوٹ سکتا۔ جب وہ کھینچتے ہیں تو میں ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں۔ اور جب وہ سُست رو ہو جاتے تو میں اُسے کھینچ لیتا ہوں۔“

○ کلیدہ و دمنہ میں لکھا ہے۔ کہ زبردست بادشاہ کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے

سوائے تسلیم و رضا کے چارہ کار نہیں۔ اس کی مثال تر حشیش کی سی ہے جس وقت تیز طوفانی

ہوائیں چلتی ہیں تو وہ زمین کے ساتھ پھیل جاتی ہے اور ہوا کا طوفان اس سے گزر

جاتا ہے مگر وہ تار و درخت جو کھڑے رہتے ہیں وہ طوفانوں میں جڑ سے اکھڑ جاتے

ہیں۔ جنگل میں شیر کو دیکھ کر زمین پر بیٹھا جائے۔ اور تواضع کر کے تو شیر ایسے شخص کو کچھ

نہیں کہتا۔ شیر عظیم طاقت کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن اس کا طرف بند ہوتا ہے۔ وہ کسی کمزور

چیز کو تنگ نہیں کرتا۔ یاد رکھو کمزور اور ضعیف دشمن پر فریفتہ نہ ہونا چاہیے آگ فیتے

کو اتنا نہیں جلاتی جس قدر باہمی عداوت قبیلہ کو تباہ کرتی ہے۔ عتاب اندرونی کینہ سے

بہتر ہوتا ہے حضرت ناصح کا زخم دشمن بد آموز سے بھی زیادہ دردناک ہوتا ہے؛  
○ " احمق کو ادب کرنا ایسے ہی ہے۔ جو حنظل (تے) کے نیچے پانی رکھ دیا جائے

جس قدر پانی میں بھیکتا جائے گا۔ پانی کڑوا ہوتا جائے گا۔"

○ " عقل مند وہ ہے۔ جب اسے کوئی مشکل درپیش آئے۔ تمام آراء اور مشوروں

پر غور کرے بنائیت بصیرت سے ان پر غور کرے۔ جو اچھی چیز ہو اس پر عمل کرے اور بڑی چیزوں کو چھوڑ دے ایسے ہی ہے۔ کہ اگر کسی کا ایک دینار مٹی میں گم ہو جائے اگر دانا ہو گا تو وہاں کی تمام ریت کو جمع کرے گا اسے پھلنے گا۔ اور اس طرح گم شدہ دینار کو پائے گا۔"

○ " ایک اعرابی کا ایک بیٹا تھا۔ وہ فوت ہو گیا۔ وہ اس صدمہ پر زار زار روتا تھا۔

لوگوں نے صبر کی تلقین کی اور کہا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں انہیں بے پناہ ثواب ملتا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا صبر بہت سخت ہے۔ رونے سے دل ہلکا ہوتا ہے مگر ایسے صبر سے دل بند ہوتا ہے اور سیاہ ہوتا ہے۔"

○ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ مخلص دوست تھے جو صفا اور حزم میں

ایک دوسرے کے ساتھی رہتے۔ ایک بار انہیں سمندر کا سفر اختیار کرنا پڑا۔ جب جہاز سمندر کے درمیان پہنچا۔ ایک شخص جہاز کے چھت (عرشہ) پر جا چڑھا۔ جہاز نے ہچکولہ کھایا اور وہ سمندر میں جاگرا۔ دوسرے نے بھی اسے دیکھتے ہی پھلانگ لگادی۔ جہاز وہاں ہی لنگر انداز ہو گیا۔ غوطہ زن پانی میں گئے۔ اور انہیں نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابھی تک دونوں زندہ تھے۔ ان کے حواس درست ہونے تو پہلے گرنے والے دوست نے دوسرے سے پوچھا۔ میں تو اتفاقاً سمندر میں گر پڑا تھا۔ تمہیں پھلانگ لگانے کی کیا ضرورت تھی کہنے لگا۔ مجھے اپنی ذات سے دوری اور تیری ذات میں محویت تھی۔ میں نے سمجھا کہ میں دراصل تیری ہی ذات سے مثل تھا۔

○ ایک خلیفہ کی چچا زاد بہن تھی۔ جسے وہ بہت چاہتا تھا۔ ایک دن دونوں باہر

نکلے تو راستہ میں ایک کنواں دیکھا۔ وہ کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئے اتفاقاً خلیفہ کی انگوٹھی

کنویں میں گر پڑی۔ لڑکی نے اپنی انگوٹھی اتاری اور کنویں میں پھینک دی۔ خلیفہ نے لڑکی سے پوچھا۔ تم نے یہ کیا کیا اور کیوں کیا بہکنے لگی۔ میں نے جدائی کے صدمات آزمائے ہوئے ہیں میرا دل نہ چاہا۔ کہ میرے چاہنے والے کی ایک چیز کنویں میں رہے اور میری انگلی کی یہ انگوٹھی اس سے دور رہے۔ دہشت جدائی سے بچنے کے لئے میں نے اُسے مونس بنا دیا ہے۔“

○ اے روئے تو چوروز دلیل تو ملے دے مورتے تو چناں چوشت ملد از لحد

اے من مقدم از ہم عشاق چوں توی مرحن را مقدم چوں از کلام تہ

لکی بکعبہ فخر کند مصدیاں نبیل تر سا با سقف و علوی بافتخار جد

فخر رہی بد اں دوسرے چمکاں تست کا مدید زیر نقاب او بر در خد

○ ” ایک نو عمر لڑکا حضرت شبلی کے حلقہ میں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا یا حضرت

مجھے میری ذات سے غائب کر دیں۔ مجھے میری اپنی جان سے ملا دیں۔ میں میں ہی رہوں شبلی

فرمانے لگے۔ تمہیں یہ بات کیسے آئی۔ تم یا نابینا ہو جاؤ گے یا غلام۔ کہنے لگا۔ حضرت یہ میرے

نسیب کب کہ اس کی ذات میں نابینا ہو جاؤں یہ کہہ کر بھاگ گیا۔

○ فَإِذَا الْقُبُورُ الْقَائِمَةُ وَالصَّبْرُ إِذَا الصَّبْرُ تَتَأْتِي

تم نے مجھے دیکھا تم نے اسے دیکھا۔ اور تو نے اسے دیکھ لیا۔ تو ہمیں بھی دیکھ لیا۔

چوں مراد دیدی تو اور دیدی چوں ورا دیدی تو دیدی مر مرا“

○ ” یعنی معاذ الازمی قدس سرہ فرماتے ہیں جب تک انسان طلب میں سرگرواں

رہتا ہے اسے کہتے ہیں کہ تمہیں با اختیار ہونے کی کیا ضرورت ہے جبکہ تم اس اختیار کے مالک

نہیں ہو۔ جب یہ انسان فنا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں۔ اگر تم اسے چاہتے ہو تو جلدی کرو۔ ورنہ

اختیار کتے ہو تو تمہارا اختیار تو ہمارے پاس ہے اگر چھوڑتے ہو تو وہ بھی ہمارے ہی اختیار

میں ہے۔ تمہارا اختیار ہمارا اختیار ہے۔ تمہارا کام ہمارا اپنا کام ہے۔

امروز کہ معشوقہ بعشقم بزفاست بود گوہر میر اسب ما باید خواست



○ حضرت سہیل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ بندے اور اللہ کے درمیان سخت ترین حجاب بندے کا دعویٰ ہے۔

” حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تسویقل من — صادقاً کان ارتکاباً نسیرد علی الخوض : جو شخص کسی مجرم کا عذر قبول نہیں کرتا وہ عذر خواہ سچا ہو یا جھوٹا میرے حوض سے پانی نہ پی سکے گا۔“

○ ”عبد اللہ بن الفرج العابد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ میں ہر ایک دن اپنی ذات پر دن رات نائل ہونے والی چودہ ہزار نعمتیں گنتا ہوں۔ لوگوں نے دریافت کیا۔ اتنی تعداد کی نعمتوں کو گنتا کس طرح ممکن ہے۔ فرمایا میں نے دن رات اپنے سانس گنے تو چودہ ہزار تھے ہر سانس اس کی ایک نعمت ہے۔“

○ ”محمد بن حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو طبیب تمہیں کر دوی دوائی دیتا ہے تاکہ تم سندرست ہو جاؤ۔ وہ تمہارا مشفق ہے۔ اس شخص کی نسبت جو تمہیں علوہ کھلاتا ہے کہ بیمار ہو جاؤ جو جا سوس تمہیں خطرات سے آگاہ کرتا ہے وہ اس شخص سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ جو تمہیں خطرات سے بے خبر رکھتا ہے۔“

○ ”ایک بادشاہ نے وزیر سے دریافت کیا کہ انسان کب شریف ہوتا ہے وزیر نے کہا جب اس میں سات عادتیں جمع ہو جاتی ہیں پوچھا وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا۔ اول ہمت آزادگان کنواریوں سا شرم۔ غریبوں سے تواضع۔ عاشقوں کی سی سخاوت۔ بادشاہوں کی سی سیاست بوڑھوں جیسا علم اور تجربہ۔ پھر عقل جو دل و دماغ کی راہنما ہو۔“

ابو جعفر قاینی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد مکرم سے سنا وہ فرمایا کرتے تھے۔ لومرد چار چیزوں پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن اس کی تاویل نہیں کر سکتے۔ حسب پر دولت پر علم پر اور تقویٰ پر۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں اور حسب سے شرف کی نسبت قائم ہوتی ہے اور دولت کثرت مال کا نام ہے۔ حالانکہ دولت تو دل کی دولت ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جسے

اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں بھر دیتا ہے۔ اور تقویٰ تو اس مقام کا نام ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے ہاتھ کو روک لے۔“

” ایک اعرابی کی زہرہ نامی کینز تھی۔ لوگوں نے اسے پوچھا تم امیر المؤمنین بننا پسند کرو گے اور یہ کینز مر جائے کہنے لگا۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ میری زہرہ تو مر جائے۔ اور میری رعایا کا کام خراب ہو جائے۔“

” ایک دیہاتی نے اپنے دکیل کو کہا۔ مجھے ایک ایسی گدھی خرید دو جو نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی ہو۔ مجھے نشیب و فراز میں سواری کا کام دے۔ دشوار گزار راستوں میں رک نہ جائے۔ پتھروں سے بچ کر چلے۔ اگر گھاس تھوڑا ملے تو اس پر بھی صبر کرے۔ اگر زیادہ مل جائے تو بقایا چھوڑ دے دکیل کہنے لگا۔ جناب میں ایسی گدھی خریدنے سے تو قاصر ہوں ہاں تم اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہارے لئے ابو یوسف قاضی کو گدھی بنا دے۔ یہ سارے اوصاف تو ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔“

” ایک یہودی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں آیا اور سوال کیا یا امیر المؤمنین ہمارا اللہ کیا ہے؟ اور کب کا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا۔ اللہ اوصاف سے باندہ نر ہے۔ اور اوصاف سے مبرا ہے۔ وہ جیسے تھا ویسا ہی ہے۔ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ ہر پہلی چیز سے پہلے ہے۔ بے انتہا بے غایت ہے۔ اس کی ذات پر تمام انتہائیں اور غائتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہودی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں اس کے علاوہ جو بھی کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ پھر کہا۔ اشہدان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمداً رسول اللہ۔“

○ شہ الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو توحید کی بڑیک نہیں آتی جس نے کسی کا حق مارا ہو اور اس کا حق ادا نہ کیا ہو۔ یہ بات اپنے مقام پر قابل داد ہے۔

○ ایک دفعہ ایک درویش ایک وادی سے آیا۔ وہ اس وقت ناقہ میں تھا

وہ کو ذمہ میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا۔ دونوں کھجوروں کے ایک باغ میں گئے۔ باغ کے مالک نے کہا۔ آؤ کھجوروں پر چڑھ جاؤ۔ جی بھر کر کھجوریں کھاؤ جتنی چاہتے ہو۔ گھر لے جاؤ وہ درویش درخت پر چڑھ گیا۔ ان کا دوست درخت کے نیچے کھڑا رہا درویش کا درخت سے پاؤں پھسل گیا اور زمین پر آگرا۔ کھجور کا ایک کانٹا پیٹ کو چیرتا ہوا نکل گیا سینہ چیر دیا۔ وہ ابھی موت و حیات کی کش مکش میں تھا کہ کہنے لگا۔ شکر الحمد للہ میں اس وقت تک نہیں مراحب تک اپنی مراد کو نہیں پایا۔ بھوکا پیٹ۔ پھٹا ہوا پیٹ اور لبوں پر جان اس سے بڑھ کر تمہاری سزا اور کیا ہو سکتی ہے دوست آگے بڑھا۔ اس کے سر ہانے آکھڑا ہوا پھٹے ہوئے پیٹ پر نظر ڈالی۔ پیٹ کو باندھنا چاہا۔ درویش نے دوست کی رفاقت کو دیکھا اور کہا۔

الْيَوْمَ لَا يَرْفَعُ غَيْرِي ذِيْلِي لَيْلِي نَهَارِي وَنَهَارِي لَيْلِي

درویش نے کہا۔ اب اس میں کوئی خیانت نہیں رہی۔

○ حضرت ستری سقطی قدس سرہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے حضرت جنید قدس سرہ

آپ کی بیمار پرسی کو آئے۔ بیمار نے فرمایا۔ جنید! آگ ہو اسے بھڑاک اٹھتی ہے۔ حضرت جنید

نے پوچھا۔ وہ کیسے؟ حضرت ستری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عِنْدَ طُلُوْلِ لَا يَقْدِرُ عَلٰی شَيْءٍ رَّبِّمَا رَادِي

بیمار آدمی کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا، حضرت جنید نے کہا حضور کوئی وصیت فرمائیں

لَا تَسْغُلُ عَنْ صُحْبَةِ اللَّهِ بِصُحْبَةِ الْاَغْيَارِ۔ (غیروں کی صحبت اللہ کی

صحبت سے اچھی نہیں ہے، حضرت جنید رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ اگر میں آج سے پہلے یہ بات

معلوم کر لیتا۔ تو آپ کی صحبت سے بھی پرہیز کرتا۔

○ حضرت ابو بکر کتانی بہت بڑے بزرگ ہونے میں۔ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے علم

اور مجاہدہ تک کوئی بھی نہیں پہنچا۔ ان کے مجاہدات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ تیس سال

تک کعبۃ اللہ کے پر نالہ کے نیچے بیٹھے رہے۔ اس مدت میں دن اور رات میں صرف ایک



تو آپ کا ہی حق ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہم تو اپنی نیا ز مندی پیش کرتے ہیں تاکہ آپ ہمارے لئے مزید اسرار و معانی بیان فرما سکیں۔ ہماری آتش شوق کا علاج آپ کا کلام ہوگا۔ استاد ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے بات مانتے ہوئے مجلس برپا کی۔ وہ منبر پر بیٹھے مگر بات کھل کر نہ کر سکے۔ غالباً حاضرین ان کے اسرار و معانی کے سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے اس اثنا میں حضرت شبوئی مسجد میں تشریف لائے۔ استاد ابو علی کی نگاہیں آپ پر پڑیں۔ تو گفتگو میں جان آگئی۔ دریائے معانی ٹھاٹھیں مارنے لگا حضرت شبوئی نے فرمایا۔ کلمات تو وہی تھے لیکن ہماری نیا ز مندی نے بیان میں سوز پیدا کر دیا۔

○ "انکساری ہی انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی نیا ز مندی اور عاجزی سے بڑھ کر کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ یہ انکساری سخت پتھر پر گرے تو وہاں سے چشمہ آب جاری ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے۔ طریقت کا اصل و اصول تو یہی ہے انکساری ہی اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔"

○ "گریوں کی سخت دوپہر تھی۔ ہم لوگ قیلوہ کر رہے تھے۔ میں نے شیخ شبوئی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ اٹھے۔ پتیاتی ہوئی دھوپ اور گرد و غبار میں باہر نکلے۔ میں نے آواز دی حضرت اس گمی میں کہاں جا رہے ہیں۔ فرمایا۔ میں خانقاہ میں جا رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے۔ قیلوے کے وقت درویشوں کے ساتھ بیٹھنے والے کو ایک دن میں ایک سو پس جتیں ملتی ہیں یہی وقت ہے۔ جب میں جا رہا ہوں۔"

○ "سری سقلی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے بازار میں بیٹھا کرتے۔ ایک دکان لے رکھی تھی اس دکان میں کوئی فروختنی چیز نہیں ہوتی تھی۔ بایں ہمہ دکان میں ایک پردہ پڑا رہتا۔ لوگوں کو خیال ہوتا۔ کہ اس پردے کے پیچھے مال تجارت پڑا ہوتا ہے۔ آپ پردے کے پیچھے چلے جاتے۔ اور نماز ادا کر لیتے۔ ایک بار ایک شخص جبل الکلام سے آپ کی زیارت کو آیا۔ آپ کی دکان پر آیا پردہ اٹھایا۔ اور آپ کو سلام عرض کیا۔ اور کہا کہ فلاں بزرگ شخص

نے جب الکلَام سے آپ کو سلام عرض کیا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ وہ یہاں سے بھاگ کر پہاڑوں کی غاروں میں یاد خداوندی میں چلا گیا ہے یہ بزدلی ہے بہادری یہ ہے کہ بازار میں رہے۔ لوگوں کا ہجوم ہو اور یاد خداوندی سے غافل نہ ہو۔ ایک لمحہ بھی اس کی یاد سے خالی نہ ہو۔“

○ شیخ ابولعباس فرمایا کرتے تھے جو مرید اپنے مرشد کے پاس ایک مجلس بیٹھے گا وہ سو رکعت نوافل سے زیادہ ثواب پائے گا۔ اگر کھانے کا ایک لقمہ کم کھایا جائے تو ساری رات کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے۔“

○ ایک درویش دنیائے اسلام کا سفر کرتا رہا کہیں آرام سے نہ بیٹھا۔ کچھ نہ پایا۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ ایک خاردار وادی میں تنہا جا بیٹھا۔ گڈڑی اوپری اور دل آسودہ ہو گیا۔ آسمان کی طرف منہ کر کے کہا۔ يَا رَبُّ اَنْتَ قَفِي فِي الْكَسَاءِ وَاَنَا اَطْبَبُكَ فِي الْمَبْوَادِي مُدْكَذَا =

”اے اللہ تو اس گڈڑی میں میرے ساتھ ہے۔ میں تجھے وادیوں میں تلاش کرتا رہا ہوں۔ اور اتنے سال پھرتا رہا۔ مگر تو میرے پاس ہے۔“

○ ایک دن حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے۔ ایک بچے کو دیکھا جس نے سلام کیا۔ اور کہا۔ اَيُّهَا الشَّيْخُ اِلَى مَتَى اِنْتِظَرُكَ۔ (یا حضرت میں کب تک آپ کا انتظار کرتا رہوں) حضرت جنید نے فرمایا۔ بیٹا! کیوں تم نے مجھ سے وعدہ لیا ہوا تھا بچے نے کہا۔ ہَا سَاَلْتُ مَقْلَبَ الْقُلُوبِ اَنْ تُجْرِكَ قَلْبِي اِلَى رَمِيْنِي (میں نے اپنے اللہ مقلب القلوب سے کہا تھا۔ کہ وہ آپ کے دل کو میری طرف متوجہ کر دے) حضرت جنید نے کہا۔ تم نے صحیح کہا ہے۔ اب بتاؤ! کیا چاہتے ہو۔ بچے نے کہا مجھے یہ بتائیے۔ اِذَا خَالَفَتِ النَّفْسَ هَوَاهَا طَارَ دَوَاهَا (جب تم نفس کی خواہشات کی مخالفت کرو گے تو وہی تمہارا روحانی علاج بن جائے گا) حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے

فرمایا۔ یہ بیماریاں انسان کو مار سے جا رہی ہیں۔ لیکن جب انسان خواہشات نفس کی مخالفت کرتا ہے۔ تو شفا یاب ہو جاتا ہے۔

○ حضرت مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ میں نے اتنے حج کئے جبکہ نہ میرے پاس کوئی سواری تھی نہ ساتھی۔ نہ زادراہ نہ ڈول۔ میں نے سوچا یہ تمام چیزیں نفاقی خواہشات ہیں لوگوں نے فرمایا یہ تو بہایت ضروری ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک بار میری والدہ نے کہا تھا۔ کہ کنویں سے ایک گھڑا پانی تو نکال دو۔ میں نکال لایا۔ مجھے اس دن بھی محسوس ہوا۔ کہ یہ کام بھی ہم نفاقی خواہش سے کر رہے ہیں:

○ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ اگر تمہیں کوئی شخص یہ کہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں۔ اگر یہ بات تمہیں اچھی لگے۔ تو سمجھ لینا ابھی تک تم بیس ارجل (بڑے انسان) ہو:

○ ایک دن ایک جولاہہ وزارت کے منصب پر پہنچ گیا۔ وہ ہر روز صبح صبح اٹھتا۔ ایک چابی لیتا۔ اپنے پرانے گھر کا دروازہ کھولتا۔ چند لمحے وہاں ٹھہرتا۔ اور پھر باہر آ کر تالا لگا دیتا۔ اور اپنے بادشاہ کی خدمت میں چلا جاتا۔ لوگوں نے بادشاہ کو اس صورت حال سے آگاہ کیا۔ اور کہا یہ حرکت بادشاہ کے خلاف ہو سکتی ہے۔ بادشاہ کو بھی خیال آیا۔ کہ اس مکان میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہے۔ ایک دن وزیر کے پیچھے پیچھے اس مکان پر پہنچا۔ اس مکان کے اندر ایک گڑھا جس طرح جولاہوں کی کھڈی کا ہوتا ہے۔ دیکھا۔ وزیر کو دیکھا کہ اس میں پاؤں ٹسکا کر بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اسے کہا۔ یہ کیا ہے؟ وزیر نے بتایا۔ حضور یہ تمام دولت اور شان و شوکت تو آپ کی وجہ سے ہے۔ میں جو کچھ ہوں اس کی اصلیت تو یہ ہے۔ میں اس کی یاد کو تازہ رکھتا ہوں تاکہ مغرور نہ ہو جاؤں۔ بادشاہ نے اپنی انگوٹھی اتار کر وزیر کو دے دی اور اسے پہننے کا حکم دیا۔ اب تک تم وزیر تھے آج سے تم امیر ہو۔ اور اس ملک پر تمہارا سکہ اور حکم چلے گا:

○ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ کہ شیر پر سواری کرتے اور سانپ کا چابک بناتے۔ اور فرماتے اس سے بلند تر رتبہ مخلوق خدا کا ہے جب نماز ادا کرتے۔ فرماتے

الہی بَسِطْرَكَ عُشِينَا فَلَوْ رَفَعْتَ عَنَّا عَطَاكَ لَأَفْتَضَخْنَا

○ ایک دن حضرت بوعلی قدس سرہ مجلس فرما رہے تھے۔ آپ کا بیان عروج پر تھا۔ لوگ داد و تحسین دے رہے تھے۔ ایک شخص مجمع سے اٹھا اور کہنے لگا۔ حضرت یہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ مگر خدا کہاں ہے۔ فرمایا۔ مجھے بھی پتہ نہیں اور میں اسی لئے فریاد کر رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا۔ جب آپ بھی نہیں جانتے تو نہ کہو۔ فرمایا۔ پھر میں کیا کہوں؟

○ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے پوچھا۔ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سفر میں جاتا ہے۔ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کس طرح ہے۔ حالانکہ مقصود تو بغیر سفر کے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ کائنات ارضی کے خطے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے سینوں پر کسی مردِ مومن کے قدم لا۔ ہماری آنکھیں اپنے کسی بندے کی آمد سے منور فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سفر پر آمادہ فرماتا ہے تاکہ اسی زمینوں کی دیدار کی پیاس بجھ جائے۔ اور ان کی خواہش پوری ہو جائے۔

○ شہر مرو میں ایک دانشمند رہتا تھا۔ وہ گھر سے باہر نہ آتا اتفاقاً ایک دن باہر نکلا۔ اور مسجد میں آ بیٹھا۔ کسی نے دیکھا تو کھانا پیش کیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کیا۔ کھا چکا۔ تو ایک کتا اندہ آ گیا۔ اس نے حملہ کر کے اس کا دامن گھیننا شروع کر دیا۔ دانشمند نے کتے کو مخاطب کر کے کہا۔ تم ٹھیک کر رہے ہو۔ تم کسی کے بھیجے ہوئے ہو۔ جو میری کوتاہی اور غلطی پر یہ کام کر رہے ہو۔ نیکن دوسرے لوگوں کو اس حقیقت کا علم نہیں۔ وہ تمہیں ایسا کرتا دیکھ لیں گے تو ماریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد موذن آیا۔ ایک بڑی سی لاٹھی اٹھائے۔ کتے پر ٹوٹ پڑا۔ اور ایک زور سے ماری کتا۔ چلایا۔ اور بھاگا۔ دانشمند نے کتے کو کہا تم نے دیکھا۔ میں نے تجھے کہا تھا۔ مجھے تو کوئی انکار نہیں مگر دوسروں کو کیا علم وہ تجھے کس طرح معاف کریں گے۔ دوست کو دوست سے کوئی چیز جدا نہیں مگر بے گانوں کو کیا علم۔



○ سمرقند میں ایک عالم دین نے ایک بوڑھے آدمی کو فرمایا کہ مجھے اپنے تجربہ سے ایک بات لکھ دو۔ بوڑھے نے کہا۔ تیس سال ہو گئے ہیں۔ میں ایک ہی بات پر دکا ہوا ہوں۔ ذہبی النفس عن البوی ابھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔

○ قیامت کے دن ابلیس کو پکڑ کر دربارِ خداوندی میں پیش کیا جائے گا۔ اور اسے پوچھا جائے گا۔ کہ تم نے اتنی مخلوق کو گمراہ کر دیا تھا۔ اس نے کہا۔ نہیں میں نے تو انہیں صرف دعوت دی تھی۔ یہ خود برائیوں میں مبتلا ہوتے رہے۔ حکم ہوا آج بھی حضرت آدم کو سجدہ کر لو۔ اس حکم پر تمام شیطانوں نے کہا۔ سجدہ کر لو۔ ہم بھی بری ہو جائیں گے شیطان نے کہا۔ اگر میں سجدہ کر سکتا۔ تو پہلے دن ہی کر لیتا۔

○ ایک دن ہم حضرت ابو بکر جو زنی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے کہا۔ کوئی بات سنائیں انہوں نے ایک کتاب کھولی اور ہمیں یہ حکایت سنائی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈو شکر ہیں۔ ایک آسمانوں پر وہ سبز لباس پہنتے ہیں۔ دوسرا زمین پر خراسان میں صوفیا کی شکل میں تربیت پا رہے ہیں جو تمام دنیا پر پھیل کر اسلامی تعلیمات کو عام کریں گے۔

○ ایک دفعہ ہمارے عزیز درگاہ کا خوبصورت بیٹا جس کا نام احمدک تھا۔ لوگ اُسے معشوق احمدک کہا کرتے۔ وہ عام طور پر اپنے بیٹے کی باتیں کرتا رہتا۔ لوگ اس کی باتیں سنتے سنتے تنگ آ گئے۔ اب لوگوں نے اس کے پاس آنا چھوڑ دیا وہ بازار چلا جاتا جہاں مزدور لوگ مزدوری کے انتظار میں کھڑے ہوتے۔ کسی ایک کے پاس جاتا۔ اور پوچھتا بھائی تم ایک دن کی کیا مزدوری لو گے۔ وہ کہتا تین درہم اُسے گھر لے آتا۔ اپنے پاس بٹھاتا۔ کھانا کھلاتا۔ تین درہم پیشگی ادا کرتا معشوق احمدک کی باتیں بتانا شروع کرتے وہ باتیں کرتا رہتا۔ مگر مزدور کہتا حضور کوئی کام ہو تو مجھے حکم دین میں اپنا کام شروع کر دوں دن گزرتا جا رہا ہے وہ کہتا۔ تمہارا کام صرف یہی ہے اور بس!

○ "ہمارے گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کے پاس ایک گھوڑا تھا۔ ایک آدمی نے اس کا گھوڑا مار دیا۔ اس نے کہا۔ آپ مجھ سے گھوڑے کا ہرجانہ اور تادان سے لیں۔ اس نے کہا مجھے تادان کی ضرورت نہیں میں تو اپنا گھوڑا ہی لینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس بات پر لڑائی اور جھگڑا شروع ہو گیا ادھر ادھر سے لوگ جمع ہو گئے یہ جھگڑا دونوں قبیلوں میں ایک لڑائی کی صورت اختیار کر گیا۔ کئی آدمی قتل ہو گئے۔ عورتیں بیوہ ہو گئیں بچے یتیم ہو گئے۔ گھر ویران ہو گئے۔ یہ سارا معاملہ ایک شخص کی ضد سے ہوا۔"

○ "مخود کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا۔ حضور آپ کیسے ہیں فرمایا۔ خاموش! یہاں کسی کی بادشاہی اور عطا نہیں مجھے بھی عام آدمیوں کی طرح باز پرس ہو رہی ہے۔ ہماری بادشاہی تو ایک غلطی تھی یہاں مجھے کھڑا کیا ہوا ہے۔ ایک ایک بات کا پوچھا جا رہا ہے۔ بیت المال تو کسی دوسرے کے قبضہ میں ہے مگر باز پرس مجھے ہو رہی ہے۔"

○ "حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت پر اعتماد کیا۔ اور کہا اے اللہ اس درخت کو حکم دے۔ تاکہ یہ میری حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تم درخت پر اعتماد کرتے ہو، اور اس میں حفاظت تلاش کرتے ہو۔ اب اس سلسلہ میں حالات کو دیکھو آپ درخت کی طرف بڑھے۔ درخت پھٹ گیا۔ آپ اندر چلے گئے۔ درخت پھر جڑ گیا۔ مگر آپ کی چادر کا ایک حصہ باہر رہ گیا۔ مخالف رہاں پہنچے چادر کا ایک حصہ باہر دیکھا۔ معلوم کر لیا کہ آپ درخت کے اندر ہیں آ رہے لائے۔ اور درخت کو چیر دیا۔ آ رہے حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچا تھا۔ تو آپ نے آہ کی۔ آواز آئی خاموش تم نے درخت پر اعتماد کیا اس میں پناہ لی۔ اب آہ نہ کرو۔ اگر ہم پر اعتماد کرتے ہماری پناہ میں آتے تو کوئی بال بیگانہ کر سکتا۔"

○ "ایک شخص نے دوسرے کو کہا۔ آؤ تمہیں اپنا ہیمان بنا لوں اس نے کہا بہت

اچھا۔ اس نے کہا اگر گانا سننا چاہو تو کسی خوش آواز کو بلا لاؤں۔ اس نے کہا مجھے پہلے تھوڑا سی شراب تو لا دو۔ اس نے ایک پیالے میں شراب دی اس نے پی لی نشے میں ہجوم

اٹھا۔ اپنے میزبان کو کہنے لگا۔ اگر یہ شراب مزید چند پیالے دو تو مجھے گانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔  
میں اپنے گانوں سے ہزاروں کو محفوظ کرتا رہوں گا۔ شراب پیتے ہی میرے ساتوں اعضاء گردش  
کرنے لگے ہیں مجھے گانوں کی آواز آنے لگی ہے۔“

○ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضہ میں ہوائیں تھیں وَ لَسِيْلَمَانَ السَّرِيْحِ اِنهوں  
نے سلطنت مانگی انہیں چالیس سال حکومت دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دوسرے پیغمبروں سے  
چالیس سال بعد جنت میں داخل ہوں گے۔“

○ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ آہنگری کرتے تھے۔ لوہے پر پتھر ڈا مار تے اور شاگردوں  
کو بھی کہتے ہتھ ڈا مارو۔ وہ مارتے تو کہتے ٹھیک ہے۔ پھر کہتے مارو۔ مارتے تو کہتے ٹھیک ہے  
پھر کہتے تو مارتے۔ شاگرد تنگ آ کر کہتے حضرت اب تو مارنے کی کوئی جگہ نہیں اب کہاں ماریں۔  
حضرت نے سنا۔ تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نعرہ مارا۔ ہتھوڑا زمین پر گر پڑا۔ ہوش آیا۔ تو سارا مال و  
سناں اور دکان ٹا دی۔ فرمایا لو ہا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت انسان کیوں ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک  
دقت آیا کہ کا ملان خد سے ہوئے۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

○ لوگوں نے حضرت امیر المومنین حضرت عبید بن جریج رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی خواہش  
کیا ہے۔ فرمایا۔ مراے کاشکے مادر زاد سے۔ کاش میں پیدا نہ ہوتا۔ لوگوں نے فرمایا حضرت  
جو پیدا نہیں ہوا۔ کس کام کا ہوگا؟ حضرت شیخ ابوسعید فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ مطلب  
یہ ہے کہ کاش ہم اس طرح زندہ رہتے تو جب مرتے تو یوں معلوم ہوتا کہ ہم پیدا ہی نہیں ہوئے۔  
اور کوئی گناہ نہیں کیا۔ دنیا کی آلائشوں سے پاک رہے۔ حضرت پیر ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا  
کرتے تھے سو فی وہ ہے جو پیدا ہی نہیں ہوا۔ ان کا مطلب یہی تھا۔“

○ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو کہا۔ کہ میرے ہاتھ پر ایک  
یہودی نے اسلام قبول کیا تو میں نے اسے کہا۔ اپنا زنا رکاٹ دو۔ اس نے زنا رکاٹ دیا۔  
حضرت جو اللہ نے فرمایا۔ تمہارے کہنے پر یہودی نے زنا رکاٹ دیا۔ لیکن تم نے اپنا زنا رکاٹ ہی تک

نہیں کاٹا۔“

○ ایک دن حضرت شیخ ابوسعید ابو النخیر رحمۃ اللہ علیہ مجلس وعظ میں بیٹھے تھے اور حضرت امام ابوالقاسم قشیری کی طرف مخاطب تھے کیا آپ نے نہیں سنا کہ استاد ابواسحاق اسفرائینی نے فرمایا تھا۔ اَلنَّاسُ كَلِمٌ فِي التَّوْحِيدِ عِيَالٌ عَلَى الصَّوْفِيَّةِ كَمَا دَهَا فِي مَن سَنَاهُ حضرت نے فرمایا۔ اب ان سے سنو وہ کیا کہتے ہیں؟“

○ میں ایک بار حضرت عبدالرحمن سلمیٰ کے پاس گیا۔ میں نے انہیں دیکھا تو فرمانے لگے میں اپنے ہاتھ سے تمہارا تذکرہ لکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کی۔ ضرور لکھیں۔ لکھا۔ سَمِعْتُ جَدِّي۔ ”ابا عمرو بن نجيد السلمي يقول سمعت ابا القاسم جنيد بن محمد البغدادي يقول التصوف هو الخلق - مَنْ زَادَ عَلَيْكَ بِالتَّصَوُّفِ وَآخَسَ مَا قِيلَ فِي تَفْسِيرِ الْخَلْقِ تَأْتِيهِ“

○ ایک بزرگ کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ ان کا زادراہ ختم ہو گیا صرف ایک خشک روٹی باقی رہ گئی۔ منہ میں ڈالی مگر دانتوں سے چبائی نہ گئی۔ ہاتھ سے توڑی۔ دریا میں پھینک دی ایک موج آئی۔ بہا کر لے گئی۔ موجوں نے روٹی سے پوچھا تم کیا ہو۔ اس نے کہا۔ میں ایک خشک روٹی ہوں اگر تر نواہ ہوتی تو مجھے اس طرح کوئی نہ پھینکتا۔ مرو میں ایک مالدار شخص کے دل میں آیا کہ وہ اپنا روپیہ کاروبار تجارت میں لگا دے تجارت کا مال کشتی میں رکھا اور سفر تجارت میں نکلا۔ کشتی ٹوٹ گئی۔ سارا مال پانی میں ڈوب گیا۔ تمام لوگ ہلاک ہو گئے صرف ایک تختہ پانی پر تیرتا نظر آیا جس پر وہ بیٹھا تھا ایک جزیرے پر جا لگا۔ ایک دن وہ سمندر کے کنارے بیٹھا ننگا۔ بال بکھرے ہوئے اور تن کا روناں روناں درد کر رہا تھا اور یہ بیت پڑھ رہا تھا۔

إِذَا شَابَ الْغَرَابَ أَتَيْتَ أَهْلِي - وَهَيْمَاتِ الْغَرَابِ كَتَى بِشَيْبِ

سمندر سے آواز آئی۔

عَنِ الْكُرْبِ الَّذِي أَمِيت فِيهِ يَكُونُ وِرَاةً فَرَجٍ قَرِيبٌ

دل سے بندے۔ بایوس نہ ہو۔ تمہیں کیا پتہ کہ جن حالات میں گزر رہے ہو راحت اور خوشی سے تبدیل ہو جائیں

دوسرے دن اس شخص نے دیکھا کہ سمندر میں کوئی بہت بڑی چیز تیر رہی ہے قریب آئی تو دیکھا کہ اسی کی کشتی آ رہی ہے۔ اسے دیکھا تو کشتی والے پوچھنے لگے۔ تم کس حال میں ہو۔ اس نے کہا میرا واقعہ بہت عجیب و غریب ہے اور داستان بہت دردناک اور مہنی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کس شہر کے آدمی ہو۔ کیا تمہارا کوئی بیٹا یا اولاد ہے اس نے بتایا۔ میرا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا۔ یہ سنتے ہی بنایت احترام سے کہنے لگے۔ یہ تمہارا لڑکا ہے۔ یہ ساری کشتی اسی کی ہے۔ ہم تمام اس کے کارندے ہیں۔ ان کشتی والوں نے اسے کپڑے پہنائے۔ اسے کشتی پر بیٹھا کر واپس وطن لے گئے۔ حضرت شیخ ابوالخیر فرماتے ہیں۔

کار چوں بستہ تو دیکشا یدا دز لیس ہر غم طرب افزا یدا

(جب کوئی کام رک جائے تو اللہ تعالیٰ اسے آسان بھی کر دیتا ہے۔ ہر غم کے

بعد خوشی کا ایک وقت بھی آتا ہے)

○ "میں ایک دن بیٹھا تھا۔ اور مجلس گرم تھی ایک شاعر اٹھا اور اٹھ کر

یہ شعر پڑھا۔

ہمی چه خوابد این گردش زمن ز منا!

میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اٹھتے ہی تم نے اپنی بات شروع کر دی ہے مزہ کرنا ہو

گیا۔ کاش اس کی بات کرتا۔

○ ایک بار ابو حادہ دوستانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک دوست کے ساتھ جا

رہے تھے رستے میں ایک مقام پر پہنچے تو دوست نے کہا۔ آپ یہاں ٹھہریئے میرا یہاں ایک دوست ہے میں اسے مل آؤں۔ ابو حامد وہاں ہی ٹھہر گئے ساری رات گزر گئی وہ واپس نہ آیا رات بھر برف پڑتی رہی۔ مگر آپ وہیں پڑے رہے۔ دوست دوسرے دن آیا تو آپ کو وہاں ہی کھڑے پایا۔ برف میں مجھے پڑے ہیں۔ اور تھوڑی سی حرکت سے برف ہلی تو آپ نظر آئے۔ پوچھا۔ آپ ابھی تک یہاں ہی ہیں۔ فرمایا تم نے ہی تو کہا تھا کہ یہاں ٹھہریئے میں آتا ہوں۔ دوستوں کی وفاداری تو اسی کا نام ہے۔“

○ ایک دفعہ روم کے بادشاہ نے امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا قاصد بھیجا۔ مدینہ منورہ پہنچا تو لوگوں سے آپ کے معاملات کا پوچھا مگر آپ ایک کچے مکان میں رہتے تھے۔ دل میں کہنے لگا یہ کیسا بادشاہ ہے جس کے پاس مجھے بھیجا گیا ہے۔ گھر گیا لوگوں نے بتایا وہ تو قبرستان میں گئے ہیں۔ آپ کے چھپے گیا۔ دیکھا آپ قبرستان میں ریت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور سوتے ہوئے ہیں قاصد نے کہا۔ واقعی حکومت اس چیز کا نام ہے بے خوف و خطر بیٹھے ہیں۔ ہمارے بادشاہ حکومت کرتے ہیں۔ مگر انصاف نہیں کرتے۔ اور دروازے پر سپرہ دار کھڑا کرتے ہیں۔ اور سوتے بھی ڈرتے ہیں۔“

○ ہم جن دنوں مرد میں تھے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت تھی جسے بی بی سیاری کہا کرتے تھے۔ ایک دن ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی۔ بابا سعید! ظلم کر رہے ہو۔ ہم نے پوچھا۔ کس طرح، کہا لوگ دعا کرتے ہیں کہ آپ انہیں ایک لمحہ کے لئے بھی جدا نہ کریں۔ ہم نے کہا بی بی ہمیں تیس سال گزر گئے یہ کہتے ہوئے کہ صرن ایک لمحے کے لئے دیکھنے کا موقع دیں۔ ابھی تک یہ بات نصیب نہیں ہوئی۔“

○ ایک دفعہ ایک شخص حضرت یحییٰ بن حاذر الرازی قدس العزیز کی مجلس کے نزدیک سے گزرا آپ اس وقت وعظ فرما رہے تھے۔ اس نے کہا مَا أَطْرَفَكَ بِالطَّرِيقِ وَمَا أَجْهَلَكَ بِسَرِّ الطَّرِيقِ (آپ نے طریقہ کا راستہ کتنا اچھا پایا ہے۔ مگر صاحبِ طریقت

سے کتنے دور ہوں)

○ لوگوں نے ایک دفعہ ابو الفضل حسن قدس سرہ کو کہا حضرت دعا فرمائیے تاکہ بارش ہو جائے۔ ایک عرصہ سے بارش نہیں ہوئی آپ نے فرمایا۔ اسی رات برف باری ہوئی۔ صبح لوگوں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا۔ فرمایا۔ میں ٹھنڈا تھا دنیا کو ٹھنڈا کر دیا۔

○ ایک بار لوگوں نے پیر ابو الفضل حسن کو کہا۔ حضور یہ محمود بادشاہ ہے۔ اس کے لئے دعا فرمائیے کہ ٹھیک ہو جائے۔ چند لمحوں کے لئے خاموش رہے۔ فرمایا۔ میں بہت چھوٹا ہوں آپ لوگ خود ہی اسے دیکھ لیں گے۔“

○ لوگوں نے ابو حمزہ نوری کو دیکھا لمبے لمبے بال پھیلائے ہوئے۔ کپڑے پھٹے ہوئے ایک نے کہا۔ کہ یہ ظاہری پریشانی باطنی پریشانی کی علامت ہے۔ فرمایا خاشا و کلاوات اللہ تعالیٰ سَاکِنَ الْأَسْرَرِ فَمَحَلُّهَا وَبَيِّنَ الْأَبْدَانِ فَأَهْلَسَهَا...“

○ حضرت ابو الحسن نوری قدس سرہ فرمایا کرتے تھے۔

أَهْلُ السُّعْرِ فَتَهُ عَرَفُوا الْقَلِيلَ - مِنَ الْقَلِيلِ لَا ذَنبَ عَرَفُوا  
الْبَدِيلِ وَالْبَيْتِ وَالْحَقِّ وَرَأَى ذَابِكُ“

حضرت ابو یعقوب نہر جوڑی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ باین ہمہ عبادت اور زیارت سے ایک لمحہ بھی غافل نہ رہتے۔ ایک لمحہ کے لئے بھی اظہارِ مسرت نہ فرماتے۔ اللہ کے سامنے دعا کرتے تو گڑا گڑاتے اور روتے۔ ایک دن آواز آئی۔ یعقوب ہم جانتے ہیں تم ہلکے دروند بندے ہو۔“

○ ایک درویش حضرت شبلی قدس سرہ کے پاس حاضر ہوا۔ اور کہنے لگا۔ حضرت کوئی اللہ کے راستہ میں بھی سو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص ظلِ اِخْلَاصِ میں سو جائے۔ تو اس کی نیند ہی صدر منزل ہوتی ہے۔ اس پر حضرت شیخ ابو سعید نے فرمایا۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے نَوْمَ الْعَالَمِ عِبَادَةٌ حَضْرَتِ دِينَ كِي نِينِدْ بِي عِبَادَتِ هِي“

○ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ آپ بنی اسرائیل کو کہو کہ تم میں سے جو کوئی بہترین شخص ہو اس کا انتخاب کریں۔ چنانچہ ایک ہزار لوگوں کو منتخب کر لیا گیا۔ پھر حکم آیا کہ اب ان میں سے صرف دس آدمی منتخب کئے جائیں۔ دس کا انتخاب ہو گیا تو پھر حکم ہوا اب ان آدمیوں میں سے صرف ایک آدمی منتخب کیا جائے۔ جب ایک آدمی منتخب کر لیا گیا پھر وحی آئی اب اس شخص کو کہیں کہ بنی اسرائیل کا بدترین شخص چنے۔ اس نے چار دن کی مہلت مانگی سارا شہر چھان مارا۔ چوتھے دن اس نے ایک آدمی کو دیکھا۔ جو کئی قسم کے جرائم اور ناشائستہ حرکات سے مزین تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے لے جائے۔ مگر اس کے دل میں خیال آیا کہ محض ظاہری بدنامی سے کسی کو بڑا کہنا اچھا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اندر سے اس کا کام درست ہو لوگوں کے کہنے پر اسے اس قدر ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ پھر لوگوں نے ہی مجھے بہترین انسان تصور کیا ہے۔ اس پر مجھے فخر نہیں کرنا چاہیے۔ میں جو کچھ کرتا ہوں محض گمان اور خیال سے کرتا ہوں۔ اس لئے کوئی بات حتمی نہیں کہی جاسکتی۔ چنانچہ اس نے اپنے گلے میں پگڑی ڈال لی اور مجرم کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کہا حضور میں نے غور اور تحقیق سے دیکھا ہے مجھے تمام بنی اسرائیل میں سے اپنی ذات سے بڑا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ وحی آئی۔ فرمایا۔ اے میرے نبی۔ اس شخص سے بہترین شخص اور کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ اس کی عبادت سب سے زیادہ ہے۔ مگر اس شخص نے اپنے آپ کو بدترین انسان جانا۔

○ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ کہ ر دشن دان سے سورج کی دھوپ کی کرنیں اندر آتی ہیں تو ان میں ذرے اڑتے دکھائی دیتے ہیں ہوا کی وجہ سے یہ ذرے رقص کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا ان ذروں سے تمہیں کبھی ڈر آیا۔ لوگوں نے کہا کبھی نہیں! آپ نے فرمایا۔ یہ سارا جہاں مرد کامل کی نظروں میں ایسے ذرے کے برابر ہے۔ اور ہوا اس ذرے کو حرکت میں رکھتی ہے۔“

○ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لَا یكون الصوتی صَوْفِیاً



حَتَّىٰ يَكُونَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ عِيَالًا عَلَيْهِ طر ایک صوفی اس وقت تک صوفی نہیں بن سکتا۔  
جب تک تمام مخلوق اس کے سامنے ایسی نہ ہو کہ وہ اس کے اہل و عیال ہیں یعنی انہیں نگاہ شفقت  
سے دیکھے۔ اور ان کے بوجھ اور کام کو سراسر انجام دینا اپنا فرض خیال کرے۔

۔ ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اَلْخَلْقُ قَوَالِبٌ وَاشْبَاحٌ تَجَدِّي  
عَلَيْهَا أَحْكَامُ اللَّهِ رَهْ۔ (مخلوق قالب اور شاخیں) ہیں جن پر احکام تبادلت نازل  
ہوتے رہتے ہیں۔

حکایت :- ایک بار لوگوں نے حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ  
ایک پیر کا کوئی نہ کوئی مرشد ہوتا ہے۔ آپ کا مرشد کون ہے؟ بزرگوں نے  
تجاہدہ کر کے اپنی گردنوں کو باریک کر لیا ہے۔ لیکن آپ کی گردن قمیض میں نہیں آتی۔ پیروں  
نے حج کئے ہیں کعبۃ اللہ کی زیارت کی ہے۔ مگر آپ نے حج بھی نہیں کیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟  
حضرت نے فرمایا۔ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ ہر پیر کا کوئی نہ کوئی مرشد ہوتا ہے۔ میں پوچھتا  
ہوں تمہارا مرشد کون ہے۔ تم پوچھتے ہو کہ بزرگوں نے ریاضت سے اپنی گردنوں کو باریک کر لیا ہے  
اور میری گردن بہت موٹی ہے۔ میں تو حیران ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے جتنا مجھے  
نوازا ہے۔ اس سے میری گردن زمین و آسمان میں کیسے سماتی ہے؟ کعبۃ اللہ کی زیارت کے بارے  
میں میرا موقف یہ ہے کہ لوگ بیت المعمور اور بیت الحرام کی زیارت کے لئے سینکڑوں میلوں کا سفر  
کرتے ہیں مگر میرے نزدیک مرد حق وہ ہے۔ جو یہاں بیٹھے خانہ کعبہ کی زیارت کرے اور خانہ کعبہ اس  
کے سر کے ارد گرد طواف کرتا نظر آئے۔ اس شخص نے سراٹھایا۔ تو خانہ کعبہ واقعی طواف کر رہا تھا  
بلکہ مجلس کے تمام حاضرین نے اسے دیکھا۔

حکایت :- ایک دن حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر نیشاپور میں کسی کی تعزیت کے لئے  
جا رہے تھے۔ شیخ کے آگے آگے بعض لوگ راستہ دکھاتے جا رہے تھے۔  
وہ پیٹے پہنچ کر حضرت شیخ کی تعریف و کرامت بیان کرنا چاہتے تھے۔ حضرت شیخ نے ایک نگاہ

دیکھا تو رک گئے اور کچھ زبان سے نہ کہہ سکے حضرت کے مریدوں سے پوچھا کہ حضرت کا کیا لقب ہے۔ تاکہ ہم اس لقب سے لوگوں کو پہناتے جائیں۔ آپ نے سن کر فرمایا۔ لوگوں کو کہو ایک ناچیز مسکین کے لئے راستہ خالی کر دو۔ یہ لوگ ایسے ہی آواز لگاتے گئے۔ تمام بزرگ سن رہے تھے۔ حضرت شیخ آرہے تھے سب پر ایک کیفیت طاری ہو گئی وہ روتے جاتے اور یہ لوگ آواز لگاتے جاتے۔

ایک بار حضرت شیخ ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ جا رو بکش راستہ صاف حکایت :- کر رہے تھے۔ ساری نجاست بلچوں سے باہر نکال رہے تھے۔ صوفی رہاں سے گزرے اور اپنے اپنے کو بچا کر گزرنے لگے اور دوڑ دوڑ کر گزرتے جاتے حضرت شیخ نے ان سب کو بلایا۔ اور کہا۔ یہ نجاست بزبان حال کچھ کہہ رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے۔ میں وہی طعام ہوں جس کی طیاری میں تم نے اتنا روپیہ صرف کیا۔ طرح طرح کے طریقہ سے تیار کیا۔ کئی قسم کی خوشبوئیں اور مسالے ڈالے تھے۔ میں نے ایک رات تمہارے پیٹ میں گزار دی۔ تمہارے ہم رنگ اور ہم جان رہا۔ اب مجھ سے بھاگ رہے ہو۔ حالانکہ مجھے آپ لوگوں سے بھاگنا چاہیے حضرت کے یہ کلمات سن کر سائے مجمع پر رقت طاری ہو گئی۔

میں نے میں حسن نوذب حضرت شیخ کی خدمت میں چراغ لے کر آئے اور رکھ کر حکایت :- چلے گئے حضرت نے حسن کو بلایا۔ کیا بات ہے کہ آج اس چراغ کی روشنی ویسی نہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ حسن نے عرض کی حضرت مجھے تو معلوم نہیں حضرت شیخ ابوسید الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ذرا جستجو تو کرو۔ جب تحقیق کی۔ پتہ چلا۔ جس لکڑی سے چراغ تیار کیا جاتا ہے۔ وہ چراغ میں پڑی ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا۔ حسن اس چراغ کو مبارک رکھو۔ اٹھا لو۔ حسن نے چراغ اٹھا لیا۔

○ "طلحہ بن یوسف العطار قدس سرہ فرماتے ہیں۔ کہ میں ایک مرتبہ سفر سے تھکا ہوا تھا۔ اس وقت میں رہا۔ واپس آنے لگا تو مجھے فرمانے لگے۔ جب تم لہذا آؤ۔

میں جاؤ گے۔ تو لوگ پوچھیں گے۔ کہ تم نے اتنا عرصہ کیا دیکھا۔ اور کیا فائدہ حاصل کیا۔ تو تم کیسے جواب دو گے تم کہنا۔ میں نے ایک چہرہ دیکھا۔ ایک داڑھی والہ چہرہ دیکھا! میں نے کہا حضرت جو آپ فرمائیں حضرت شیخ نے کہا۔ اگر کوئی عربی جلنے والا ملے تو اسے کہنا!

قالا خراسان اخرجت رشا      ليس لاني جنباً له ثانی ،  
نقلت لا تنكرو محاسنة      فمطلع الشمن من خراسان  
جو عربی نہ جانتا ہو۔ اسے یہ شعر سنانا۔

سبزی بہشت و نو بہار از تو بر بند      آنی کہ بخشد یاد گار از تو بر بند  
در چپستان نقش دنگار از تو بر بند      ایران ہمہ فال روزگار از تو بر بند

خواجه ابوالفتح قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں حضرت شیخ قدس سرہ نیشاپور میں تھے۔ ایک دن آپ بشتقال جا رہے۔ خواجه علی طرطوسی بھی حضرت کے ساتھ تھے۔ حضرت شیخ نے راستے میں کہا۔ اللہم اجعلنی من اقلین بشتقال پیچھے خواجه علی قدس سرہ نے حضرت شیخ سے پوچھا کہ حضرت اس سفر میں آپ کی زبان پر بہت دفعہ یہ الفاظ بہت دفعہ آئے ہیں حضرت شیخ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس قوم سے ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہے۔

خواجه ابوالفتح فرماتے ہیں کہ ایک دن قوال حضرت کی خدمت میں یہ اشعار  
حکایت :- پڑھ رہے تھے۔

اندر عزلی خویش ہناں خواہم گشتن      تا رب تو بوسہ دہم چونش بخوابی  
حضرت شیخ نے قوال سے پوچھا کہ یہ کس کا شعر ہے۔ اس نے بتایا حضور یہ عمارہ نے کہا تھا  
حضرت شیخ اسی وقت اٹھے اور صوفیہ کوئے کرمارہ کی قبر کی زیارت کو چلے گئے۔

حکایت :- خواجه ابو بکر بوندی راوی ہیں کہ ایک دن حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ

خلیب کوئی سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے مجھے مخاطب کر کے فرمایا۔ تم سن رہے ہو۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا۔ نہیں یا حضرت! حضرت نے فرمایا ہم کہہ رہے تھے۔

الْعَجْزُ مَخْنِينٌ التَّوَانِي فِي الْأَمْرِ إِذَا أَمَكْنَ وَالْحِجْدُ فِي طَلْبِهِ إِذَا فَاتَ  
ادھر حضرت شیخ نے یہ الفاظ کہے تو ال نے یہ شعر پڑھا۔

هَذَا لَا تَسْتَفِي سِرًّا إِذَا أَمَكْنَ الْجَهْرَ -

جن دنوں حضرت شیخ نیشاپور میں تھے کسی شخص نے پانی کا ایک کوزہ پیش کیا۔ حکایت :- اور کہا حضرت اس پانی کو دم کر دیں تاکہ ہم لوگ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں حضرت شیخ نے دم کر دیا۔ مگر اس سے پانی بے کر خود پی لیا۔ اس شخص نے عرض کی یا حضرت آپ نے خود ہی دم کیا اور خود ہی پی لیا۔ آپ نے فرمایا جو دم ہم نے کیا تھا۔ اسے ہمارے بغیر دوسرا آدمی ساری دنیا میں کوئی نہیں پی سکتا تھا۔ اب تم کل اور پانی لانا۔ تمہارے لئے دم کر دوں گا۔

حضرت شیخ جن دنوں نیشاپور میں تھے۔ تو ایک بار حمام میں گئے ایک رویش حکایت :- بھی آپ کی خدمت میں موجود تھا۔ اور آپ کے بازو پر تیل کی مساس کر رہا تھا۔ وہ اسی دوران پچھلے سے بڑے زرد زرد سے کل رہا تھا۔ اور ساتھ ہی حضرت سے باتیں بھی کرتا جاتا تھا۔ اس نے حضرت سے پوچھا یا حضرت جو انفراد کون ہوتا ہے، جو ایسا شوخ آدمی جس کی طرف منہ نہ کیا جاسکے۔ حاضرین مجلس آپ کے اس جواب سے بڑے محفوظ ہوئے۔

ایک شخص نے حضور کی خدمت میں گزارش کی۔ حضرت میرے لئے دعا فرمائی حکایت :- آپ نے یہ شعر پڑھا۔

وَأَنْتَ أَسَى مَرْدَمِ دَاوُدَ عَالَمٍ بِرِخَايَتِ

جرم او کند و عذر مرا باید خواست

یاد رہے۔ کہ یہ شعر عام طور پر حضرت کی زبان پر رہتا تھا۔

○ حضرت نے ایک بار فرمایا۔ اللہ ان لوگوں کو خوش رکھے جنہوں نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ روایت کی ہے کہ آپ مردے پر نماز جنازے کے وقت پانچ تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ چار تکبیریں مردے کے لئے اور ایک تکبیر تمام مخلوق پر۔“

حضرت شیخ کی مجلس میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا۔ لوگوں فقیر ہوں۔ مجھے کچھ دو حضرت نے فرمایا۔ یوں نہ کہا کرو۔ بلکہ کہا کرو۔ میں گداگر ہوں مجھے کچھ دو۔ فقیر تو اللہ کے رازوں کا امین ہوتا ہے۔ اُسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔

○ ایک دن حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر قدس سرہ نیشاپورہ میں اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے۔ کہ ایک سید زادی آئی۔ اس سید زادی کے والدین لوگوں سے سوال کر رہے تھے۔ آپ نے اس سید زادی کو اپنے پاس بلا یا اور پاس ہی بٹھا لیا۔ اور لوگوں کو کہا۔ لوگو۔ یہ بچی اس پیغمبر کی بیٹی ہے جس پر تم لوگ درود پڑھتے ہو۔ اور درود شریف پڑھتے وقت بلند آواز سے سنو۔ کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہو۔ آج اپنے اس دعویٰ کی دلیل پیش کرو۔ اس کی اولاد سے نیکی کرو۔ اس کے بیٹوں کو ان کا حق دو۔ یہ کہتے ہی اپنا عمامہ اتارا اور سید زادی کے سر پر رکھ دیا۔ تمام لوگوں نے بھی ویسے ہی کہا۔ اور سید زادی مالا مال ہو کر گئی۔

○ خواجہ حسن مودب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں حضرت شیخ ابو سعید رحمہ اللہ نیشاپور میں تھے۔ تو شہر کے تمام بزرگ حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ان میں شیخ ابو محمد جوینی اتاد امام ابو القاسم قشیری۔ اتاد اسماعیل صابونی قدس سرہم

لے یاد رہے یہ کتاب آج سے نو سو سال قبل لکھی گئی تھی۔ لوگ اس وقت بھی بلند آواز سے درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ مگر آج کے معترضین اسے زمانہ ہانفرہ کی بدعت کا نام دے کر لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں۔ مترجم

بھی ہوتے۔ وہ کسی نہ کسی مسئلہ پر شیخ سے بحث کر لیتے۔ ایک دن حضرت شیخ نے ایک بات کہی جس وقت ہزرگان شہر اور صوفیاء نیشاپور موجود تھے۔ باتوں کے دوران حضرت کی زبان پر یہ شہر آیا۔

یک دم زدن از حال تو غافل نیم اے دوست  
صاحب خبر آں دارم آنجا کے تو، مستی

اے دوست تیرے احوال سے ایک دم بھی بے خبر نہیں ہوں۔ تم جہاں بھی ہوتے ہو مجھے خبر ہوتی ہے اس شعر کے بعد آپ نے حاضرین کو مخاطب فرمایا اور پوچھا کہ اس شعر کا مطلب قرآن میں کہیں آیا ہے؟ حاضرین مجلس نے غور کیا مگر بات تک نہ پہنچ سکے۔ آخر کار حضرت شیخ کو کہنے لگے حضرت آپ اس کی وضاحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اَمْ يَكْفُرُونَ اِنَّا لَنَسْمَعُ شِرْهَكُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلٰی وَاَسْئَلْنَا لِيَسْمَعُوْنَ ط وہ حضرت کی اس نکتہ آفرینی پر حیران رہ گئے حسن موزب کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت مجلس و عطف سے فارغ ہوئے حکایت :- تو میں آپ کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ میرا معمول تھا کہ مجلس سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی خدمت میں کھڑا رہتا تا کہ کوئی حکم ہو تو بجالوں۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا جس شہر میں جاؤ۔ اور دیکھو اس شہر میں ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اور صوفیاء کا بدترین مخالف کون ہے؟ اس کے پاس جا کر کہو۔ کہ درویش بھیکے ہیں۔ ان کے پاس کوئی چیز نہیں جس سے پیٹ بھر سکیں۔ ان کے لئے کچھ دو۔ میں شہر میں گیا۔ محلہ بہ محلہ کوچہ کوچہ گھوما۔ میرے نزدیک تاضی علی صندلی سے زیادہ مخالف اور منکر اور کوئی بھی نہ تھا۔ دل میں سوچا۔ شاید یہ میری غلط فہمی ہو۔ میں نے ایک بار پھر سارے شہر کا چکر لگایا۔ جائزہ لیا۔ لیکن میرے دل نے گواہی دی کہ بدترین مخالف ہی شخص ہے میں نے ایک بار پھر کوشش کی مگر میرے ذہن پر اسی کا نام سوار نظر آیا۔ مجھے یقین آ گیا

کہ یہی بدترین دشمن ہے۔ میں اس کے پاس گیا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے شاگردوں کا ایک مجمع ارد گرد کتابیں کھولے ہوئے تھا۔ میں نے سلام کہا اس نے جواب دیا جس طرح اس کی عادت تھی بڑے تکبرانہ انداز میں کہنے لگا۔ کوئی کام ہے؟ میں نے کہا۔ میرے شیخ ابو سعید نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے ہمارے درویشوں کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں علیٰ صندلی بڑا نکتہ گو عالم دین تھا۔ اور پھر طناز بھی کہنے لگا۔ بس تمہاری یہی مہم ہے اور یہی کام ہے؛ میرا خیال تھا۔ کہ تم مجھ سے کوئی دینی مسئلہ دریافت کرو گے۔ دوست جاؤ۔ میرے پاس اس سے زیادہ اہم کام ہیں۔ کہ میں تمہیں کچھ دینے میں وقت ضائع کروں۔ تم محض اندھے لوگ ہو۔ کنج کنج کرتے رہتے ہو۔ یہ شعر پڑھا کرو۔ اور رقص کیا کرو!

آراستہ دست بہ بازار آئی اے دوست نترسی کہ گرفتار آئی!

میں یہ سنتے ہی اپنے شیخ قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں نے جو کچھ سنا تھا۔ حضرت کو سنا کر دل نہ دکھاؤں۔ میں نے کہا۔ علیٰ صندلی کہتا تھا۔ اس وقت مجھے کچھ معلوم نہیں اور میں کچھ نہیں کر سکتا حضرت شیخ نے فرمایا جس خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ سنا ہے۔ سناؤ۔ میں نے تمام واقعات دیا۔ حضرت نے فرمایا۔ دوبارہ جاؤ۔ اور جا کر کہو۔ تم زینت دنیا سے آراستہ ہو کر بازار میں آتے ہو۔ اور دنیا کی محبت میں مست و مخمور ہو کر بازار میں ٹہکتے ہو۔ کل بازار قیامت برپا ہو گا۔ اس سے نہیں ڈرتے۔ اس وقت تم گرفتار ہو کر آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔

میں پھر گیا۔ علیٰ صندلی کی مجلس میں پہنچا۔ شیخ کا پیغام دیا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ چند لمحے سوچا۔ پھر کہا۔ نماں حض سے ایک سو درہم لے جاؤ اور شیخ کو کہو۔ آپ لوگ جب شرکیوں کو تفسیر کرنے لگے ہیں۔ میرا آپ لوگوں سے کیا واسطہ ہے تم سے کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حکایت ہے۔ جن دنوں حضرت شیخ ابو سعید قدس سرہ العزیز بازار عدنی گویاں کی خانقاہ

میں بہتے تھے۔ ایک دن صوفیاء کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے دوران شیخ ابو محمد جوینی آگئے۔ سلام کیا۔ مگر آپ نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اور ان کی طرف التفات نہ کیا۔ آپ کے اس رویہ سے ابو محمد نہایت شکستہ خاطر ہوئے۔ دل میں رنجیدہ ہوئے اور کونے میں بیٹھ گئے جب تمام لوگ کھانے سے فارغ ہوئے۔ حضرت شیخ نے ہاتھ دھوئے اور کھڑے ہو کر ابو محمد جوینی کے سلام کا جواب دیا۔ اور فرمایا۔ سلام اللہ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام ہے۔ دل نہیں چاہتا تھا کہ اپنے آلودہ منہ سے اللہ کا نام لوں۔ ابو محمد آپ کی بات سن کر خوش دل ہو گئے۔ اور کہا۔ جو حضرت شیخ فرما رہے ہیں۔ اس طرح طریقت و شریعت دوسروں کے حصے میں نہیں آئی۔ حاضرین صوفیا بھی آپ کی اس تاویل سے محفوظ ہوئے یہی وجہ ہے کہ جب تک کھانے سے فارغ نہ ہوں صوفیا سلام نہیں کہتے۔

حضرت شیخ ابو سعید قدس سرہ کی ایک ہمیشہ تھیں جسے حضرت کے بیٹے عمہ  
عمہ کا حجرہ : اچھو بھی کہا کرتے تھے۔ وہ زہد و ریاضت میں اپنی مثال آپ تھی۔ کسی  
امر مجبوری سے اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی تھی۔ ورنہ گھر میں رہتیں۔ باہر آتیں تو چادر اور موٹے  
گھر کے پچھے رکھے ہوتے پن تیں اور واپسی پر وہیں رکھ دیتیں۔ وہ گھر میں پہننے والے کپڑے باہر  
پہن کر نہ جاتیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شہر کی گلیوں کی گرد جن کپڑوں پر پڑ جائے ان سے عبادت  
مذاہندی میں خلل آتا ہے۔ حضرت شیخ بھی آپ کے گھر قدم رکھتے تو عمہ گھر کو اچھی طرح دھو لیتیں  
اور کہتیں شیخ جن جوتوں سے بازار میں چلنے رہے ہیں یہن کر میرے گھر آگئے ہیں لہذا اسے دھونا  
مزدوری ہے۔ ایک دن حضرت شیخ قدس سرہ عمہ کے گھر بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو عمہ نے کہا حضرت  
آپ کی باتیں تو سونے کے ٹکڑے ہیں حضرت نے فرمایا۔ ہماری باتیں سونے کے ٹکڑے ہیں مگر  
تمہاری باتیں گہرنا سفتہ ہیں۔ عمہ کے حجرہ میں یک سوراخ تھا۔ جو حضرت شیخ کی عبادت گاہ میں  
کھلا کرتا تھا وہ اپنے بھائی کو اسی سوراخ سے دیکھ لیتی تھیں۔ اور مزدوری بات کرنا ہوتی تو کہتیں۔  
ایک دن حضرت شیخ اپنے حجرے میں موجود تھے۔ خضر علیہ السلام آپ کے پاس تشریف



فرماتے وہ اکثر حضرت شیخ کے پاس آتے رہتے تھے۔ عمر نے دونوں کو اس سوراخ سے دیکھا اور نور باطن سے معلوم کر لیا کہ باتیں کرنے والے بزرگ حضرت خضر ہیں۔ وہ مراقبہ میں بیٹھ کر اس دنوں بزرگوں کے قلبی احوال بھی معلوم کر لیتی تھیں۔ حضرت خضر علیہ السلام دوبارہ حضرت شیخ کے کونے سے پانی پیا۔ خضر اٹھے تو حضرت شیخ بھی آپ کے ساتھ تعظیماً کھڑے ہوئے اور آپ کو الوداع کہنے کو باہر آئے۔ اسی اثناء عمر چھت سے ہو کر حضرت شیخ کے حجرے میں آگئیں اور تبرکاً اس کونے سے پانی پی لیا جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پیا تھا۔ اور باہر اپنے گھر آگئیں۔ حضرت نے واپس آ کر کرامت کی روشنی میں عمر کے اس فعل کو معلوم کر لیا اور خاموش ہے۔ خادم کو آواز دی کہ آج سے عمر کے حجرے سے سوراخ بند کر دیا جائے۔

ایک بار حضرت شیخ قدس سرفانے خواب میں بہشت کو دیکھا۔ دسترخوان بچا ہے  
**نیلمر قع :-** ایک مجمع بیٹھا ہے۔ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ایک شخص اٹھا۔ آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا یہ آپ کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا دسترخوان ہے جن کے پاس ایک ہی کرتا ہے۔ آپ کے پاس دو تین کپڑے ہیں۔ آپ تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ نے فرمایا۔ ان دنوں نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نیلمر قع اور خوبصورت لباس تیار کرائے جاتے ہیں اور پیئے جاتے ہیں۔ اور خیال کیا جاتا ہے کہ کام تمام ہو گیا۔ یہ لوگ نیلمر قع کے مشکوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک بار مزید بھگودو تاکہ زیادہ نیلمگوں ہو جائے۔ اور لوگوں کو پتہ چلے کہ نیلمر قع والا صوفی جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے خود نمائی یہاں تک آگئی ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ رکھتے ہیں۔ اسی لباس کو ان لوگوں نے اپنا صنم اور معبود بنا لیا ہے۔ جس دن حضرت یہ بات فرما رہے تھے حضرت شیخ کے لئے ایک نئی واسکٹ سلانی گئی تھی۔ پہن کر فرمانے لگے ہمارے لئے آج مر قع تیار کیا بنا ہے۔ اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں ستر سال گزر گئے۔ بڑھی تکالیف اور ریاضتیں برداشت کی ہیں۔ دن رات ایک کو دیئے۔ پھر کہیں جا کر ایک نصف مر قع نصیب ہوا۔ آج ہر شخص آسانی سے پورا لباس نیلمگوں کرتا ہے۔ اور پہنتا ہے۔ اور صوفی کہلاتا ہے۔



میں ابوصالح کے لئے تعویذ لکھ دوں۔ اور پھر فرمایا لکھو!

حورا بہ نظارہ نگارم صف بزد  
رضواں بہ عجب ماند کف بر کف زد

یک خال سیاہ براں رخ مطرف زد  
ابدال ز بیم چنگ در مصحف زد

خواجہ ابوبکر مودب یہ تعویذ لے کر بیمار قاری کے پاس پہنچے ہاںڈھا اسی وقت صحت یاب ہو گئے اور بیماری جاتی رہی۔

حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ العزیز کے زمانہ میں ایک ولی اللہ روم کی سرحدوں پر جہاد کرنے لگے۔ ایک دن دارالْحَرْب میں جا رہے تھے شیطان سامنے آ گیا۔ فرمایا: اوبلون تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان مجاہدوں کے دلوں میں تیرے دوسو سے تو نہیں ہیں۔ کہنے لگا میدان جہاد میں میرے اختیار سلب ہو جاتے ہیں۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگا۔ میں خراسان کے قصبہ مینہ میں سے گزر رہا تھا۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر مسجد سے نکل کر اپنے گھر جا رہے تھے راستہ میں نہیں چھینک آئی۔ تو مجھے یہاں پھینک دیا گیا۔

ایک دن لوگوں نے آپ سے پوچھا حضرت وہ کتنا بد بخت انسان ہے کہ رات کو چوری کرتا ہو۔ اور دن کو نماز ادا کرتا ہو۔ آپ نے فرمایا۔ اسے کچھ نہ کہو۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے اسے چوری سے محفوظ کر دے۔

ایک دن ایک بزرگ نے حضرت شیخ ابوسعید سے کہا۔ کہ حضرت میں نے آپ کو خواب میں دیکھا اور کہا۔ یا شیخ کس طرح ممکن ہے کہ ہم اس نفس کی خرابیوں سے محفوظ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا۔ کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ جو کچھ کیا ہے یا ہو چکا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا حصہ رکھا ہے تو توفیق بھی وہی دے گا۔ اگر نہیں ہے تو نہ اس میں کمی آسکے گی ناہمیشی۔ نہ آئے ہو گا نہ پیچھے۔ اگر اس نے نصیب رکھے ہیں تو اس کی طلب پیدا کر دے گا۔ حقیقت میں اسے تیری تلاش ہے۔ اس وقت تیرے اندر بھی طلب کا جذبہ پیدا کر دے گا۔

حضرت شیخ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث نبوی ہے کہ  
درودش کون ہے :- ایک قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور  
پوچھنے لگے حضور! درودیشی کے کہتے ہیں؟ آپ نے ایک آدمی کو آگے آنے کو فرمایا اور پوچھا  
تہارے پاس درہم ہیں۔ اس نے کہا ہاں حضور! آپ نے فرمایا تم درودیش نہیں ہو۔ پھر دوسرے  
کو بلا یا۔ اور وہی سوال کیا۔ اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہیں۔ کیا تمہارے گھر پانچ درم  
ہوں گے۔ اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا تم بھی درودیش نہیں ہو۔ تیسرے کو بلا یا پوچھا تمہارے  
پاس۔ یا گھریا کسی سے قرض لینے کے لئے پانچ درم ہیں اس نے کہا حضور نہیں آپ نے فرمایا  
پانچ درہم کی مزدوری کر سکتے ہو۔ اس نے کہا۔ ہاں۔ تم بھی چلے جاؤ تم درودیش نہیں ہو۔ ایک  
اور کو بلا یا کیا تمہارے پاس ان تمام ذرائع سے کوئی چیز ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر تمہیں  
راستہ میں جاتے ہوئے پانچ درہم مل جائیں تو تم یہ کہو کہ یہ میرا نصیبہ تھا۔ اس نے کہا۔ ہاں وہ  
تویرے لئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تم بھی جاؤ تم درودیش نہیں ہو سکتے۔ ایک اور کو بلا یا۔ اور  
بیان کردہ ساری صورتیں پوچھیں اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں! آپ نے فرمایا اگر پانچ درہم  
مل جائیں تو ان کو اپنے قبضہ میں کر لو گے۔ آپ نے فرمایا۔ پھر تم کیا کر دو گے وہ کہنے لگا۔ یا رسول اللہ  
اسے یا بیت المال میں جمع کرادوں گا یا حاجت مندوں میں تقسیم کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا۔ تم  
درودیش ہو۔ اور درودیش کی یہی صفت ہوتی ہے۔ حضور کی یہ بات سن کر تمام اٹھے رونے لگے۔  
اور کہنے لگے۔ یا رسول اللہ لوگ ہمیں درودیش کہتے ہیں۔ حالانکہ درودیش تو وہ ہے جسے آپ نے  
بیان فرمایا۔ اب ہمارا کیا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا۔ وہ درودیش ہے تم سارے اس کے طفیلی ہو!  
○ حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ العزیز نے فرمایا۔ ایک دفعہ ایک بھڑا ایک چیونٹی کے  
پاس گئی۔ اسے دیکھا کہ گندم کا ایک دانہ اٹھائے۔ اپنے بل کی طرف جا رہی ہے۔ لوگ اسی آستہ  
میں اسے پاؤں سے ٹھکراتے اور بڑی بے دردی سے بہت سی چیونٹیوں کو کھلتے جاتے۔ بھڑنے  
چیونٹی کو پوچھا۔ یہ محنت یہ مشقت اور یہ سختی صرف ایک دانہ کے لئے اٹھانا۔ کیا عقلمندی ہے؟

ایک حقیر سے دانہ گندم کے لئے اس قدر تکلیف اٹھانا باعث تعجب ہے۔ مجھے دیکھو اپنا رزق حاصل کرنے کے لئے کتنی آسانی سے جہاں چاہے جاتی ہوں اور کھاتی ہوں۔ چوینٹی کو ایک گوشت کی دکان پر لے گئی۔ گوشت لٹک رہا تھا بھڑا ڈٹی اڑتی آئی۔ اور بٹے فخر سے گوشت پر جا بیٹھی اور پیٹ بھر کر کھایا۔ اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں اٹھا کر باہر لے چلی۔ تصانی نے دیکھا تو ایک پھری اس زور سے ماری کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک آن میں چوینٹی کے پاس ہی زمین پر مردہ پڑی تھی۔ چوینٹی آگے بڑھی اس کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی۔ جو وہاں بیٹھا ہے جہاں چاہتا ہے۔ اس طرح مارا جاتا ہے کہ ایسا نہیں چاہتا!

خواجہ مسعود بن خواجہ امام مظفر صدان نوقانی فرمایا کہتے تھے کہ ایک دن حکایت :- حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ میرے والد مکرم کے پاس تشریف فرما تھے۔ میرے والد نے حضرت شیخ سے پوچھا۔ میں آپ کو نہ صوفی کہتا ہوں نہ درویش کہتا ہوں۔ بلکہ میں تو آپ کو عارفِ کامل کہتا ہوں۔ حضرت شیخ نے فرمایا "کہ وہ کہہ جو وہ کہتا ہے!" خواجہ مسعود کہتے ہیں کہ میری دادی کا نام عسائینہ تھا۔ میری والدہ راحتی کو حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر کی خدمت میں لائیں ان دنوں میری والدہ کی عمر بھی بارہ سال تھی۔ اور میرے والد سے نکاح یا شادی کی بات ابھی تک نہیں چلی تھی۔ حضرت شیخ نے میری والدہ سے پوچھا۔ بیٹی تمہارا نام کیا ہے! کہا راحتی۔ آپ نے فرمایا۔ مبارک ہو! اب صوفیاء کی دعوت کرنا چاہیے۔ میری والدہ نے کہا۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا۔ دعوت ضرور کر خواہ گداگری کر کے کہنا پڑے میری والدہ نے کہا۔ میں کیسے گداگری کر سکتی ہوں؟ میری والدہ نے اسی وقت اعلان کر دیا۔ کہ میں تمام صوفیوں کی دعوت کو دوں گی۔ مگر آپ مجھے کوئی چیز ادھار دیں۔ حضرت نے اپنی چادر اور پیرا بن اتار کر دئے دیا۔ ان دونوں کپڑوں کو لے کر سرائے میکائیاں چلی گئیں۔ وہاں ایک ماں بیٹی رہا کرتی تھیں۔ انہیں بتایا کہ شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درویشوں کے لئے دعوت دینے کا کہا ہے۔ میرے پاس کچھ

نہ تھا۔ میں نے کہا خالی ہاتھ ہوں۔ فرمانے لگے۔ گداگری کرو۔ میں نے انہیں سے یہ دو کپڑے مانگ لئے ہیں۔ تم انہیں خریدنا پسند کرو گی۔ رو کی اٹھی۔ گھر کے اندر گئی۔ چوڑیوں کی جوڑی نکال لائی اس وقت ان کی قیمت ساٹھ دینار تھی۔ میرے سامنے لا رکھی۔ اور چادر لے لی۔ ماں اٹھی۔ ایک پازیب لے آئی۔ اس کی قیمت بھی ساٹھ دینار تھی۔ پیراہن اٹھایا اور پازیب مجھے دے دیا۔ میں نے کہا۔ مجھے ان کپڑوں سے ایک بات کی آواز آتی ہے۔ تم سن رہی ہو انہوں نے کہا۔ نہیں! یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے پاس نہیں رہیں گے۔ یا ہم رہیں گے یا غیر پھر پوچھا۔ تمہارے پاس کوئی اور چیز ہے۔ انہوں نے کہا نہیں دونوں اٹھیں شیخ کی چادر اور پیراہن کو بوسہ دیا۔ اور میرے سامنے لا رکھے۔ اور کہنے لگیں۔ تم صوفیاء کی دعوت پکاؤ۔ جس طرح دل چاہے خرچ کرو۔ تم یہ کپڑے بھی رکھو! یہ چوڑیاں۔ یہ پازیب اور یہ کپڑے تمہاری ملکیت ہیں۔ ہم اٹھے اور حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے چادر پیراہن چوڑیاں اور پازیب سب حضرت کی خدمت میں لا رکھے۔ اور کہا اپنے صوفیوں کی دعوت کیجئے اور انہیں مدد کر دیجئے۔ حضرت نے اعلان فرمایا۔ بڑی عمدہ دعوت کی جائے۔ چادر اور پیراہن پھاڑ دیئے۔

صَیْنَةُ تَوْفِقَانَ حَلِيَّ آئِينَ۔ اور خواجہ مظفر کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ دونوں باتیں کرتے۔ صَیْنَةُ کا موضوع سخن فٹا ہوتا اور خواجہ مظفر کا بقا۔ خواجہ مظفر کو صَیْنَةُ کی باتیں بہت پسند آتی تھیں۔ فرمایا کرتے جو تمہارے موافق ہے وہ اللہ کے ہاں موافق ہوگا۔ جو تمہارا مخالف ہوگا۔ وہ اللہ کا مخالف ہوگا۔ صَیْنَةُ نے کہا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں میری ایسی کوئی خوشی نہیں جو آپ کے کام آسکے۔ خواجہ مظفر نے فرمایا۔ ہم ایسی خوشیوں سے فاسخ اور بے نیاز ہیں۔ دس سال ہو گئے تھے کہ خواجہ مظفر کی بیوی مر چکی تھی جس وقت وہ زندہ تھیں خوشحال تھی۔ کسی چیز کی حاجت نہ تھی۔ بیس سال کی عمر میں خواجہ مظفر نے راحتی سے شادی کی جس سے خواجہ بصد پیدا ہوئے۔ یہ حضرت شیخ کی دعا اور برکت کا نتیجہ تھا۔

ابوالفضل محمد بن احمد العارف النوفانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت شیخ کے ساتھ گورستان حیرہ میں کسی عزیز کے جنازے پر گئے جب حضرت احمد طاہرانی قدس سرہ کی قبر پر پہنچے تو حضرت کا گھوڑا رکھا۔ حضرت کی آنکھ حضرت احمد طاہرانی کی قبر پر پڑی۔ چند لمحے قبر کو دیکھتے رہے۔ پھر گھوڑا آگے بڑھا فرمانے لگے۔ احمد طاہرانی ہم سے باتیں کر رہے تھے۔

حضرت شیخ نے ایک بار فرمایا۔ میں نے خواب میں دیکھا۔ کہ میں استاد ابو علی دقاق اور ابوالقاسم القشیری تینوں بیٹھے ہیں۔ ایک آواز آئی۔ اٹھو اور ہر ایک قربانی پیش کرو۔ ہم لوگ اسی وقت اٹھے۔ قربانی پیش کی۔ استاد ابوالقاسم قشیری ادھر ادھر بڑھے لیکن انہیں قربانی دینے کو کوئی چیز نہ ملی۔ اور دور سے تھے۔ کچھ قربان نہ کر سکے۔ اگر اس دن کچھ قربان کر دیتے۔ تو ان کے پائے کا دوسرا کوئی ولی اللہ نہ ہوتا۔

ایک سفر میں حضرت شیخ ابوسعید جا رہے تھے۔ راستے میں ایک کالا ناگ حضرت کے پاؤں میں آ بیٹا اور عقیدت کا اظہار کرتے بیٹھ رہا تھا۔ حضرت چند لمحے ر کے اسے تسلی دی اور آگے بڑھے ایک درویش یہ واقعہ دیکھ رہا تھا۔ عرض کی حضرت یہ کیا بات تھی۔ آپ نے فرمایا۔ یہ سانپ ہمارا پرانا عقیدت مند تھا۔ آج اسے اظہار عقیدت کا موقع ملا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا۔ تم چاہتے ہو کہ سانپ تمہارے قدموں میں لیٹے درویش نے کہا۔ ہاں یا حضرت! فرمایا۔ چونکہ تم خود چاہتے ہو ایسا نہیں ہو سکے گا۔

○ ایک بار حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کے مزار پر انوار پر بیٹھے تھے حضرت بایزید کی قبر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی جَعَلَ اَقْدَامُ

الاولیاء سائر الارض فما لہؤلاء الاجساد یعنی لا یرقصون بذا لیک

○ ایک دن حضرت احمد ابولیت حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ کی خدمت میں آئے جب

وہ واپس چلے گئے تو حضرت نے ایک آدمی کو بھیجا کہ انہیں بلالائیں۔ واپسی پر آپ نے اس شخص سے پوچھا۔ راستہ میں احمد ابولیت کیا کہتے تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے

آپ نے پوچھا۔ وہ کن نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے۔ کیا وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کی ہیں یا وہ نعمتیں جو تم پر کی ہیں۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کی ہیں وہ بے پناہ بلند اور اعلیٰ ہیں اور جو نعمتیں آپ کو دی ہیں وہ درمیانہ درجے کی ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا۔ ایک ایسے زاہد بزرگ تھے جو مراقبہ میں رہتے ان کے ہاں اس قدر بڑھ گئے تھے کہ بھپوڑوں نے اس پر آشیانہ بنایا تھا اور اس میں بچے دے دینے تھے مگر وہ محویت میں مدتوں بسر کرتے رہے۔

حضرت خواجہ علی خباز قدس سرہ مرو سے چلے اور مینہہ آئے حضرت صاحب ہمت :- شیخ ابوسعید قدس سرہ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ خواجہ احمد نصر اور دوسرے مشائخ وقت مجلس میں بیٹھے تھے۔ یہ حضرات مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے۔ اسی دوران زمانہ حاضرہ کے ایک دنیا دار کے متعلق باتیں ہونے لگیں۔ خواجہ خباز نے کہا۔ ہاں وہ بڑا باہمت شخص ہے حضرت نے فرمایا اسے جو انہر د کہا جاسکتا ہے اسے باہمت نہیں کہا جاتا۔ البتہ امانیت کہا جاسکتا ہے جو شخص اپنے مال کو غریبوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اسے امانیت کہتے ہیں۔ ہمت نہیں کہتے صاحب ہمت وہ ہوتا ہے۔ جسے اللہ کے بغیر کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔

ایک دفعہ حضرت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ چھت سے کچھ مٹی احترام مسجد :- اور گھاس گری اور حضرت کے جسم پر پڑی۔ ایک درویش پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس نے اٹھا کر مسجد میں گرا دی حضرت شیخ نے فرمایا۔ بھائی۔ تم نے یہ بات کی ہے تمہیں خیال نہیں آیا تم نے کیا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ساتوں آسمان زمین پر گرا کر اسے نیرت و نابود کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے پر کرم کیا ہے۔ کہ اپنے گھر کی مٹی گرائی ہے۔ اور حکم دیا ہے وَاَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ اگر تم نے گوارا نہ کیا مسجد کی یہ خاک میرے جسم پر پڑے۔ مگر تم نے یہ گوارا کر لیا کہ اسے اللہ کے گھر میں پھینک دیا جائے۔



حضرت شیخ جن دنوں نیشاپور تھے۔ اپنی دنوں حضرت امام قیصری  
ہاتھ اور دل :- قدس سرہ بھی نیشاپور میں تھے۔ ایک دن حضرت شیخ نے انہیں  
پیغام بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مال اذقاف میں سے فریج کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب  
دیا۔ اذقاف ہمارے ہاتھ میں ہے۔ دل میں نہیں ہے۔ حضرت نے جواب بھیجا ہم تو آپ  
کے دل اور ہاتھ کو ایک ہی جانتے تھے۔

استاد عبد الرحمن فرماتے ہیں۔ کہ جن دنوں حضرت شیخ قدس سرہ نیشاپور میں قیام فرما  
تھے۔ میں ان کی مجالس میں قاری تھا۔ ایک دن ایک شخص آیا اور کہنے لگا۔ میں مسافروں  
آپ کے شہر میں آیا ہوں۔ سارے شہر میں آپ کا نام چلتا ہے۔ شہرت ہے اور ہر طرف  
آپ کا ڈنکا بجتا ہے۔ پھر بہت سی کرامات بھی مشہور ہیں مجھے آج کوئی کرامت دکھائیے حضرت  
شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ہم عامل میں تھے۔ ایک شخص حضرت ابوالعباس قصاب قدس سرہ  
کے پاس حاضر ہوا۔ اور یہی سوال کیا۔ جو تم نے کہا ہے حضرت ابوالعباس نے کہا تم نہیں دیکھ  
رہے کہ یہ بھی ایک کرامت ہے۔ میں ایک قصاب کا رکھتا ہوں جس نے باپ سے تصانی کا  
پیشہ سیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ میں اٹھا۔ بغداد چلا آیا۔ حضرت پیر شہلی نے مجھے وہاں  
سے مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ سے بیت المقدس گیا حضرت  
خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ  
اس قصاب زادے کو نگاہ قبولیت سے دیکھیں۔ انہوں نے اپنی تربیت میں رکھا اور یہ مقام  
دیا۔ ایک جہاں مجھ پر مہربان ہو گیا۔ اب تو شراب خانوں سے نکل کر ایک بار مجلس میں آتے  
ہیں تو دل کی سیاہیوں سے پاک ہو کر توبہ کر لیتے ہیں۔ دنیا کے گوشے گوشے سے سوختہ دل  
آتے ہیں اور یہاں آ کر سکون قلب حاصل کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا کرامت دیکھنا  
چاہتے ہو یا اس شخص نے حضرت سے پھر اصرار کیا۔ میں تو اب فوری کرامت دیکھنا چاہتا  
ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گڈ رے کے بیٹے کو صد

نشین بنا دیا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے۔ کہ ایک ذرہ ناچیز کو اس قدر نوازا۔ اسے زمین میں دفن نہیں کر دیا۔ اس پر آسمان نہیں ٹوٹ پڑا۔ اس گھر کی چھت اس پر نہیں گر پڑتی بے لکھ بادشاہ بنا دیا ہے بے تاج بادشاہی کم کر رہا ہے۔ بغیر کسی ہنر و فن کے روزی حاصل کرتا ہے خود کھاتا ہے۔ مخلوق کو کھلاتا ہے۔ یہ تمام ظاہری کرامتیں ہیں جو تم اب بھی دیکھ سکتے ہو۔ پھر حضرت نے اس نوجوان کو مخاطب فرماتے ہوئے کہا۔ ہمیں تمہارے ساتھ وہی واقعہ درپیش آیا ہے۔ جو حضرت ابوالعباس کو آیا تھا۔ اس نے کہا حضرت میں آپ سے کرامت طلب کر رہا ہوں۔ آپ مجھے حضرت ابوالعباس کا واقعہ سنا رہے ہیں جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اس کی ساری باتیں اللہ کی طرف سے کرامت ہوتی ہیں آپ مکرانے اور فرمایا۔

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ہر باد کہ از سوسے بخارا بمن آید     | زدبوسے گل و خشک و نسیم و زمین آید |
| برہرزن و ہر مرد کجا بردر ز فغان باد | گوید مگر آن باد ہی از ختن آید     |
| ز نہ ختن باد چنان خوش نوزد، مسج     | کال باد ہی از بر معشوق من آید     |
| ہر شب بگرام بہ بین تا تو بر آئی     | زیرا کہ سہیلی و سہیل از من آید    |
| کو شتم کہ پو شتم صنما نام تو از خلق | تا نام تو کم در دهن انجمن آید     |
| باہر کہ سخن گویم اگر خواہم اگر نہ   | اول سخنم نام تو اندر دهن آید      |

پھر حضرت شیخ نے فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پاک فرمادیتا ہے۔ اس کی حرکات کلمات قول و فعل۔ حال و احوال تمام کے تمام کرامات ہو جاتے ہیں وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ ط

<http://ataunnabi.blogspot.in>

for more books click on the link

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

# اقوال و گفتار

حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ العزیز

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

○ دیدار خداوندی دل کی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ زبان کی کفار سے نہیں ہوتا۔

○ وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی رَجُو

شخص اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے۔ اور خواہشات سے بچتا ہے، جب تک نفس نہ مر جائے

اس وقت تک صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلمان نہیں ہو سکتا۔

○ وَ مَا یُؤْمِنُ اَکْثَرُھُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَھُمْ مُشْرِکُوْنَ ط

بہت سے لوگ زبان سے ایمان لے آتے ہیں۔ مگر دل سے مشرک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ

نے ایک دوسرے مقام پر کہا ہے۔ جو شرک کرے گا میں اسے نہیں بخشوں گا۔ اِنَّ اللّٰهَ

مَا یَخْفَرُ مَا دَدُنْ ذٰلِکَ لَیْسَ بِیَسَارٍ۔ جو شخص شرک سے پاک ہو گا اسے بخشوں گا

مگر تیرے تو سات اندام تک اور شرک سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ شرک اس وقت تک

دور نہیں ہو سکتے جب تک ایمان دل میں جاگزیں نہ ہو جائے۔

○ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کی

یا رسول اللہ مجھے اصل مسلمان کے بارے میں ہدایت فرمائیں تاکہ میں اس پر ایمان لاسکوں

اور عمل کرسکوں۔ آپ نے فرمایا اچھا کہو۔ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقَمْتُ وَاللّٰهُ پَرِیْمَانِ

لَاؤُا اور اس پر ثابت قدم رہو، اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا۔

آیتہ کریمہ اسی مطلب کی وضاحت کرتی ہے۔ لومڑی کی طرح ہر کھوہ میں سر نہ چھپاتے پھرو  
اسی طرح اپنے ایمان کو ہر خیال سے پامال نہ کرتے رہو۔ ایمان یوں لاؤ کہ ایک بار اللہ اللہ  
کہہ دو پھر اس پر قائم رہو۔

○ سرکشی کفر ہے۔ غیر اللہ پر بھروسہ کرنا شرک ہے۔ اور اللہ کی رضا پر خوش رہنا  
ضروری ہے۔

○ لوگوں نے حضرت شیخ سے کہا۔ ایک شخص نے توبہ کی تھی۔ توڑ دی۔ آپ  
نے فرمایا اگر اس کی توبہ کو توڑا نہ جاتا تو کبھی توبہ نہ توڑتا۔

○ شیخ فرمایا کرتے۔ تم بے نوا اور بے بس ہو۔ بے عیب معشوقہ کی تلاش میں  
نہ رہو۔ بے عیب کبھی نہ پاسکو گے۔

○ ہزار دوست تھوڑے ہوتے ہیں اور ایک دشمن بڑا ہوتا ہے۔

○ حضرت شیخ نے اپنی مناجات میں کہا۔ بار خدایا۔ مجھے بخش لے تو دوست نواز  
ہے میرے عیب نہ دیکھ۔

○ لوگوں نے حضرت شیخ سے پوچھا۔ اللہ کے بندے تو مسجد میں ہوتے ہیں  
فرمایا شراب خانے میں بھی ہوتے ہیں۔

○ شیخ فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے جو کچھ پایا ہے۔ شب بیداری سے۔ انکساری  
سے اور مال دنیا سے بے نیازی پایا ہے۔

○ حضرت شیخ قدس سرہ سے پوچھا گیا صوفی کون ہوتا ہے۔ فرمایا۔

جو سر میں جو کچھ ہو گرا دے۔ ہاتھ میں جو کچھ ہو غریبوں کو دے دے۔  
اور جو کچھ کہا جائے اس سے خفا نہ ہو۔

○ حضرت نے کہا۔ جو چیز اللہ سے ہٹا دیتی ہے وہی مذہب ہے۔

○ شیخ قدس سرہ نے فرمایا۔ انسان ایک دن رات میں تیس ہزار سانس

یتنے جو سانس اللہ کے بغیر لیا جائے وہ رائیگاں جاتا ہے۔ یہ ایسا سانس ایک ایسے مردار کی طرح ہے جس سے ہر ایک بدبو محسوس کرتا ہے۔

○ حضرت شیخ نے فرمایا۔ تمہاری زندگی دو سانسوں کے درمیان ہے۔ ایک گزر گیا اور دوسرا آنے والا۔ اسی کا نام رگد شتر، کل ہے اور راندہ، کل ہے۔ اَلْوَقْتُ سَيْفٌ قَاطِعٌ۔

○ حضرت شیخ نے فرمایا۔ تصوف دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ کیسو دیکھنا اور کیاں دیکھنا۔

○ حضرت نے فرمایا۔ اَللّٰهُ لَيْسَ وَمَا سَوَىٰ هُوَ سُوًى وَالْقَطْعُ النَّفْسِ۔

○ اَلذِّكْرُ لِنَسِيَانٍ مَا سَوَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ كَيْ سَوَىٰ سَبَّ كَيْ بَهْوَلٍ جَانَا هِيَ۔

○ حضرت شیخ نے فرمایا۔ یا تو پکے یہودی ہو۔ یا توریت سے کھینا چھوڑ دو۔

○ حضرت فرمایا کرتے تھے۔ رَاحَتُهُ النَّفْسِ فِي التَّسْلِيمِ وَبَلَادُهُ فِي الْقَدْبِیْرِ

جان تسلیم حکم میں راحت محسوس کرتی ہے۔ اور تدبیر میں مصائب آتے ہیں۔

○ شیخ نے فرمایا یہ ہے اور بس۔ اُس کو ناخن پر لکھ لو۔

○ حضرت نے فرمایا۔ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ ازلی احکامات کے سامنے

سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ وَالْاِسْلَامُ اَنْ يَّمُوتَ نَفْسُكَ۔

○ حضرت فرمایا کرتے تھے۔ کہ بندہ نماز پڑھتے ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ تو رب کریم

فرماتا ہے کہ نہ دیکھو۔ اگر دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو میں سب چیزوں سے بہتر ہوں۔ جب

دوسری بار دیکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے۔ کیا دیکھتے ہو۔ کیا یہ چیز مجھ سے بزرگ ہے عزیز

ہے! محترم ہے! جب تیسری بار دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جاؤ۔ پھر اس کو ہی پسند کرو

۵ دانی کہ مرا یار چہ گفت امروز جز ما بکے در منگر دیدہ بدوز

○ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ بَرُّكُمْ تَرِيْنَ

انسان وہ ہے جو متقی ہو۔ تقویٰ اپنے نفس سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اپنے آپ سے پرہیز کرو

گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا: یہ میرا راستہ ہے دوسرا اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہ راستہ روزہ رکھنے سے نہیں ملتا۔ یہ راستہ قیام کرنے سے نہیں ملتا۔ یہ راستہ عبادت سے نہیں ملتا۔ یہ راستہ سجدہ کرنے سے نہیں ملتا۔ یہ راستہ رکوع کرنے سے نہیں ملتا۔ یہ تو اپنے آپ سے پرہیز کرنے سے ملتا ہے۔ یہی اللہ کا راستہ ہے۔

○ آپ نے فرمایا۔ التَّصَوُّفِ اسْمٌ وَقَعِ فَإِذَا تَوَفَّاهُ اللَّهُ دَرُوشِ وَقَعِ كَانَامِ هِيَ جِبْ كَمَلِ هُوَ جَائِئٌ لَمَنْزِلٍ بِرَبِّهِ جَائِئٌ هِيَ۔ وہاں اللہ کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں نظر نہیں آتی۔

○ ایک دن ایک درویش حضرت کی خدمت میں ایسے کھڑا ہوا۔ جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ایسے کھڑے ہو جیسے نماز پڑھ رہے ہو۔ لیکن اس سے بہتر یہ تھا کہ ہتھارا وجود نہ ہوتا۔

○ آپ نے فرمایا جو چیز اللہ کی نہیں وہ کچھ نہیں۔ جو بندہ اللہ کا نہیں وہ انسان

نہیں۔

○ جہاں تم اپنا وجود تسلیم کرتے ہو وہاں دوزخ ہے۔ اور جہاں اپنے وجود کی

نفسی کرتے ہو وہی بہشت ہے۔

○ حضرت شیخ نے فرمایا اللہ اور بندے کے درمیان حجاب آسمان اور زمین نہیں

ہے عرش و کرسی نہیں ہے۔ بلکہ یہ حجاب ہے غرور اور تکبر کا۔ تکبر شاد و خدا کو پا لو گے۔

○ حضرت شیخ نے فرمایا۔ چار اقوال چار کتابوں سے لئے گئے ہیں۔ تو ریت سے

مَنْ قَنَعَ شَيْخٍ حَسْبُ مَنْ قَنَعَ شَيْخٍ كَيْفَ يَأْتِيهِ مِنَ الْجِبَلِ مَنْ اعْتَزَلَ سَلْمًا  
حس نے اپنے آپ کو گرا لیا وہ سلامت رہا، زبور سے مَنْ صُمَّتْ نَجَادِ حَسْبُ مَنْ خَابَتْ

اختیار کی نجات پالی، قرآن سے وَمَنْ تَيَوَّمَلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ جَسَدٌ (جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔)



پھر آرام کو چھوڑ کر آگے بڑھتا جاتا ہے۔ وہ یہ معلوم کرتا ہے کہ وہ صرف اپنے اللہ کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر نگاہ التفات رکھتا ہے۔ یہ تمام مقامات اس کی دوستی اور محبت کا نتیجہ ہیں۔ یہ میری کوشش مجاہدہ سے نہیں۔ وہ اس مقام پر پہنچ کر رکھتا ہے۔ اس وقت اس پر توحید کے دروازے کھلنے شروع ہوتے ہیں وہ جان لیتا ہے۔ اور دیکھ لیتا ہے۔ اللہ اسے شناسا بنا لیتا ہے۔ تاکہ وہ پہچان لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان بنا رہا ہے اِنْسَانًا الْاَشْيَاءِ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ رَمَامٌ جِزِيں اللّٰهِ كِي حَمِيَّتِ سے مکمل ہوتی ہیں، اس مقام پر وہ جانتا ہے۔ کہ تمام ابھی کی ذات ہے۔ ہمہ اوست اور ہمہ از دست !

تکبر اور غرور کی ساری کیفیت انسان کی ابتلا اور مصائب کی علامت ہے یہ انسانی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے اپنی جباریت کے اظہار کے طور پر مسلط کی ہیں انسان اللہ کے اوصاف سے باہر نہیں جاسکتا اور جبار بھی اللہ کا اوصافی اسم ہے۔ ان عادات کا مظاہرہ جب انسانی ذات سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ انسان کامل تو ان اوصاف کو بھی از دست یا ہمہ اوست کہہ اُس کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ ان حالات میں بھی انسان کامل کے اندر عجز پیدا ہوتا ہے۔ اور تکبر و غرور ختم ہو جاتا ہے۔ انسان آزاد اور آسودہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت بندہ وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اس اتباع میں آسودگی پاتا ہے۔ اور کہتا ہے۔ کہ ہمہ اوست۔ میں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کا علم بھی یہی کہتا ہے۔ کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس طرح آسان کو آسان نہیں بناتا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہیں۔ یہ زخم نہ تو سوئی سے سینے جاسکتے ہیں۔ اور نہ ہی کسی رشتہ میں پردے جاسکتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کی تعلیم ہی ہے۔ ذَالِكِ جَمَاعِي رَبِّي الرَّحْمٰنِ عَلَّمَ الْقُرْآنَ یہ وہ مقام ہے جسے مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور قرآن کی تعلیم دی

○ حضرت شیخ سے لوگوں نے پوچھا حضرت نماز پڑھتے وقت ہاتھ کہاں باندھے  
بائیں۔ فرمایا۔ ہاتھ دل پر اور دل اللہ تعالیٰ پر۔

○ حضرت شیخ نے ایک بار فرمایا۔ تمام چابک سواران راہ سوک حضرت بائزید  
بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے کوچے میں پہنچے۔ اور ان کی باگیں کھینچ گئیں۔ آج حضرت بائزید  
کہاں ہیں تاکہ وہ ایک زبردست سوار کو دیکھ سکیں!

○ ایک بار لوگوں نے حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ سے پوچھا کہ انسان اپنی خواہشات  
سے کب رکتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو۔ یہ بات انسان کی اپنی کوشش سے  
نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کا فضل  
ہونے لگتا ہے تو توبہ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر وہ مجاہدہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے  
وہ کوشش کرنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی راستہ ہے۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہتا  
ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے لئے ترقی کی آہیں کھل رہی ہیں۔ یا اب وہ کام کرنے لگا ہے  
مگر اسے منزل نہیں ملتی۔ اور وہ محسوس کرتا ہے۔ کہ مختصر سے مجاہدوں کی یہ آلائش اس کے راستہ میں  
حائل ہے۔ وہ توبہ کرتا ہے۔ اور جانا ہے کہ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ اب اس کے دل پر  
اللہ کی راہیں کھلنا شروع ہوتی ہیں اور یقین کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ آگے بڑھتا ہے  
اس نے جن جن لوگوں سے چیزیں لی ہوتی ہیں۔ ان سے انہیں خواری اور شرمندگی آنے لگتی ہے  
اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ہے اس کے دل سے خشک رفع ہونا شروع ہوتا ہے پھر وہ  
اُس پر محبت کے دروازے کھلنا لگتے ہیں۔ دوستی کے اثرات بڑھنے لگتے ہیں۔ اس محبت میں اپنی  
خود سی اور تکبر ختم ہوتی جاتی ہے ان حالات میں لوگوں کی ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی  
یوں صورت ہوتی ہے۔ کہ وہ اس راستہ میں جو کچھ آئے یا طعن و تشنیع کا سامنا ہو اسے قبول کرتا  
ہے۔ اس سے نالاں نہیں ہوتا۔ اس کے اندر ایک معرفت کا نور نمایاں ہونے لگتا ہے۔ وہ  
کہتا ہے۔ میں دوست رکھتا ہوں۔ اس حالت میں مزید آگے بڑھتا ہے۔ چند لمحے آرام کرتا ہے

شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ نے ان اسرار کو بیان کرنے کے بعد مزید فرمایا۔  
جَذَبَ جَدَّ بَتَّةً مِّنَ الْمَخْلُوقِ إِلَىٰ مَعَايِنِهِ الذِّاتِ فَيَحْنُدُ صَارَ الْعِلْمُ  
عَيْنًا وَالْعَيْنُ كَشْفًا وَابْكَشَفَ . شُهُودًا بِأَشْهُودٍ وَأَوْصَارًا لِكَلَامِ  
خَرَسًا وَالْحَيَوَةَ مَوْتًا وَأَنْقَطَعَتِ الصَّبَارَاتُ وَأَمَحَّتِ الْأَشَارَاتُ  
وَأَمَحَّتِ الْخُصُومَاتُ وَشَرُّ الْقَادِصِ الْبِقَاوِرَالَتْ وَالْعَنَادِطَاحِ  
الْمَاءِ وَالطَّيْنِ رَبَقَىٰ مَن كَسُو يَزَلُ حَسِينٌ وَحَسِينٌ قَلُّ أَرَأَيْتُمْ  
إِنَّ أَصْبَحَ مَا وَكُفِّرُوا فَنَسْنَنَ يَا تَيْكُم بِمَاءٍ مُّعِينِ ط۔

○ حضرت شیخ فرماتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت کے باوجود مخلوق خدا کے حقوق کو اپنے حقوق کے تابع رکھتا ہے۔ یعنی ان کو اولیت دیتا ہے۔ اپنے فضل و کرم سے اپنے حقوق خلق میں یہ بات گوارا نہیں کرتا۔ باوجودیکہ کہ رحمت اللہ کا خاصہ ہے اور عجز مخلوق کا خاصہ ہے تاہم وہ حقوق العباد کو معاف نہیں فرماتا۔

آرے چنیں کنند کر میاں کہ شاد کرد سوئے رہے بختیم بزرگی نگاہ کرد  
○ ایک دن حضرت شیخ نے دوران گفتگو ایک شخص کو مخاطب فرمایا۔ اور کہا  
تمام ڈر ہمارے نفس کی وجہ سے ہے۔ اگر اسے نہ مارو گے تو وہ تمہیں مار دے گا اگر  
اس پر سختی نہ کرو گے تو وہ تم پر سختی اور قہر کرے گا۔

○ ایک دن حضرت منبر پر تشریف فرما تھے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے بعد یہ  
پوچھے کہ تمہارے پیر نے تمہیں کیا سکھایا تھا۔ تو یہ کہو کہ چار اصول۔ حکم الوقت۔ اشارۃ السیر  
فتوح الغیب۔ اور سلطان الحق۔

○ حضرت شیخ نے فرمایا۔ کہ اگر کوئی شخص بلند مقامات روحانی پر پہنچا ہے اور غیب  
پر مطلع ہونا نصیب ہوا ہے اور اس کا کوئی پیر و مرشد یا استاد بھی نہ ہو۔ مجاہدات کے باوجود  
بعض اوقات فائدوں کی بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے۔

ایک دن حضرت شیخ قدس سرہ نے دوران وعظ فرمایا۔ تصوف ذلت میں عزت ہے روشی میں تو تگری ہے۔ بندگی میں بادشاہی ہے بھوک میں سیری ہے عربانی میں پوشیدگی ہے غلامی میں آزادی ہے۔ موت میں زندگی ہے تلخی میں شیرینی ہے جو شخص راہ تصوف پر گامزن ہوتا ہے۔ اور سنبھل کر نہ چلے وہ سرگرداں رہتا ہے۔

○ حضرت شیخ نے ایک اور مقام پر فرمایا۔ کہ انسان کو دو کاموں میں مشغول رہنا چاہیے جو چیز سے اللہ سے دُور رکھتی ہے اس سے دور رہے۔ درویشوں کو راحت پہنچانے اگر یہ دونوں کام صحیح طریقہ پر سرانجام پائیں گے تو مقصد کے حصول میں کامیابی ہوگی۔

○ حضرت شیخ سے درویشوں نے پوچھا حضرت مخلوق کے لئے اللہ تعالیٰ کو ملنے کے لئے کتنی راہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ ایک۔ اہمیت کی روشنی میں تو ایک ہزار راہیں ہیں اور ایک دوسری روایت میں کائنات ارضی کے ہر ایک ذرے کے برابر اللہ تک پہنچنے کی راہیں ہیں۔ لیکن سب سے آسان اور محفوظ راہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو آرام و راحت پہنچائی جائے۔ ہم نے یہی راستہ اختیار کیا اور اپنے دوستوں کو بھی اسی راہ پر چلنے کی وصیت کرتے ہیں

○ ایک درویش نے حضرت شیخ سے سوال کیا حضرت خداوند تعالیٰ کو کہاں تلاش کیا جائے۔ آپ نے اسے فرمایا۔ تم نے کہاں تلاش کیا ہے تو وہ تمہیں نہیں ملا۔ تم جہاں کہیں دیکھو گے اسے پا لو گے۔

○ حضرت شیخ نے فرمایا۔ بندہ کو دوزخ میں لے جائیں گے اسے دُور سے ایک نور نظر آئے گا۔ وہ کہے گا۔ یہ کیا نور ہے؟ کہیں گے یہ فلاں بزرگ کا نور ہے۔ وہ شخص کہے گا۔ میں تو اس بزرگ کا زندگی میں مرید تھا اور اسے محبت کرتا تھا۔ یہ بات اس بزرگ تک پہنچائی جائے گی۔ وہ بزرگ اس مرید کے لئے بارگاہ خداوندی میں شفاعت کے لئے آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس بزرگ کے وسیلہ سے اس بندے کو بخش دے گا۔

○ حضرت شیخ قدس سرہ سے لوگوں نے سوال کیا۔ کہ یہ کیا بات ہے کہ بعض دوستوں کو

اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے مگر بعضوں کو محرومیت کا شکار ہونا پڑتا ہے آپ نے فرمایا جسے اللہ نالا پیار کرتا ہے۔ اس کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس پر وہ آشکارا فرماتا ہے۔

○ ایک درویش نے حضرت سے پوچھا کہ صوفی کون ہے۔ آپ نے فرمایا صوفی وہ

ہے جس کا ہر کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ اور وہ جو کام بھی کرے اللہ کو پسند ہو

○ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔ دنیا دار دنیا کی نعمتوں میں خوش رہتے ہیں مگر آخرت

کے منعم دنیا میں غم و اندوہ سے بسر کرتے ہیں۔

○ حضرت شیخ نے فرمایا، ما و ابہنر کے بزرگوں نے کہا ہے۔ کہ شرک کی جگہ خوشی

ہے۔ ایمان کی منزل غرن و ملال ہے۔

○ حضرت شیخ نے فرمایا۔ غم اللہ تعالیٰ کی حمایت کا قلعہ ہے جس میں کوئی مصیبت

نہیں آسکتی۔

○ حضرت شیخ نے فرمایا کہ دنیا دار شیطان کا شکار ہیں۔ وہ شہوات اور خواہشات

میں پھنسے رہتے ہیں۔ آخرت والے اللہ تعالیٰ کے شکار ہیں وہ اندوہ و غم کی کند میں پھنسے

رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَكْتَبُ الْفَرْحَيْنِ حضور نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحِبُّ كُلَّ قَلْبٍ حَزِينٍ

اللہ تعالیٰ غمزوہ دل کو پسند فرماتا ہے،

○ حضرت شیخ قدس سرہ نے ایک درویش کو فرمایا۔ جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو کہو۔ تاکہ

کوئی بات ناگفتہ نہ رہ جائے۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو تاکہ کوئی چیز ناگردہ نہ رہ جائے۔

○ خواجہ ابوالبرکات کے ہاتھ سے لکھا ہوا دیکھا گیا۔ کہ میں نے حضرت پیر ابو بکر

درونی قدس سرہ سے سنا تھا۔ جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابوالحسن قدس سرہ سے

سنا تھا۔ انہوں نے بتایا۔ کہ انہوں نے یہ بات حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ کی

زبانی سنی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا عَلَيَّ  
أَعْمَلِيهِمْ حُسْرًا فِي زَمَرَتِهِمْ وَحَوْسَبَ مَجْنَابِيهِمْ وَأَنْ لَسْتُ  
يَعْمَلُ بِأَعْمَالِهِمْ ۝

○ حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ کے ہاں کوئی بیٹیا یا پوتا پیدا ہوتا۔ تو آپ کی  
خدمت میں پیش کیا جاتا۔ تاکہ آپ اس کے کان میں اذان کہیں۔ حضرت اس کے کان پر  
مند رکھتے۔ اور اذان کی بجائے پوری نماز سناتے۔

○ حضرت شیخ نے فرمایا۔ جو شخص خلق کو مخلوق کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس کی  
دشمنی اس سے بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جو شخص مخلوق خدا کو اللہ کی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو ان  
سے اسے خوشی اور آرام ملتا ہے

○ حضرت شیخ نے فرمایا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ إِنَّ أَدْلَ مَنْ  
يَقْرَعُ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ مِنْ أُمَّتِي فَقَرَاءَهَا۔ وَكَثْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ  
مِنْ أُمَّتِي ضُفْعَاءُ وَهَا وَشَرَارَ أُمَّتِي مَنْ يُسَاقُ إِلَى النَّارِ الْأَقْمَاعِ۔  
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنْ الْأَقْمَاعِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الَّذِينَ إِذَا أَكَلُوا لَمْ يَشْبَعُوا وَإِذَا حَمَبُوا لَمْ يَسْتَعْنَوْا

○ حضرت شیخ نے فرمایا۔ جو استاد کا ادب نہیں کرتا۔ وہ بطل ہے۔

○ حضرت شیخ کو ایک بار دورانِ مجلس سوال کیا گیا۔ کہ حضور اقصیٰ کیسے ہے؟

حضرت نے فرمایا۔ تصوف حکم کے سامنے صبر کرنا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر  
پر کار بند رہنا۔ تمام قدرت کے ہوتے ہوئے تسلیم و رضا اختیار کرنا ہے۔

○ حضرت شیخ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے۔ جس دل میں اللہ کی طرف سے راز

نہیں وہ کلام خداوندی نہیں سن سکتا۔ ایسے دل میں اخلاص پیدا نہیں ہوتا۔ جسے  
اخلاص نہیں وہ نجات نہیں پا سکتا۔ پھر فرمایا۔ کہ حضور نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم

فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اخلاص سے نجات ہونی ہے اور شرک حیوانوں کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اخلاص اختیار کرنے والے جنت میں داخل ہوں اور شرک کرنے والے جہنم میں ڈالے جائیں۔ پھر حضور نبی کریم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ مَنْ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مَنْ فَزِعَ يَوْمَئِذٍ - آمَنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالْإِثْمِ فَكَتَبَ وَجْهُهُ فِي النَّارِ هَلْ تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر فرمایا۔ اخلاص طلب کیا کرو۔ کیونکہ اخلاص سے ہی۔ دنیا و آخرت میں خلاصی ہے حضور نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ معاذ اپنے دین میں خلوص پیدا کرو۔ یہ تھوڑے عمل میں بھی کفایت کرے گا۔

○ حضرت شیخ فرماتے ہیں۔ عالم وہ ہوتا ہے جس میں خلوص ہو۔ جس کے دل میں خلوص نہیں اسے دین کا علم نہیں آسکتا۔ اور نہ وہ شریعت پر چل سکتا ہے ایک شخص نے پوچھا۔ حضرت خلوص کیا ہے؟ آپ نے بتایا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خلوص سیر الہی ہے۔ جو انسان کے دل و جان کو روشن رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ اسی سیر پر پڑتی ہے۔ اور اس سیر کو اللہ تعالیٰ کی پاک نگاہ سے امداد حاصل ہوتی ہے۔ موجد صحیح معنوں میں اسی سیر سے موجد ہو سکتا ہے کسی نے پوچھا یا حضرت یہ سیر کیا ہے فرمایا یہ الطاف حق سے ایک لطیفہ و لطف و کرم ہے۔ اس نے فرمایا ہے۔ اللہ لَطِيفٌ بَعِيدٌ واللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے) یہ بات اللہ کے فضل و کرم سے پیدا ہوتی ہے۔ محنت اور کسب سے نہیں ملتی۔ ابتداء کار میں انسان کے دل میں نیاز مندی۔ انکساری۔ حزن اور اراوت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس نیاز مندی پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت و کرم پڑتی ہے اس کے دل میں اس کے لطف کی چاشنی پیدا ہوتی ہے اس لطیفہ رحمت پر اللہ کا مقرب فرشتہ بھی آگاہ نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی نبی مرسل واقف ہوتا ہے۔ اسی لطیفہ رحمت کو سیر الہیہ کہا جاتا ہے اور اسی کا دوسرا نام اخلاص ہے۔ نبی کریم صاحب کو ثروت و تسنیم

صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مخلوق میں اعلان کر دیجئے قُلْ نَبُضُّ اللّٰهَ  
وَبَرَكَاتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔  
○ حضرت شیخ نے فرمایا اخلاص ایسا راز ہے جسے نہ فرشتے لکھ سکتے ہیں نہ دوسرا انسان  
واقف ہو سکتا ہے۔

○ حضرت شیخ نے فرمایا جو شخص سانس سے زندہ رہتا ہے وہ موت سے مر جاتا  
ہے جو شخص اخلاص اور صدق سے زندہ رہتا ہے۔ وہ کبھی نہیں مرتا۔ وہ تو ایک گھر سے دوسرے  
گھر منتقل ہوتا ہے۔ آپ نے خوش انداز میں فرمایا۔

گرمردہ بوم برآمدہ سائے بیست      چہ پنداری کہ گورم از عشق تہیت  
گردست بنجاک بر نہی کابین جاکیست      آواز آید کہ حال معشوقم چسیت  
پھر حضرت شیخ نے فرمایا۔ موحدون کی معشوقہ تو وہی سیر پاک یعنی اخلاص ہے یہ سیر باقی  
رہتا ہے اور یہ سیر اللہ کی نظر میں قائم رہتا ہے جس میں یہ سیر ہے۔ زندہ ہے جس کو یہ سیر  
نہیں وہ حیوان ہے۔

○ حضرت نے ایک دن منبر پر فرمایا اَللّٰمِنْ عَاشِ بِاللّٰهِ۔ لایموت ابدا۔ اخلاص  
تو اللہ کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ ایسا انسان کبھی نہیں مر سکتا۔

○ حضرت شیخ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بذات خود تمہارے دلوں میں  
آنے تو پہلے دلوں کو غیر اللہ سے پاک اور صاف کر دو۔ کیونکہ شہنشاہ اس گھر میں نہیں جلتے  
جہاں خرافات اور بے ہودگی ہو۔ وہ تو اس گھر میں رونق افروز ہوتے ہیں جو پاک اور صاف  
ہو۔ ان کے سوا دوسرا کوئی نہ ہو۔

○ حضرت شیخ نے فرمایا۔ عبودیت کی حقیقت دو چیزوں پر ہے حُسنُ الْاِفْتِقَارِ  
الی اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں نہایت انکساری اور فقر کی حالت میں پیش ہونا۔ اور اس سے  
باطنی احوال کھلتے ہیں حسن القدرۃ الی رسول اللہ حضور کی بارگاہ میں ادب و محبت۔ حضرت





سوز کس طرح ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا۔ دراصل یہ آتشِ نیاز ہے اللہ تعالیٰ نے دو آگین پیدا کی ہیں۔ ایک زندہ آگ اور ایک مردہ آگ۔ زندہ آگ آتشِ نیاز ہے جو سینوں میں سلگتی رہتی ہے اور ان کا سینہ اس آگ سے فروزاں رہتا ہے۔ یہ نورانی آگ ہے۔ جب انسان کا تن من جل جاتا ہے تو یہ آگ آتشِ شوق بن جاتی ہے۔ یہ آتشِ شوق نہ اس دنیا میں بجتی ہے نہ اس جہاں میں۔ اسی آگ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اِذَا ارَادَ اللّٰهُ بَعْدَ خَيْرٍ اَقْدَبَتْ فِيْ قَلْبِهِ نُوْرًا قَبِيْلَ يٰرَسُوْلَ اللّٰهِ مَا عَلَمَتْهُ ذٰلِكَ النُّوْرُ۔ قَالَ اِلْتَجَانِيْ عَنِ دَارِ الْغُرُوْبِ وَالْاِنَابَةِ اِلَى دَارِ الْخَلُوْدِ وَاِلَھِمْ سَتَعِدْ اِدْرِ لِيْ لِمَوْتٍ قَبْلَ نَزْوِلِ الْمَوْتِ ط

اس سائل نے کہا۔ حضرت یہ آتشِ شوق بھڑکتی ہے تو وہ دیدار کی دولت عطا فرماتا ہے پھر آتشِ شوق کم ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا۔ چاند کے دیکھنے سے نور سے تسکین نہیں ہوتی۔ دیدار سے تشنگی بڑھتی ہے۔ اس سے سیری نہیں ہوتی۔ جو آج غیب ہے وہ کل کون دیکھ سکے گا۔ اس کی صفت پر گردش کا اثر نہیں ہوتا۔ جو شخص دیکھتا ہے اپنی ایمانی قوت سے دیکھتا ہے۔ نور ایمان دل سے آنکھوں میں آتا ہے اور اسی نور ایمان سے جلال و جمال نظر آتا ہے۔ آتشِ مردہ دوزخ کی آگ ہے۔ یہ آتشِ ظلمت ہے یا آتشِ وحشت ہے۔ جو آتشِ زندہ (آتشِ شوق) سے نہیں جلتا اسے آتشِ زندہ سے جلا پا جاتا ہے اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔

آتشِ مردہ ہرگز پورا آذر نہ سوخت پورا آذر پیش آزیں آتشِ چو خاک تر شد

تا بدیں آتشِ نازی تو یقین صافی نہ خواہ اگر دیوانہ خوانی خواہ کوئی بہ دست

○ حضرت شیخ قدس سرہ نے فرمایا۔ سات سو پیرانِ طریقت نے گفتگو کی ہے مگر جو

بات اولین مشائخ نے کی ہے وہی آخرین نے کی ہے۔ صرف الفاظ اور عبارت مختلف تھی ان کا مطلب اور معنی ایک ہی تھا۔ کہ تصوف ترکِ تکلف ہے۔ کوئی تکلف اپنی ذات

سے زیادہ نہیں۔

○ صوفیائے حضرت شیخ قدس سرہ سے پوچھا کہ کیا مرشد کے بغیر راہ طریقت طے کی جاسکتی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ پیر طریقت نے راستہ کے نشیب و فراز سے آگاہ کرنا ہوتا ہے وہ ہر منزل پر آگاہ کرتا ہے۔ کہ اب یہ فلاں منزل ہے۔ یہاں زیادہ قیام کرنا چاہیئے۔ یہ مقام خطر ہے۔ یہاں سے جلدی گزر جانا چاہیئے۔ اسے نرمی سے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تاکہ وہ پوری قوت کے ساتھ اس راہ کو طے کرتا جائے۔ اور منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ جو شخص اپنے مرشد کی راہنمائی کے بغیر راہ طریقت کو طے کرتا ہے۔ وہ ایسے دیو کی طرح ہے۔ جو جنگل میں جا رہا ہو۔ اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ راستہ کس طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَاذِبٌ اُسْتَهْوٰتُهٗ الشَّيَاطِيْنَ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ۔ یہ اس شخص کی طرح ہے۔ جسے شیطانوں نے بہکا دیا ہو۔ اور وہ راہ میں حیران و پریشان کھڑا ہو۔ اصل مقصد یہ ہے کہ پیر مرشد کے فرمان کے مطابق راستہ طے کیا جائے۔ اگر اتباع کی جائے تو ہدایت پائی جاسکتی ہے۔ مرید مرشد کا فرمان بردار ہو۔ تو وہ ایسے ہی جیسے ایک بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وَ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ (جس نے رسول خدا کی اطاعت کی وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے) الشَّيْخُ فِى قَوْمِهٖ كَالنَّبِيِّ فِى اُمَّتِهٖ مرشد اپنی قوم میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔

○ حضرت شیخ فرماتے ہیں بزرگان دین کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے کے خاص آداب ہوتے ہیں لباس صاف ہو اور یہ لباس تواضع کا ہوتا ہے۔ انسان کی تواضع سے بہترین لباس آج تک دنیا میں نہیں بنا۔ تواضع انسان کو دوسروں کے دلوں میں عزیز بناتی ہے مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ مَفَعَهُ اللّٰهُ (جو شخص تواضع کرنا ہے۔ اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے) تواضع کا مطلب انکساری ہے اور سر جھکانے اور عجز کا اظہار ہے یاد رہے۔ تکبر سے بڑھ کر انسان کے لئے کوئی آفت نہیں ہے۔ تکبر سے سرفرازی اور خود سری ملتی ہے۔ مگر یہ خود سری ابلیس نے سکھائی جس

نے کہا انا خیر منہ (میں اس سے بہتر ہوں) تکبر کے ایک نعرے سے اس کی ہزار  
سادہ عبادت اکارت گئی۔

کہتے ہیں ابلیس بازاروں میں گھومتا ہے اور کہتا ہے۔ لوگو! تکبر نہ کرو۔ خود ہماری نہ کرو۔  
نہیں تو مجھے دیکھ لو۔ میرا کیا حشر ہوا ہے۔ تکبر کبریائی اور بزرگی داری تو صرف اللہ کی ذات کو  
زیب دیتی ہے۔ جو شخص اللہ کا مقابلہ کرتا ہے وہ اس کے قبر کی گزرت میں آتا ہے۔

○ حضرت شیخ فرماتے ہیں جو شخص امور تصوف ہمارا ساتھی ہو گا۔ وہ ہمارا اپنا ہے وہ  
ہر وقت ہمارے پاس ہے۔ اگرچہ ظاہراً وہ کتنے فاصلے پر ہو جو شخص امور تصوف میں ہمارا ہم خیال  
نہیں ہے خواہ وہ ہمارے کتنا ہی قریب ہو۔ ہمارا ساتھی نہیں ہو سکتا جس شخص نے کہا تھا۔ کہ  
.. اللہ کا قحط آ گیا ہے " اس کا معمول تھا۔ کہ وہ کسی قافلے کو دیکھتا۔ اور کہتا قافلہ والوں میں سے  
کوئی ایسا شخص ہے جس کے کپڑے پارہ پارہ ہوں۔ اگر کوئی مل جاتا تو فرماتے یہ ہمارا ساتھی ہے  
اسے دنیا داری سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔

○ حضرت فرمایا کرتے تھے۔ وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جنہیں رحمن اور رحیم سے

واسطہ پڑا ہے۔ ایک ہم ہیں کہ اپنے جبار و قہار سے واسطہ ہے۔

نزدیکاً فراہمیش بود حیرانی کالیشان دانند سیاست سلطانی

○ حضرت نے ایک بار فرمایا۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں تو ہم اپنی ٹوپی کا ایک

گوشہ بھی درست نہیں کر سکے۔

○ حضرت شیخ نے فرمایا جو کام بھی کرو۔ دوست کے ساتھ کرو۔ زندگی کے سفر میں دوست

ہی کام آتے ہیں۔ جہاں کہیں تمہارا قدم ڈگمگاتا ہے۔ دوست ہی کام آتے ہیں۔

○ حضرت شیخ قدس سرہ نے فرمایا۔ ہم مشرق سے لے کر مغرب تک اسے دیکھتے ہیں جس

طرح تم لوگ ایک تھالی میں دیکھتے ہو۔ تھالی میں جو کچھ ہوتا ہے تم دیکھتے ہو۔ ہم بھی اسی طرح اسی

ائنات کو مشرق و مغرب تک دیکھتے ہیں۔

○ حضرت شیخ نے یہ حدیث پڑھی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سَتُنْفَرِقُ أُمَّتِي أَثْنًا وَسَبْعِينَ فَرَقَةً أَلْبَاجِي مِنْهُمْ وَاحِدَةٌ وَالْبَاقُونَ فِي النَّارِ میری امت بہتر فرقوں میں ہوگی۔ صرف ایک فرقہ نجات یافتہ ہوگا۔ باقی تمام کے تمام آگ میں ہوں گے۔ حضرت شیخ نے فرمایا یعنی فی النار انفسہم یہ لوگ اپنی تکرار اور خواہشات کی آگ میں جلیں گے۔

○ قاری عبد الرحمن جو حضرت شیخ قدس سرہ کے خصوصی قاری تھے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ العزیز سماع کی مجلس میں رقت میں تھے بغرہ مارتے تھے۔ رقص کرتے تھے اور مجمع عام میں بے خودی میں تڑپ رہے تھے۔ ہوش میں آئے۔ خاموش ہوئے۔ ہم بھی تمام خاموش بیٹھے تھے آپ نے فرمایا۔ سات سو بزرگان دین نے تصوف کی ماہیت میں گفتگو فرمائی ہے۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے استعمال الوقت بما هو اولیٰ بہ وقت کا صحیح استعمال ہی بہترین بات ہے۔

○ حضرت نے فرمایا رسوں کے بندے زندگی میں ہی مردہ ہوتے ہیں مگر حقیقت کے بندے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔

○ حضرت فرمایا کرتے تھے۔ ہم جہاں جہاں گئے۔ یہ بات ہمارے ذہن پر سوار رہی اور ہم نے اسی پر عمل کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو پہاڑوں جنگلوں اور صحراؤں میں تلاش کرتے رہے ہو سکتا تھا کہ اسے کہیں پالیتے اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کہیں نہ پاتے اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب ہمیں اپنی بھی خبر نہیں رہی ہم اسی کی ذات میں فنا ہو گئے ہیں۔ بقا اسی کی صفت ہے ہم کچھ نہیں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ہم نہ رہیں گے۔ اب ایک لمحہ کے لئے خودی کا دعویٰ کرنا زیب نہیں دیتا۔ ہمارا مشاہدہ۔ تصوف اور زہد کا دعویٰ صحیح نہیں جس کی نہ اپنی کوئی چیز ہو نہ اپنا نام ہو۔ اس کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم کس نام سے زندہ رہ سکتے ہیں۔

○ حضرت نے فرمایا جس وقت وہ چاہئے اسے یہاں ہی حاصل کر لے اور اسی کی

خوشبو پائے گا۔ وہ مجلس علمی مجلسیں ہیں۔ وہاں علم تو ملتا ہے۔ مگر یہ مجلس حق کی مجلس ہے اس مجلس میں کلاہ، عزت اور جبہ مل جاتا ہے مگر حق کی مجلس میں کلاہ، عزت جاہ اور جبہ دستار چھن جاتے ہیں عزت صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ اس کی عزت لم یزل ہے ساری کبریائی اور عزت اسی کی ذات کی ہے۔

○ حضرت شیخ نے فرمایا جو شخص درویشوں کے سماع کا منکر ہے وہ بطل ہے۔  
○ ایک دن حضرت شیخ قدس سرہ مینہ میں مجلس وعظ میں تقریر فرما رہے تھے کہ ایک کاروان گزرا۔ آپ نے فرمایا۔ یہ کاروان مبارک ہے! اس کاروان کے ساتھ ایک کتابھی تھا۔ آپ نے فرمایا۔ یہ کتابھی مبارک ہے۔ قیامت کے دن یہ کتابھی صاحب کھف کے کتے سے آگے ہوگا۔ اس نے ہماری بات کو سن لیا ہے۔

○ نیشاپور میں حضرت شیخ قدس سرہ سے لوگوں نے سوال کیا۔ حضرت کیا اس دنیا میں خداوند تعالیٰ کی کوئی ایسی نشانی ہے جس سے معلوم ہو کہ وہ اپنے بندے سے خوش ہے۔ آپ نے فرمایا۔ نشانی یہ ہے کہ دنیا میں بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے راضی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ بھی اس پر راضی ہے۔

○ حضرت شیخ نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی شیخ ابوسعید کا ذکر ہو گا دل خوش ہونگے کیونکہ ابوسعید کے لئے کوئی بات نہیں کرتا۔

○ لوگوں نے حضرت شیخ سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو دیکھا جاسکتا ہے مگر درویش کو نہیں دیکھا جاسکتا۔ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہست ہے ہست کو دیکھا جاسکتا ہے و ہست ہست ہے اور نہایت کو نہیں دیکھا جاسکتا۔

○ حضرت شیخ نے فرمایا۔ مسلمانو! یاد رکھو بوجھ اٹھائے بغیر تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر حقیقت کا بوجھ اٹھاؤ تو بہتر ہے اس سے نقد راحت ملے گی۔ کل آرام ملے گا۔ وگرنہ باطل کا بوجھ تمہاری گردن پر ہوگا۔ اور اس کا نہ دنیا میں فائدہ ہوگا۔ نہ قیامت میں۔

○ لوگوں نے حضرت شیخ سے کہا وَلِذِكْرِ اللَّهِ اَكْبَرُ۔ کا کیا معنی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اس کا معنی یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ کو بہت اچھی طرح یاد فرمایا۔ بندہ اسے کما حقہ یاد نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ اپنے بندے کو یاد نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا یاد فرمانا یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو توفیق دیتا ہے۔ کہ وہ اسے یاد کرنے میں مشغول ہو جائے۔

یک چند دیدم و قدم فرسودم      آخری تو پدید نامہ سودم ،  
تادست بعیت دنایت سودم      درخانہ نشتم و فرد آسودم

○ ایک قاری نے حضرت شیخ قدس سرہ کی مجلس میں یہ آیت پڑھی اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ کَانَتْ لَہُمْ جَنّٰتٍ الْفَرْدِ وِیْنَ نَزْلٍ حٰلِیْدِیْنَ فِیْہَا۔ تو آپ نے یہ شعر کہے۔

جز درد دل از نظارہ خوباں حیت      آزا کہ دو دست و کیسہ از سیم تہبت  
قاری نے پھر پڑھا۔ فَأَوْلٰئِكَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئَاتِہُمْ حَسَنٰتٍ  
حضرت شیخ نے فرمایا۔

نار ابر چاہ بری دست زنی      لاجول کنی دو دست بردست زنی

○ حضرت شیخ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام سے عزیز تر کوئی پیغمبر نہیں۔ اور آپ کی بادشاہی سے وسیع تر سلطنت نہیں ہے۔ بایں ہمہ ان کے قبضہ میں ہوا کے بغیر کچھ نہ تھا۔ وَاسْلَمِیْمَانَ السَّرِیْحِ۔ جب ان کی مملکت کی قدر و قیمت دکھائی گئی۔ تو انہیں تخت سے ہٹا دیا گیا اور آپ کی جگہ صخر حن کو بٹھا دیا گیا۔ وہ حضرت سلیمان کی سلطنت میں حکومت کرتا رہا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کا ملک واپس کیا گیا۔ اور حکم کیا گیا اس سلطنت کو ایسے چلاؤ کہ پھر اسے واپس دیکھنے کی خواہش نہ ہو۔ هَبِّیْ مُلْکًا لَا یَنْبَغِیْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِیْ ط

○ حضرت شیخ سے لوگوں نے پوچھا حضرت دولت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا

اس موضوع پر بہت سے بزرگوں نے اظہار خیال فرمایا ہے لیکن ہمارے خیال میں دولت حسن اتفاق کا نام ہے جب مل جائے تو اسے عنایت ازلی سمجھنا چاہیے۔ یہ دولت سوائے سی نہیں جاسکتی۔ نہ ہی کسی رسی سے باندھی جاسکتی ہے۔ نہ تراندہ پر تولی جاسکتی ہے۔ جب نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی۔

آزاد کہ پیادست دنیا آمد دانی کہ بیاندہ چو آوردہ بنود

( ) حضرت شیخ کی مجلس میں ایک شخص اٹھا۔ اور کہا حضرت اب ہمارے لئے کیا تدبیر

ہے؟ حضرت نے فرمایا۔ التَّدْبِيرُ فِي الْعَقْلِ شَدْمِيرٌ وَالتَّدْبِيرُ فِي

الْعَشِقِ تَسْوِيرٌ عَقْلٌ فِي تَدْبِيرٍ تَبَاهِي هُوَ مَكْرُ عَشِقٍ فِي تَدْبِيرٍ مَكْرٍ وَفَرِيْبٌ هُوَ

کوئی خطاب اس سے بدترین نہیں ہے جو دولت کے حق میں یا اللہ تعالیٰ کے لئے کیا جائے

مگر اس کی تدبیر اپنے دشمن سے کی جائے۔ تدبیر نفس کی صفت ہے اور نفس دشمن ہے اگر

تدبیر کرنا ہو تو دانائی سے کرو۔ اول زمانہ سے قیامت تک کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم سے دانا تر نہیں ہے۔ نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ ان کی ذات اقدس سے تدبیر کرو۔ اور غور

کرو آپ نے کیا فرمایا ہے اسی پر عمل کرو۔ جس سے روکا ہے اس سے دست کش ہو جاؤ۔

گفتارِ دراز مختصر باید کرد وزیرِ بد آموز خرد باید کرد

یارِ بد آموز نفس ہے۔ آرایتِ مِنَ التَّخَدِ الْمُهْمَةُ هُوَ يَهْدِي: اس کو

دیکھو جس سے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ جب تک تم اپنی ذات کے لئے ہو۔ ہرگز راحت

حاصل نہ کر سکو گے۔ اگر اس نفس سے دور رہ کر بات کرو گے تو راحت و سکون پاؤ گے۔

○ ایک درویش نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا۔ حضرت عقل کیا چیز

ہے آپ نے انقل آلة العبودية، عقل عبودیت کا ذریعہ ہے عقل سے ربوبیت

کے اسرار نہیں پائے جاسکتے۔ یونکہ عقل صورت ہے اور صورت سے قدیم کو نہیں پایا

جاسکتا۔



حضرت شیخ نے ایک بار فرمایا۔ بادشاہ اپنے غلاموں کو نہیں بیچا کرتے تم کو کشتی  
کرو کہ اس کے غلام بن جاؤ۔ اس کی بندگی کرو۔ یا عبادی کا آواز نہ سنا ہو گا۔ تمہارا کام  
قیاس اور تصرف سے آگے بڑھ جائے گا۔

○ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قالب بدن بنانے سے چالیس  
ہزار سال قبل جانوں کو پیدا فرمایا۔ اور اپنے محل قرب میں رکھا۔ پھر اپنا نور ان پر نثار کیا  
اس نور خداوندی سے جس جان نے جتنا حصہ لیا اسی قدر اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت اور  
الطاف سے نوازا۔ اسی نور کی روشنی میں آسودہ ہوئے اور اسی نور میں پورے پاتے  
رہے۔ اس دنیا میں جن لوگوں نے ایک دوسرے سے محبت کی۔ وہ ایسے حالات میں ایک  
دوسرے کے قریب رہے تھے اس دنیا میں بھی یہ لوگ ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں  
اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں آتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جو شخص اللہ کو ڈھونڈتا ہے  
اسی تعلق سے ڈھونڈ لیتا ہے کَمَا تَشَاءُ الْخَيْلُ حِينَ طَرَحَ الْغَوَّارَ سے اپنی منازل کو سونگھ  
لیتے ہیں اسی طرح یہ جانیں ایک دوسرے کی خوشبو پالیتی ہیں۔ ایک جان مغرب میں ہو۔  
دوسری مشرق میں ایک دوسرے سے انس و محبت کے روابط قائم کر لیتی ہے۔ اگر ایک پہلی  
صدی میں ہوا ہے اور دوسرا پانچویں صدی میں یہ دوسرا پہلی صدی و اس کے اقوال و  
اعاد میں سے مستفیض ہوتا رہتا ہے چنانچہ یہ ساری جانیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نوازی  
جاتی ہیں وہ کسی چیز سے اللہ تعالیٰ سے جدا نہ نہیں ہوتیں نہ کسی مصیبت سے نہ کسی ابتلا سے۔  
نہ کسی پلایح سے نہ کسی کرامت مرتبہ سے جو شخص ان معانی سے انکار کرتا ہے وہ محض روغ گو  
ہے۔ کیونکہ یہ کرامات و مقامات اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ یہ تو ساری چیز اس کے بندوں  
کے لئے ہوتی ہیں۔ جو ان مقامات کو پالیتا ہے۔ وہ اللہ سے اپنا نصیب حاصل کرتا ہے۔  
○ ایک دن حضرت نے فرمایا ہم مجلس بے علم برپا کرتے ہیں۔ اور دعوت بے فریج  
کرتے ہیں۔

○ حضرت شیخ نے فرمایا ایک مدت ہوئی ہم اللہ کو تلاش کر رہے ہیں کبھی پالیتے ہیں اور کبھی محروم رہتے ہیں۔ اب ہم نے اپنے آپ کو تلاش کرنا شروع کیا تو نہ پایا ہمہ رو ہو گئے ہیں اور یہی وہ مقام ہے ہم اور ست کا۔

بچوں و چرادر شدم سالیان کچوں این چنین و چراآں چناں  
چواز خواب بیدار شد خفت مرد یہ بیداری آساں ترش گشت درد

○ حضرت نے فرمایا مرد حق کو ہر ایک چیز کرنی چاہیے۔ لوگوں نے تفصیل پوچھی تو فرمایا مرد حق کو تمام کوجوں اور مقامات پر جانا چاہیے اور اسے آزمانا چاہیے کہ اس کا دل کہیں جا کر غیر اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔

○ حضرت نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو نیک جانتا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا جو شخص اللہ تعالیٰ سے بداندیش ہے وہ اسے نہیں پہچان سکتا۔

○ حضرت شیخ قدس سرہ نے فرمایا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اللہ تعالیٰ کو حقو اور مغفرت کتنی پسند ہے تو ہر انسان گناہ میں مبتلا ہونا پسند کرتا۔

○ حضرت سے پوچھا گیا۔ یا شیخ بزرگان دین کا یہ مقولہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ

فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کیا معنی رکھتا ہے۔ فرمایا۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْعَدَمِ  
عَرَفَ رَبَّهُ بِالْوُجُودِ۔

○ لوگوں نے حضرت شیخ قدس سرہ سے پوچھا۔ حضرت یہ نصر عزیز کیا چیز ہے۔

فرمایا کہ انسان کے دو دشمن ہیں۔ ایک دشمن تو وہ ہے جو اس کے پیرا، من کے اندر ہے اور دوسرا دشمن باہر ہے جو ظاہر نظر آتا ہے۔ جب اسے باہر کے دشمن پر کامیابی اور فتح کی قوت دی جاتی ہے تو اسے فتح و ظفر کہتے ہیں۔ اور جب اسے اندرونی دشمن پر کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اسے نصر عزیز کہا جاتا ہے۔

○ حضرت شیخ نے فرمایا محنت سے سختی بڑھ سکتی ہے۔ روزی نہیں بڑھ سکتی روزی

تو ذائق مطلق کے فضل سے ہوتی ہے۔ کوشش سے نہیں!

○ حضرت نے فرمایا: پیار کو ایک بال سے کھینچا جاسکتا ہے مگر اپنے آپ کو کھینچنا مشکل ہے۔

○ آپ نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ وہ خوش ہیں۔ اور آرام میں بسر کر رہے ہیں مگر جس مصیبت میں ہم ہیں اگر یہ لوگ دیکھ لیتے تو مصیبت میں پھنس جاتے اور بھاگ جاتے۔ حضرت نے فرمایا: ہمارا شیطان صرف لاجول پڑھنے سے نہیں جاتا یہ تو ناچنے اور کودنے والا ہے۔

○ اللہ تعالیٰ ایک لاکھ صاحب دنیا کو ایک صاحب دل پر فدا کر دیتا ہے۔

○ میں نے اس شعر کا مطلب ستر سال بعد پایا ہے۔

دلئے اے مردم داد ز عالم بر خاست جرم او کند و عذر مرا باید خواست

○ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی رَبِّ هَبْ لِي مَلَكًا اے اللہ مجھے

ملک عطا فرما جب آپ نے یہ معلوم کیا کہ یہ تو اللہ سے دُوری کی علامت ہے تو پھر کہہ لَآ يَنْبَغِي لِاحِدٍ مِّنْ بَعْدِي۔

○ جب مرد کامل تجدید کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اُسے ملک سلیمان بھی سچ دکھائی

دیتا ہے۔ اگر تجدید کے راستہ پر نہ چلے تو اسے اپنی آستین کا ایک کونہ بھی اہم دکھائی دیتا ہے

یہ نہ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ عنہ نے سر بازار اپنی آستین کا بڑھا ہوا کونہ پھری سے کاٹ دیا کہ یہ کونہ خدمت خلق میں ایک رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔

○ حضرت شیخ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے عقل پیدا فرمائی تو اسے سامنے رکھ کر

فرمایا۔ مَنْ اِنَارَ فِي كُونِ هُوں، عقل حیران رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے نور سے نوازا

پھر پوچھا۔ کہنے لگی۔ اِنْتَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ عقل کو معرفت کا راستہ اللہ کے نور کے بغیر نہ بلا۔

○ ایک دن حضرت شیخ نے مجلس میں فرمایا۔ زندگی علم سے ہوتی ہے۔ راحت معرفت

میں ہے ذوق ذکر الہی میں آتا ہے تو اب توحید میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا۔ حکم کی تعمیل کا ثواب جنت ہے۔ اور منکرات سے پرہیز کا ثواب آگ سے نجات کا باعث بنتا ہے۔ اس موقع پر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ابْنِي اللَّهُ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ**

○ حضرت شیخ نے فرمایا جو بات ہم کہتے ہیں اس سے بہتر بات کہی نہیں جاسکتی لیکن اگر ہم یہ بات نہ کہتے تو اس سے بھی بہتر ہوتا۔

○ ایک دن حضرت کی مجلس میں بعض صاحب دل حضرات بیٹھے تھے۔ ایک نے کہا ہم جو کچھ کہتے ہیں کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا۔ ہم جو کچھ سوچتے ہیں کرتے ہیں۔

چون نیت شہت بودی صنما چوں خاک شہی پاک شہی لاجرما  
انسان جب تک صفات بشریت سے نیت اخالی نہ ہو جائے۔ وہ ہست نہیں ہو سکتا۔

○ حضرت نے فرمایا۔ تم نہیں جانتے۔ اور یہ بھی نہیں جانتے کہ تم نہیں جانتے اور یہ بھی کبھی نہ چاہو گے کہ جان لو کہ تم نہیں جانتے!

○ شیخ قدس سرہ اکثر فرمایا کرتے تھے۔ اے بار خدایا۔ جو کچھ ہماری طرف سے پہنچا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور جو کچھ تیری طرف سے ہیں ملتا ہے۔ الحمد للہ۔

○ حضرت فرمایا کرتے تھے جس دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ دل پراگندہ ہوتا ہے پراگندہ دل نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان۔

○ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہوئے ہیں۔ ایک دن ایک شخص نے آپ سے پوچھا۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ کا حال کیا ہے؟ حضرت حسن بصری نے کہا۔ بھائی تیس سال ہو گئے ہیں میں نے اپنے نفس کے دروازے بند کر دیئے ہیں اور اللہ کے حکم کا منتظر بیٹھا ہوں۔

○ حضرت شیخ نے ایک دفعہ فرمایا۔ دل کی پریشانی تو دنیا کی محبت سے ہوتی ہے جب

تک دنیا کی محبت دل میں رہے گی۔ ذلِ مطین نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حُبِّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَبِيْثَةٍ قَامَ بِرَأْيِيْوْنَ كَيْ لَشَكَرٍ كَمَا سَبَّ سَالَا رَتُو دَلِّ مِيْنَ بِيْطِيْهَا هَيْ وَهْ كَسِيْ دُو سَرِيْ كُو رَا سَتَهْ دَسْ كَا تُو دَلِّ مِيْنَ آئِيْ كَا۔ ابوالقاسم بشری یاسین یہ شعر بہت کہا کرتے تھے۔

مہمان تو خواہم آمدن جانانا      ستوار یک وز حاسدان پنھانا  
خالی کن خانہ وز پس مہمان      باماکس رانجانہ در منشانانا

○ حضرت شیخ قدس سرہ نے فرمایا کہ ابوالقاسم بشری یاسین قدس سرہ مینہ کے بزرگوں میں سے تھے۔ وہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

کے گشت زندہ بدو ہر کہ گشت مردہ بدو

ازد حیات نیابی کہ از جزو نبوی

مقام صفوت خواہی و پائیت آلودہ

خیس ہمت ترسم کہ اندر و نخوری

○ حضرت شیخ سے لوگوں نے پوچھا ہم اس بات پر بڑا غور و فکر کرتے ہیں مگر اس

بات کا مطلب نہیں پاسکتے۔ فرمایا غور و فکر تو بے خبروں کا کام ہوتا ہے۔ دنیا میں غور و فکر اور تدبیر سے بڑا کوئی ڈاکو نہیں ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے اطلبوا اللہ شبرکم المتدبیر  
فَاِنَّ السَّدْبِيْرِيْنَ هٰذَا الطَّرِيْقُ تَدْوِيْرٌۙ اللّٰهُ كُو تَلَا شِ كُرْنَا هُو تُو تَدْبِيْرُ كُو تَرَكُ  
کردو۔ کیونکہ اس راستہ میں تدبیر کرنا مکرو فریب ہے۔

○ فرمایا مخلوق میں بدترین بیوقوف وہ ہوتا ہے جو دوست کے لئے دشمن سے

مشورہ کرتا ہے۔ یہ مشورہ تو معرفت کے نہ ہونے کی نشانی ہے۔ ایک بزرگ یہ دعا بہت

مانگا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَشْكُوْ اِيْكَ مِنْ قَلْبِيْهِ مَعْرِفَتِيْ بِكَ۔

○ حضرت شیخ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا۔ کہ میں حضرت ابوالفضل جو

قدس سرہ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا۔ ہم نے دوستوں سے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ دوست اچھے تھے جنہیں تم دوست شمار کیا کرتے تھے۔ مگر اب تم نے ہاتھ اٹھائے ہیں یہ اس سے بھی اچھی بات ہے۔

○ الزیارة مع حضور القلب خیر من دوامہا مع نفور القلب  
حضور قلب سے کبھی کبھی زیارت کرنا اچھا ہے۔ یہ نسبت نفور قلب سے متواتر زیارت کرنے سے  
○ جب تک انسان اپنے معاملات کی صفائی میں یہ کہتا ہے تم ایسے ہو۔ میں ایسا ہوں اس وقت ناکس رہتا ہے۔ مگر جب اس کی نگاہیں اللہ کے فضل و کرم پر پڑتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے تو ہی تو ہی اس وقت اس کی بندگی حقیقت بنتی ہے۔

○ حضرت شیخ قدس سرہ سے لوگوں نے پوچھا حضرت شریعت طریقت اور حقیقت کی وضاحت فرمائی ہیں آپ نے فرمایا۔ یہ تمام سالک کی منزلوں کے نام ہیں اور شہریت اپنی منزل تک پہنچنے کی جدوجہد کوئی رہتی ہے۔ شریعت قالب و ہیکل پر نفی و اثبات کا نام ہے۔ طریقت محو کلی کی کیفیت ہے۔ اور حقیقت حیرت کا مقام ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے سفر آخرت کرنے لگے تو فرمایا۔ یا ہادی الطریق حیرت۔ حیرت حقیقت سے پکار رہی تھی۔ یہ تمام باتیں نشانی ہیں۔ اور نشانی بے نشان سے کفر ہوتی ہے۔

○ حضرت نے فرمایا ہر کام سے طمع ہٹا دینا چاہیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا عمل آسان ہو۔ تو عمل بغیر طمع کے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ اشعار فرمائے۔

کمال دوستی از دوستاں بے طمع ست      چر قیمت آرد آں خیر کش بہا باشد

عطا دھند ترا بہتر از عطا بہ یقین      عطا چہ باید چون عین کیمیا باشد

○ ایک درویش نے حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ سے پوچھا حضرت فقر

اور غنا میں سے کون سی چیز اچھی ہے۔ حضرت شیخ نے پہلے یہ شعر پڑھا۔

ہو العجب یاری اے یار خراسانی      چاکر بوا العجبائے حسد اسامی



میں دریافت کیا تھا۔ حضرت شیخ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا۔ تم نہیں جانتے جب تک دو جہاں کی خواہشات سے آزاد نہ ہو جاؤ۔ بندہ نہیں بن سکتے۔

آزادی و عشق چوں ہی نامہ راست  
بندہ شدم بہ آدم از کیسو خاست  
زین پس چو ناں کہ در روم دوست رواست  
گفتار و خصومت از میانہ برخاست

○ ایک درویش نے حضرت سے سوال کیا، حضرت فتوت کیلئے ہے، آپ نے فرمایا صاحب ہمت چاہئے تاکہ اس کے سامنے فتوت کا مطلب بیان کر سکوں۔ صاحب منیت کے ساتھ فتوت کی بات نہیں کی جاسکتی۔ پھر فرمایا زلزلة صاحب الہمت طاعة و طاعت صاحب المنیت زلزلة فتوت، شجاعت لطافت اور ظرافت ایسی بوٹیاں ہیں جو گلستانِ کشش میں اگتی ہیں۔ یہ روزے۔ یہ فاقے۔ یہ رات کا جاگنا۔ یہ صدقات جو شخص بھی اثبات کی کوشش کرتا ہے کشش ختم ہوتی جاتی ہے۔

○ حضرت شیخ نے فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج فرشتوں کی ایک جماعت ایسی دیکھی جو نور ہی نور تھے۔ ان کے آگے نور ان کے پیچھے نور۔ ان کے اوپر نور ان کے نیچے نور، نوراً علی نور، حضور نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ یہ کون لوگ ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا کہ کون ہیں۔

○ حضرت نے ایک دن فرمایا۔ حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے ایسے غنی سے بہتر کوئی شخص نہیں دیکھا جو فقیر کی تواضع کرتا ہو۔ اور میں نے اس فقیر سے بہتر کوئی شخص نہیں دیکھا۔ جو غنی سے بے نیاز رہتا ہے پھر قاری نے خوش الحانی سے پڑھا۔ وَاللّٰہِ الْمِضْرَۃَ وَلِرِسْوٰلِہِ وَاللّٰہُ مَنِیْنٌ -

○ پیرِ محقق اور مریدِ مصدق :- ایک دن حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر



سے پوچھا۔ پیر محقق کون ہوتا ہے؟ اور مرید مصدق (صادق) کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا سچے پیر و مرشد میں دس صفات ہونے بڑے ضروری ہیں۔

اول :- اس کی نگاہ میں مرید کی شناخت پرکھ ہو۔

دوم :- وہ راہِ طریقت سے واقف ہوتا کہ راہنمائی کر سکے۔

سوم :- مہذب اور مودب ہو۔ تاکہ مرید کی تادیب کر سکے۔

چہارم :- بے پناہ سخی ہوتا کہ مرید پر اپنا سب کچھ بچھا دے کر سکے۔

پنجم :- مرید کے مال پر نگاہ نہ رکھتا ہو۔ تاکہ اسی لالچ میں منزل سے پہلے ہی نہ

تھک جائے۔

ششم :- اشاروں میں تربیت دے سکے بعض اوقات الفاظ کا کام اشاروں سے کرے۔

ہفتم :- نرمی سے مرید کی تربیت کر سکے۔ سختی اور درشتگی سے کام نہ لے۔

ہشتم :- جو کچھ کہیں پہلے اُس پر عمل کرے۔

نہم :- جو چیز آگ سے بچا سکتی ہے۔ اُس سے خود ڈر کا ہو۔

دہم :- جس مرید کو اللہ کے سپرد کرے تو اُسے مخلوق سے بھی علیحدہ نہ کرے تاکہ یہ سلسلہ

ٹک نہ جائے جب پیر و مرشد ان اوصاف سے متصف ہوگا۔ تو مرید کی روحانی تربیت صحیح

سمت پر ہوگی۔ ان اخلاق سے آراستہ پیر ہی سچے مرید کو تربیت کر سکتا ہے۔ پھر اس کے

اخلاق مرید میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح سچے مرید کے ہاں کم از کم دس چیزوں کا

ہونا ضروری ہے۔

اول :- وہ اتنا دانا اور زبیرک ہو کہ اپنے پیر کے اشارے کو پاسکے۔

دوم :- وہ ہمہ تن تسلیم و رضا کا پیکر ہوتا کہ پیر کی تربیت حاصل کر سکے۔

سوم :- کانوں کا تیز ہونا کہ پیر کی معمولی سی بات کو ذہن نشین اور دل نشین کرے۔

چہارم :- دل کا صاف ہونا کہ پیر کے مقامات کو دل میں رکھے۔

پنجم :- سچا ہو۔ جرات کرے اس میں سچائی ہو۔  
ششم :- وعدے کا پکا ہو۔ جو کچھ کہے اس پر عمل کرے۔  
ہفتم :- وہ آزاد روش ہو۔ تاکہ پیر کا فرمان ماننے میں کسی خواہش کا غلام نہ ہو سکے۔  
ہشتم :- راز دار ہو۔ پیر کے اسرار و راز کو دل میں ہی رکھے۔  
نہم :- نصیحت کو اختیار کرنے والا ہو تاکہ پیر کے احکامات کو قبول کر سکے۔  
دہم :- جانثار ہو تاکہ پیر کے حکم پر جان بھی قربان کرنے کا وقت آئے تو ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے اگر مریدان اوصاف سے متصف ہوگا تو اسے راہِ طریقت پر چلنے میں کامیابی ہوگی اور پیر کی تربیت آسان ہو جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

○ حضرت ابوسعید قدس سرہ نے ایک دن رسومات پر بات کرتے ہوئے فرمایا ایک کام اول اول میں اٹکایا جاتا ہے۔ یہی رسم تکلفاً کی جاتی ہے۔ پھر یہ عادت بن جاتی ہے یہی عادت کچھ عرصہ کے بعد طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے یہی طبیعت آہستہ آہستہ حقیقت بن جاتی ہے۔ حضرت شیخ نے خواجہ ابو بکر مودب کو کہا۔ اٹھو۔ قلم و دوات لاؤ۔ اور کاغذ پر لکھو تاکہ میں تمہیں رسومات و عادات خانقاہیاں لکھا دوں۔ وہ قلم و دوات اور کاغذ لائے تو آپ نے کہا لکھو۔ خانقاہ نشینوں میں دس چیزیں فرض ہوتی ہیں وہ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کی طرف عمل پیرا ہوتے ہیں وہ اصحاب صفہ کی دس عادات کے فریضہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ نہیں کہ ان خانقاہ نشینوں کو صوفی کہا جاتا ہے۔ پھر یہ لوگ صاف دل ہوتے ہیں وہ اصحاب صفہ کے افعال کی پیروی کرتے ہیں۔ مگر یہ دس چیزیں جو اصحاب صفہ کی تقلید میں کرتے ہیں دراصل قرآن پاک کے ارشادات کے زیر احکام کرتے ہیں۔ اور اس میں سنت معنطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع ہوتی ہے۔

(۱)۔ کپڑے پاکیزہ پہنتے ہیں۔ ویشاپک مطہر۔

(۲)۔ بادھوہتے ہیں۔ فیہ رجال یجبون ان یتطہروا واللہ یحب المظہرس

(۳)۔ وہ مسجد میں قیام کرتے ہیں یُسْبِعُ لَهَا فِيهَا بِالْعَدْوِ وَالْأَصْحَالِ رَجَالٌ۔  
(۴)۔ اربین فرصت میں نماز باجماعت ادا کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ  
يَحَافِظُونَ۔

(۵)۔ رات کو نماز ادا کرتے ہیں۔ وَمَنْ اللَّيْلُ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً نَّكَ  
(۶)۔ سحری کے وقت استغفار اور دعا کرتے ہیں رَبِّ السَّحَابِ يَسْتَعْفِرُونَ  
(۷)۔ صبح کے وقت تلاوت قرآن کرتے ہیں جب تک سورج نہ نکل آئے کسی سے بات  
نہیں کرتے إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا  
(۸)۔ نماز شام اور عشا کے درمیان ذکر خداوندی میں مشغول رہتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ  
وَادْبَارَ النُّجُومِ

(۹)۔ ضعیفوں۔ نیاز مندوں اور جو لوگ ان سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی دل دہی کرتے  
ہیں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ  
رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَىٰ وَالْعَشَىٰ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ

(۱۰)۔ ایک دوسرے کے بغیر کوئی چیز نہیں کھاتے وَالْمُؤْمِنُونَ بَعَثُوا إِذَا  
عَاهَدُوا ۖ اٰیك دوسرے کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر نہیں جاتے۔ اٰذَا  
كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ اَمْرٍ جَامِعٍ لَّسِيذْهُبُوْا حَتَّىٰ يَسْتَاذِنُوْا۔  
ان مشاغل و مصروفیات سے وقت بچ جائے تو وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ درود کرنا یا  
مخلوق خدا کے لئے ایسا کام کرنا جس سے اسے خوشی یا آسانی ہو۔ ان لوگوں کی اعداد کرنا۔ ان  
سے مختلف امور میں تعاون کرنا کس کو آرام پہنچانا۔ ان کی تکلیف و راحت میں شریک ہونا اللہ  
کو پسند ہے۔ فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اِنِّي لَا اُضِيعُ عَمَلَ عَابِدٍ مِّنْكُمْ مِّنْ  
ذَكَرٍ وَّانْتِ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم سے محبت کی وہ اسی کا ایک

صَدَقَ اَوْلَانِكَ هَمَّ الرَّاشِدِ وَقَدْ اِيْمَنَ اللهُ وَنِعْمَتُهُ وَاللّٰهُ

عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ

○ حضرت شیخ نے فرمایا جس شخص نے ہمارے بیٹوں اور خاندان کے افراد کی امداد کی۔ وہ ہماری شفاعت کی مچھری بنے گا۔ اور قیامت کے دن ہماری شفاعت سے محروم نہیں رہے گا۔

○ حضرت شیخ قدس سرہ العزیز نے فرمایا ہمارے بیٹے دائیں بائیں اور آگے پیچھے کے ہمارے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لے ہیں۔ ہمارے بیٹے انہیں ہمارے کام میں لگا دیا ہے فرمایا بلخ والے ہمارے ہمسائے ہیں۔ مروہ والے ہمارے ہمسائے ہیں۔ نیشاپور والے ہمارے ہمسائے ہیں۔ ہرات والے ہمارے ہمسائے ہیں۔ یاد رکھو۔ ان ہمسایوں کے تعلق کوئی بڑی بات نہ کہی جائے۔ نہ چلی جائے۔ جو شخص گدھے پر سوار ہو کر ہماری گلی سے گزرے گا۔ ہماری خانقاہ کے راستے سے گزرے گا۔ ہماری خانقاہ کی روشنی کو دُور سے ایک بار دیکھ لے گا۔ اتفاقاً ہمیں تمنا کریں گے کہ اس کے لئے اپنی رحمت اور برکات کے دروازے کھول دے۔



<http://ataunnabi.blogspot.in>

for more books click on the link

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

# دُعائیں نیک تمنائیں

حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ العزیز نے اپنے ہم عصر حضرات کے لئے بعضے دعائیں لکھیں اور نیک تمناؤں کے اظہار فرمایا ہے۔ انہی صفحات میں انہی دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ قارئین حضرات بھی انہی دعاؤں میں شریک ہوں گے اور انہی سے برکات حاصل کریں گے۔

مترجم

## حضرت خواجہ ابوطاہر قدس سرہ بیان کرتے ہیں،

ایک دن خواجہ ابومنصور ورقانی قدس سرہ ہمارے شیخ ابوسعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ اور کہا کہ یا حضرت مجھے کوئی راستہ دکھائیں حضرت نے فرمایا وہ راستہ اختیار کریں جس کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سا راستہ ہے حضرت شیخ نے فرمایا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اور یہ نہیں فرمایا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ خَاب۔ مزید فرمایا۔ ان لوگوں کی اتباع کرو جو ہمارے ساتھ رہے ہیں اور ہمارے دوست تھے یہ نہیں فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو جو بد اعمال اور گمراہ ہیں تا دنیا و آخرت کے نابکار اور نامراد ہونے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا حضرت یہ راہ کس زاویہ کے ساتھ طے کریں گے۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ یہ کہا کرو۔

يَا رَجَا السَّارِحِينَ وَيَا أَمَلِ الْفَاطِلِينَ لَا تَخِيبَ رَجَائِي  
وَلَا تَقْطَعْ أَمَلِي يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ تُوَفِّي مُسْلِمًا وَالْحَقَّ بِالصَّالِحِينَ  
خواجہ ابوطاہر قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سلطان طفیل نے ایک آدمی بھیجا کہ اس کے وزیر ابومنصور ورقانی کو بلالائے۔ وزیر نے کہا۔ میں نے ابھی تک چاشت کی نماز نہیں پڑھی۔ اس سے فوری نہیں آسکتا۔ وہ آدمی یہ انکاری پیغام لے کر واپس چلا گیا اور بادشاہ کو جا کر کہہ دیا۔ مگر بادشاہ نے کچھ نہ کہا۔ خواجہ ابومنصور نماز چاشت پڑھ کر اور اس سے فارغ ہوئے۔

تو بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے کہا۔ خواجہ! مجھے جب بھی کوئی کام ہوتا ہے میں آپ کو بلاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے اب آپ نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ اب وظیفہ بڑھ رہے ہیں۔ اب آپ ورد کو رہے ہیں اور کام اسی طرح رہ جلتے ہیں۔ ابو منصور نے کہا۔ بادشاہ سلامت! میں اللہ کا بندہ ہوں اور آپ کا ملازم ہوں مجھے پہلے اپنے اللہ کی بندگی کرنا ہوتی ہے پھر آپ کی ملازمت اور خدمت۔ اگر آپ کسی ایسے آدمی کو وزیر رکھ لیں جو اللہ کا بندہ نہ ہو صرف آپ کا ہی ملازم ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں میں گھر بیٹھ جاتا ہوں۔ بادشاہ نے فرمایا۔ مجھے ایسے کسی وزیر کی ضرورت نہیں جو صرف میرا ہی ملازم ہو۔ آپ پہلے اللہ کی عبادت کیا کریں۔ پھر میری ملازمت میں آیا کریں۔ ابو منصور دربار سے واپس گھر آئے یہ خبر حضرت شیخ ابوسعید ابو الخیر کو ملی۔ شیخ ان دنوں نیشاپور میں تھے۔ آپ نے فرمایا گھوڑے پر زین رکھیں۔ میں ابو منصور کو مبارک دینے جاؤں گا۔ آپ خانقاہ سے روانہ ہوئے تو حسن مودب نے ایک آدمی آگے بھیج دیا کہ ابو منصور کو اطلاع دے کہ حضرت شیخ مبارک دینے کو آرہے ہیں جب حضرت شیخ ابو منصور کے دروازے پر پہنچے تو حسن مودب کو دربان نے کہا جلدی کرو خواجہ ابو منصور کو جب سے اطلاع ملی ہے کہ حضرت شیخ تشریف لارہے ہیں۔ اسی وقت سے گھر میں کھڑے ہو کر انتظار کو رہے ہیں۔ گھر والے انہیں بیٹھے کا کہتے ہیں۔ وہ نہیں بیٹھے اور کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حضرت کے آنے سے پہلے بیٹھ جاؤں۔ اتنا بڑا بزرگ مجھے منے آئے اور میں بیٹھ کر انتظار کروں حضرت گھر میں داخل ہوئے۔ تو ابو منصور کو کھڑے دیکھا۔ سبب پوچھا کہنے لگا جب سے حضرت کے آنے کی خبر سنی ہے میں سرودھ کھڑا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تشریف لا رہے ہوں اور میں بیٹھا ہوا ہوں۔ حضرت شیخ بہت خوش ہوئے۔ اور فرمایا: ابو منصور! قیامت کے دن ہم سے بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کھڑے ہوں اور میں بیٹھا رہوں۔ جب تک آپ کو صحیح مقام پر بٹھائیں گے نہیں بیٹھیں گے۔ خواجہ کہتے ہیں۔ میرا کام ہو گیا۔

حضرت شیخ بیٹھے۔ خواجہ ابو منصور بھی بیٹھ گئے۔ مبارک پیش کی۔ خواجہ نے بتایا مجھے ڈرتھا



کہ یہ بادشاہ ترک ہے۔ اور ترکوں کی طرح کہیں سرکشی نہ کر بیٹھے مگر اللہ نے ستم رکھ لی۔ حضرت شیخ نے فرمایا۔ آئندہ کئے جب بھی دربار میں جاؤ دعا یوم الاحزاب پڑھ لیا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بادشاہ کے پاس جائے۔ دعائے احزاب پڑھ لیا کرے کسی قسم کا دکھ اور تکلیف نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کام آسان کر دے گا۔ دعائے احزاب یہ ہے۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِنُورِكَ تَدْسِكُ وَعَظْمَتِهِ  
دَعَاةَ احْزَابِ :- طَهَارَتِكَ وَبِرُكَّةِ جَلَالِكَ مِنْ كُلِّ آذَةٍ

وَمِنْ كُلِّ سُوءٍ وَغَايَةِ وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْوَطَارِقَا  
يَطْرُقُ بِخَيْرٍ مِنْكَ يَا رَحْمَنُ. اللَّهُمَّ أَنْتَ غِيَاثُنَا فِيكَ نَعُوذُ  
وَإِنَّتَ مَلَاذِنَا فِيكَ نَلُوذُ يَا مَنْ ذَلَّتْ لَهُ رِقَابُ الْمُجَابِرَةِ وَخَصَعَتْ  
لَذَا عُنَاقِ الْفِرَاعَةِ نَعُوذُ بِكَ مِنْ خَزِيكَ وَكُشْفِ سِتْرِكَ وَنَسْيَانِ  
ذِكْرِكَ وَالْأَنْصِرَانِ عَنْ شُكْرِكَ ذِكْرِكَ شَعَارِنَا وَنَسَاؤِكَ دَنَارِ  
نَافِي نَوْمِنَا وَتَسْرَارِنَا وَطَعْنِنَا وَأَسْفَارِنَا وَبَلِينَا وَنَهَارِنَا أَضْرِبْ  
عَلَيْنَا سَرَادِقَاتِ حِفْظِكَ وَأَدْخِلْنَا جَمِيعًا فِي خَفْضِ عُنَائِكَ وَ  
جِدْ عَلَيْنَا بِخَيْرٍ مِنْكَ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا لَإِلَهِ إِلَّا - أَنْتَ  
وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ -

خواجہ ابوطاہر قدس سرہ فرماتے ہیں جن دنوں حضرت شیخ نے مجھے لٹا کے علاقہ میں  
بھیجا۔ مجھے یہ دعا پڑھانی۔ اور فرمایا اس دعا کے پڑھنے میں کوتاہی نہ کرنا۔

يَا لَعْنَانَ يَا مَنَّانَ يَا دِيَانَ يَا بَرَهَانَ يَا سَجْنَ يَا رَحْمَنُ  
يَا مُسْتَعَانَ يَا عَزِيْزَ الشَّانِ يَا دَائِمَ السُّلْطَانِ يَا كَثِيْرَ  
الْخَيْرِ وَالْاِحْسَانِ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجِرْمَانِ وَالْمَجْدَلُوْنَ .  
حضرت شیخ یہ دعا اور ادھیگا ہی میں پڑھا کرتے تھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَأْتِي بِالْخَيْرِ  
إِلَّا اللَّهُ - بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا بِنَا مِنْ نِعْمَةٍ فَمَنْ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ  
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - بِسْمِ اللَّهِ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي  
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - بِسْمِ اللَّهِ الشَّافِي  
بِسْمِ اللَّهِ الْكَافِي - بِسْمِ اللَّهِ الْمُعَافِي - بِسْمِ اللَّهِ ذِي الشَّيْءِ  
الْمَشِيدِ السُّلْطَانِ الْعَظِيمِ الْبِرّهَانِ - مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ أَعُوذُ  
بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَنَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَقِيحٌ وَرَحْمَةٌ الْمُؤْمِنِينَ  
فَتَحْنًا بِالْحِي الَّذِي لَا يَمُوتُ وَرَمِينًا مَنْ أَرَادَ مَا تَسُو بِلَا إِلَهَ إِلَّا  
أَنْتَ وَتَمَسَّكْنَا جَمِيعًا بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ الْعَلِيمُ ۝

یہ دعا بھی ہمارے شیخ قدس سرہ بعد از نماز صبح پڑھا کرتے تھے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مَبَارَكًا كَمَا  
يُحِبُّهُ رَبِّنَا وَمِيرُضِي كَمَا يَنْبَغِي ثِكْرَمُ وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلَالِهِ وَالْحَمْدُ  
لِلَّهِ جَمْدًا وَلَا انْقِضَاءَ الْعَدْوِ وَلَا انْتِهَاءَ الْمَدَدِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ  
الَّذِي خَلَقَنَا لِيَوْمٍ عَاقِبَةٍ وَقَالَ لَنَا بِعَمَلِ غَافِيَةٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ  
حَمْدًا بَعْدَ إِحْسَانِهِ وَفَضْلِهِ عَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا بَعْدَ إِحْسَانَاتِ خَلْقِهِ وَسَيَاءِ تِهْمِ إِذَا فَضَلْنَا  
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَهُ اللَّهُ نَكِ الْحَمْدُ بِجَمِيعِ مَحَامِدِكَ كُلِّهَا  
عَلَى جَمِيعِ نِعْمَاتِكَ كُلِّهَا عَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ وَصَادِقَاتِ  
اللَّهِ مَلَا يُكْتَنُهُ وَرُسُلِهِ وَجَمِيعِ خَلْقِهِ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ مَرْجِبًا مَرْجِبًا

بِالْحَافِظِينَ وَحَيًّا لِمَا لَمْ يَلِدْ مِنْ كَاتِبِينَ مُلْكِينَ رَفِيقِينَ شَاهِدِينَ  
عَدْلِينَ حِزًّا لِمَا آتَا عَنِّي مِنْ جَلِيلِينَ كَرِيمِينَ خَيْرًا كَتَبًا  
رَحِمَكُمَا اللَّهُ وَرَضَى عَنْكُمَا بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ  
إِلَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ  
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ  
لَا رَيْبَ فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ يُبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ أَصْحَابَتْ عَبْدًا مَمْلُوكًا  
لَا أَقْدَرَ إِنْ أَسْوَقَ إِلَى نَفْسِي خَيْرًا مِمَّا أَرَجُو وَلَا إِنْ أَصْرَفَ عَن  
نَفْسِي شَرًّا مِمَّا أَحْذَرُ أَتَّخِذْتُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ  
وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَوَلَايَةِ وَلِيِّيهِمَا وَالسُّبْرَانِيَّةِ مِنْ عَدُوِّهِمَا  
اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْحَابْتُ فِي نَأْفِيَّتِكَ وَنِعْمَتِكَ فَاتَمِّمْ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ  
وَنِعْمَتَكَ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْحَابْتُ وَبِكَ أَمْسَيْتُ وَبِكَ أَحْيَيْتُ وَبِكَ  
أَمُوتُ وَعَلَيْكَ التَّوَكُّلُ وَالنُّشُورُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ  
الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝

یاد رہے۔ ہمارے شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ کا یہ معمول تھا کہ کھانا کھانے کے بعد  
دستر خوان پیٹ لیتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَا رَزَقْتَنَا وَارْزُقْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَأَفْضَلَ وَ  
اعْظُنَّا جَمِيعَ مَا سَأَلْنَاكَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا كُرِهْتَنَا وَرِزْقًا مِنْ  
فَضْلِكَ الْبِوَاسِعِ وَإِنَّا إِلَيْكَ رَاغِبُونَ ۝



## مکتوبات عالیہ

حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر کے چند ایک مکتوبات بطور تبرک درج کئے جاتے ہیں۔  
سلطان چغری نے حضرت شیخ کی خدمت میں ایک خط لکھا۔ جسے خواجہ تمویہ رئیس سینہ کے  
ہاتھ بھیجا۔ سلطان چغری حضرت شیخ کا مرید تھا۔ اس نے حضرت شیخ سے درخواست  
کی تھی۔ کہ ایک مشکل مہم کے معاملہ میں آپ دعا فرمائیں۔ آپ نے اس خط کے جواب میں  
یہ مکتوب لکھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ امیر حبیب ملک مظفر کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور اپنی مخلوق کو دوسروں کے  
علم و کرم پر نہ چھوڑے۔ جو اس کی رضا ہے اس میں محفوظ رکھے۔ اور جس کام کے نتیجہ میں  
پشیمانی آتی ہے۔ اسے اپنے فضل سے درست فرمائے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
نامہ گرامی امیر حبیب مظفر سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ خط خواجہ تمویہ کی  
معرفت موصول ہوا ہے۔ میں نے اسے پڑھا۔ اور حالات کو معلوم کر لیا ہے۔ پہلے مکتوبات  
میں جس معذرت کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس کو دوبارہ معلوم کر لیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ  
نے آپ کی ان دعاؤں کو قبول فرمایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے امیر حبیب ملک

منظر کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور اسے دو جہاں کی نصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ اور جس کام میں دونوں جہانوں کی بہتری اور اصلاح ہو اسی کی توفیق دے اور خطرات سے نجات دے الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ۔

جن دنوں حضرت شیخ نیشاپور میں تھے۔ آپ کی خدمت میں ایک درویش آیا۔ کہنے لگا۔ میں مینہہ جا رہا ہوں۔ حضرت شیخ نے قلم دوات اور کاغذ منگوا یا۔ اور فرمایا ٹھہرو! ساتھ میں ابوظاہر کے لئے خط لکھوادوں۔ آپ نے لکھا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سَلَامُ اللّٰهِ لَطِیْفًا لِّخَبِیْرٍ عَلٰی الْکَبِیْرِ الصَّغِیْرِ وَهُوَ عَلٰی جَمْعِهِمْ

اِذَا یَشَاءُ قَدِیْرًا وَسَلَامٌ !

ایک درویش حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا۔ حضرت میں مرو جا رہا ہوں کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو یہ خط لیتے جانا۔ آپ نے لکھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْاَحْظٰهَافْتَعَلَّمَا بَقَلْبِیْ وَتَلَحَّنٰنِیْ فَاَعَلَّمَا تَرِیْدِ

وَالسَّلَامُ۔

حضرت شیخ قدس سرہ نے ایک بزرگ کو یہ مکتوب لکھا۔

خَطِیْبٌ عَزِیْزٌ !  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلٰی الشَّیْخِ الْعَالِمِ الرَّحْمٰةِ اللّٰهِ وَبِرْكَامَتِهِ

وَهَذَا الْخَطِیْبِ الْاَفْضَلِ اِدَامَ اللّٰهُ فَضْلَهُ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ الْعَالَمِ

الْفَضْلِ وَتَدْقِصْدِ سَاحَتَهُ وَطَلَبِ مَجَاوِزَتِهِ مَتَفِیْئًا بِبِرْكَةٍ وَ

نَرْجُو اَنْ یَنْزِلَ مِنْ اَمْثَالِهِ بِاَظْهَارِ شَفَقَةٍ عَلَیْهِ وَ اَسْأَلُ

بِكْرَمَتِهِ وَ اَفْضَالِهِ وَ السَّلَامُ

ایک خطیب نے حضرت شیخ کو کسی چیز کے لئے لکھا۔ آپ نے یہ جواب دیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

رَسَلْ اِدَامَ اللّٰهُ فَضْلَهُ كِتَابَ الْخَطِيبِ الْاَفْضَلِ الْاَدِيبِ وَنَفْسَهُ  
اللّٰهُ عَلٰى جَمِيعِ مَا يَقْرِبُ اِلَيْهِ دُنْيَا وَدُنْيَا وَآخِرَةٌ وَكَشْفِ لِيْ مِنْ جَمِيعِ  
مَا يَضْمُرُهُ مِنْ صَحَّةِ الْاِعْتِقَادِ وَمَحْضِ الْوِدَادِ وَلَا غَرْوَانَ يَكُوْنُ كَذَا  
اِذَا الْقُلُوْبُ مَتَشَاهِدَةٌ وَالضَّمَايِرُ بِنُوْرِ الْحَقِّ مَتَلَا حِظَّةً وَاللّٰهُ بِبَقِيَّةِ  
وَعَنِ الْاَسْوَاِ يَقْبَهُ رَا مَا حَدِيثِ الْمَتَوَفَاتِ نُوْرًا اللّٰهُ فَبَرَهَا  
بَشْرٍ بِلِقَائِهِ مَدْرَهَا وَاَنْشَدَ عَلٰى فِرَافِهَا نَصِيْرَةٌ عَنِ طَوْبِلِهِ  
وَاَوْكَانَ الْاِنْسَاءُ كَمَنْ فَتَدْنَا لَفَضَلْتِ الْاِنْسَاءُ عَلٰى الرَّجَالِ  
وَالسَّلَامُ۔

خواجہ امام محمد بن عبداللہ بن یوسف الجوبینی قدس سرہ نیشاپور میں انتقال فرما  
گئے۔ ہمارے شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ نے مینہ سے بزرگان نیشاپور کے نام ایک مکتوب  
لکھا۔ جس میں مرحوم کے لئے تمام بزرگوں سے تعزیت کی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلٰی الْاَجَلَةِ السَّادَةِ وَرَحْمَةٌ وَبَرَكَاتَةٌ  
فَيَقُوْلُ اَنَا اللّٰهُ وَاَنَا اِلَيْهِ رَا جِعُوْنَ شَدَّ اَنَا اللّٰهُ وَاَنَا اِلَيْهِ رَا جِعُوْنَ  
رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيْمًا لِحُكْمِهِ وَحَمُوْدًا تَحْتَ قَهْرِهِ ۔

جن دنوں حضرت شیخ ابوسعید نیشاپور میں قیام فرما تھے۔ ایک درویش حاضر ہوا۔  
سامان سفر تیار کیا اور کہنے لگائیں مینہ جا رہا ہوں۔ کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیں آپ  
نے فرمایا۔ میرے بیٹوں کے نام ایک خط لیتے جاؤ۔ آپ نے لکھا!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ سچ صورت گزشتہ سال از بدایع دزد نگار  
آں نداند کرد و نتواند کہ یک باراں کند  
خندہ رودئی کشادہ دلی اور مہمانوں کی تواضع سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔

والسلام

مندرجہ ذیل مکتوب فقہیہ ابو بکر خطیب مینہ کو لکھا گیا تھا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہم آپ جیسے فاضل کا ذکر خیر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے خیال اور آپ کے  
بیٹوں کی دعا سے کبھی غافل نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی اولاد  
کو اپنی بناہ میں رکھے اور دجہاں کے مشاغل میں سرخس فرمائے جو بھی بڑا اور چھوٹا ثواب  
ہے۔ عطا فرمائے بفسندہ انہ، خیر مسؤل ہمیشہ آپ جیسے دانشمند عالم فاضل ادا ام اللہ توفیق  
کو راحتیں نصیب ہوں۔ میرا سلام و تحیت موصول ہو آپ کو آپ کے بیٹوں کو اور احباب  
کو! تمام چھوٹے بڑوں کو سلام و دعا جس مودب خصوصی طور پر سلام پیش کرتا ہے۔  
والسلام علی محمد وآلہ۔



## حضرت کے پسندیدہ اشعار

جانا بزین خاوران عاری نیست      کش باسن در روزگار من کاری نیست  
بالطف و نوازش جمال تو مرا      در دادن صد ہزار جان عاری نیست

○ ○ ○

صاحب خبران دارم آنجا کہ تو ہستی      یا جملہ مرا ہستی یا عہد شکستی

○ ○ ○

مارا بجز این جہاں جہانی دگرست      جز دوزخ و فردوس مکانی دگرست  
قلاشی و عاشقی سرایہ ماست      قرآنی و زاہدی جہانی دگرست

○ ○ ○

ماوہمین دوغ واد ترب و ترینے      پختہ امروز یا ز باقی دینہ  
عز دلایت بذل عزل نیرزد      گوچہ تر انور حاج تا بعدینہ

○ ○ ○

بس کی جسم تا بیایم من اذ ان دبر نشان  
تا گمان اندر یقین گم شد یقین اندر گمان

در خیال من نیاید در یقینم ہم نبود

نی نشانی کی صواب آید از و دادن نشان



چند عاشقی برزیدم و پیدا شتم  
جو ایشتن شبره بگردن کوچنن دمن چنان  
در حقیقت چون بدیدم زو خیالی ہم نبود

عاشق و معشوق من بودم بین این داتان



ہر آن دلی کہ ترا سیدی بدان نظرت  
خطر گزنت اگر چه حقیر و بی خطرست

اگر چه خرد یگی شاغلی گیاه بود

کی تو بد و نگری زاد سرد غاقرست

ہر آن دلی کی نہفتست زیر ہفت زمین

کی تو نگری ہمتش ز عرش برست



در راه یگانگی نہ کفرست و نہ دین

یک گام ز خود بدون نہ و راه بین

ای جان جهان تو راہ سلام گزین

با مازہ نشین و با خود نشین



وقتی تو آل در پیش شیخ ما این بت می گفت

سمر گشتم نگاری را کہ دیدار پری دارد

نبوت را ہی سازد نہ کار سر سری دارد

نہ ہم رہی تو مرا راہ خویش گیرد بود۔  
ترا سلامت باد و مرا نگو ناری

ترا سلامت باد و مرا سبکباری



من بودم واو واو و من اینت خوشی  
این چنین سه چہار تن بود چنین باید گفت

من بودم واو واو واو اینت خوشی



خواہی کی کسی شوی زہستی کم کن  
ناخوردہ شراب وصل مستی کم کن  
بازلف بتاں دراز دستی کم کن  
بت را چہ گز تو بت پرستی کم کن



تا زلف تو شاہ گشت درخار تو تخت  
انگندہ دم برابر تخت تو رخت  
روزی بینی مران شدہ کشند بخت  
حلقم شدہ در حلقہ زلفین تو سخت



گرفت خواہم زلفین عنبرین ترا  
ہر آن زمین کہ تو گرہ برد قدم نہی  
ہزار بوسہ دہم بوسخاد نامہ تو  
بوسہ نقش کنم برگ یا سمین ترا  
ہزار سجدہ برم خاک آن زمین ترا  
اگر ببینم بر مہر او نگین ترا  
بقیغ ہندی گودست من جدا بکنند  
اگر بگیرم روزی من آستین ترا  
زبان من بودی گردو آفرین ترا  
وگر چہ خامش مردم کہ شعر باید گفت



|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| تاروی ترا بیدم ای شمع طراز      | فی کارکنم نه روزه دارم نه نماز  |
| چون با تو بوم مجاز من عباد نماز | چون بی تو بوم نماز من جمله مجاز |



|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| تفنع بالکفات تعش رضاء   | ولا تبغ الفضل مع الکفات   |
| فقی خیز التفار بغیر آدم | و فی ما، الصراغ غنی و مات |
| د کل تزیین بالمسرتین    | وانه مینه التعمل بالعفات  |



|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| واجبت اولاد الیهود یا سرجم   | لا جک حتی که ت ان انخودا       |
| اصلی نازدی قبلمتی متعمدا     | لقبلتکم ف شهید صلاتی لشهدا     |
| دانی لا هدی فی صلاتی بحکم    | توریتہ موسی ثم فرقان احمد      |
| دولہ مقال الکاشمین و بغضہم   | لعبدت یوم السبت فین تعبدا      |
| دکان دخول النار فی الحب ہینا | اذا کان من ہنواہ فی الحب مسعدا |
| تفشع غیم الجہد عن قمر الحب   | داشرق نور البصر فی ظلمۃ الغیب  |
| وجاہ نسیم الاعتذار مخففا     | فضادہ حسن القبول من القلب      |



|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| ازیک سو شیر و از دگر شمشیر | سکین دل من میان شیر و شمشیر |
|----------------------------|-----------------------------|



|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| کار ہمد راست شد پناہک بیاید   | حالت شادیت شاد باشی شاید        |
| انڈہ و اندیشہ را دراز چہ داری | دولت تو خود ہمان کند کہ بیاید   |
| رای وزیران ترا بکار نیساید    | ہرچہ صوابت بخت خود فساید        |
| چرخ نیارد بدیل تو ز حسدانت    | د آنگہ ترا زاد نیز چون تو تراید |

ایزد برگزوری نبسند بر تو      تا صد و یگره بیہتری نگشاید



آنجا کہ ببائی پدید نیسی گوئی      آنجا کہ نبائی از زمین بروئی  
عاشق کنی و مراد عاشق جوئی      اینت خوشی و ظریفی و نیکوئی



ای ساتی پیش آرز سرمایہ شادی  
زان می کہ ہمی تا بد چون تاج قبادی

زان بادہ کہ بابوی گل و گونہ لعلست  
تفل در گرمست و کلید در شادی



دشش آید او را چون من بنا خوشی باشم  
مرا کہ خوشی او بود نا خوشی شاید

مرا چو گریان بیند بخند از شادی  
مرا چو کاستہ بیند کہ شہ لبزاید

ہر کسی محراب کردست آفتاب و سنگ و چوب  
من کنون محراب کردم آن نگارین روی را



در شب تاریک بزاری نقاب از روی خویش      مرد نابینا بیند باز یاید راہ را  
طاقت پنجاہ روزم نیست تا بنیم ترا      دبر اشاہ ازین پنجاہ بکن آہ را  
پنج و پنجاہ نباید ہم کنون خواہم ترا      اجمعی ام می ندانم من بن و بنگاہ را



جانی کہ تو باشی اثر عشم نبود  
آنجا کہ نباشی دل خرم نبود  
آزاکہ ز فرقت تو یک دم نبود  
شادیش زمین و آسمان کم نبود



لان کانت الایام فسر قن بیننا  
تصورت فی قلبی لفسر طمبابتی  
فانا بقرب القلب مجتمعان  
فتضحک لی نصب بكل مکان



ای دوست ترا بجلگی گشتم من  
گر تو ز وجود خود بدون حتی پاک  
حقا کہ درین سخن نہ زرقست و نہ فن  
شاید صنما بجائے تو ہستم من  
بیت :-

چندانک بکوی سلمہ راست ورود  
چندانکہ تارہ است برین چرخ کہود  
از ما بر دوست سلامت ورود  
چندانکہ درخت میوہ دارست مرد  
بیت :-

بر دستہ دگر باشد و پر بستہ دگر  
تنگ دلی نی و دل تنگ نی  
بیت :-

تنگ دلا ترا بر مارنگ نی  
تنگ دلی نی و دل تنگ نی  
بیت :-

در لغیم آید خواندان گداف وار و نام  
یکی کہ خوبان را یکسر نکو خوانند  
بزرگوار و دو نام از گداف خواندان خام  
دگر کہ عاشق گویند عاشقانرا عام  
در لغیم آید چون مر تر نکو خوانند  
در لغیم آید چون بر بہیت عاشق نام



فاساختن و غوی خوش و صفر اکم  
تا عهد میان ما بماند محکم  
فاساختن و غوی خوش و صفر ایچ  
تا عهد میان ما بماند پی تیج  
بیت :-  
رخ مردم ز بیشی و پیشیت  
راحت و ایمنی ز درویشیت  
برگزین زین جہاں یکی و بس  
گرت بادانش و فرد خوشیت



<http://ataunnabi.blogspot.in>

for more books click on the link

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

## باب سوم

# حضرت کی زندگی کے آخری لمحات

- ۱۔ مرض الموت کے دوران وصایا
- ۲۔ حالت وفات اور کیفیت نزاع
- ۳۔ کرامات جن کا ظہور بعد از وفات ہوا





## فصل اول

# مرض الموت کے دوران وصایا

حضرت شیخ کی زندگی کے آخرین لمحات جب آپ موت کے دروازے پر کھڑے تھے۔ فرمانے لگے ہیں آگاہ کر دیا کیلئے کہ کچھ لوگ یہاں آئیں گے۔ زیارت کریں گے۔ اور مجھے درمیان سے اٹھا لیا جائے گا۔ یاد رکھو۔ اگر ایسے لوگ ہمارے ہاں آئیں زیارت کریں۔ تو ہماری یہ بات بر ملا کہنا۔  
”گر با شیم یا نباشیم“۔ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں آتا  
یہ بات قیامت تک زباں زدِ خلاق رہے گی۔

حضرت شیخ قدس سرہ نے فرمایا: ”ہمارے بعد بہت سی درگاہیں نہیں گی۔ مرقع پوشوں کی بھی کثرت ہوگی۔ مگر یہ لوگ خلقِ خدا سے علیحدہ علیحدہ رہیں گے۔ ان کے دلوں کی گہرائیوں میں نہیں جائیں گے یاد رکھو مخلوق اللہ کو قریب رکھو۔ قریب بناؤ! یہ لوگ تو مخلوقِ خدا سے محبوب ہیں گے“  
میرے جد امجد شیخ الاسلام حضرت خواجہ ابوسعید قدس سرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخرین سال ہر روز مجلس میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور اکثر فرمایا کرتے ”مسلمانو! قحطِ خداوندی آنے والا ہے“ زندگی کی آخرین مجلس میں جو آپ کی زندگی کی الوداعی مجلس تھی اور اس میں اکثر و بیشتر مرید موجود تھے فرمایا۔ اگر تمہیں کل سوال کیا جائے۔

کہ تم کون ہو؟ تو تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے کہا حضرت آپ جو حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: "یہ کبھی نہ کہنا! کہ ہم مومن ہیں! ہم صوفی ہیں! ہم مسلمان ہیں!! کیونکہ اس طرح تم جو کچھ کہو گے اسے ثابت کرنے کی دیں بھی تمہیں سے پوچھی جائے گی۔ اور اگر صحیح دلیل نہ دے سکے تو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ لہذا۔ یوں کہنا ہم عاجز ہیں۔ ہم کہتے ہیں! ہمارے رہنما اور بہترین بزرگ ہم سے آگے چلے گئے ہیں! ہمیں ان کے پاس سے چلو۔ وہ ہماری طرف سے جواب دیں گے کیونکہ ٹھونوں پر سوال کا جواب بڑے دیا کرتے ہیں۔ کوشش کرو۔ کہ اپنے بزرگوں کو پا لو۔ اگر تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا گیا تو بڑا مشکل مرحلہ ہو گا۔"

ایک دفعہ خواجہ ابو منصور ورتانی جو سلطان طغرل کا وزیر تھا۔ حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کی۔ یا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: "اللہ کے بندوں کا اولین مقام یہ ہے کہ اپنے اللہ کی ذات کو پہچانیں۔ اللہ نبوت کا آخرین مقام یہ ہے کہ مومنین کے حقوق کی رعایات فرمائی جائے۔"

تم ان دنوں جس منصب پر فائز ہو۔ وہاں مخلوق خدا کے حقوق کی سہم۔ سانی کو بڑی اہمیت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیشہ سامنے رکھو لا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدُکُمْ حَتَّى یَسْرِحَ الْعَامَّةَ کَمَا یَسْرِحُ أَحَدُکُمْ الْخَاصَّةَ "ترجمہ" تم سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب تک تم عام لوگوں پر اتنی شفقت نہ کرے۔ جتنی وہ اپنے خاص عزیزوں سے کرتا ہے۔ عوام الناس تمہاری سلطنت کے فرزند ہیں انہیں اپنے بیٹوں کی طرح محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو۔ دنیا کی لالچ۔ اور مخمورتی کی دلازاری کے درپے نہ ہو۔ لوگ اپنی اپنی ضروریات کے غلام ہیں۔ اگر تم ان کی ضروریات پوری کرنے جاؤ گے تو وہ تم سے خوش رہیں گے اگرچہ تم میں بہت سے عیب بھی ہوں گے اگر ان کی حاجات و ضروریات کا خیال نہ رکھو گے تو خواہ تم کتنے ہی اچھے۔ ہو گے وہ تم سے مایوس ہو کر دُور دور رہیں گے۔"

حضرت شیخ قدس سرہ نے آخرین عمر میں ایک دن لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ہمیشہ غریب  
سیکس درویشوں کی خدمت کرتے رہو۔ ان کی خدمت میں زیادہ وقت گزارو۔ بچوں کی طرح کھینے  
میں وقت ضائع نہ کرو۔ اور نہ ہی جوانوں کی طرح بوجھیاں کرتے رہو۔ بوڑھوں کی طرح گہوں  
میں وقت نہ گزارو۔ دونوں جہانوں کا علم تو اس میں ہے إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا إِلَیْہِ رَاجِعُونَ  
اللہ کا قحط آ رہا ہے! اللہ کا قحط آ رہا ہے! اللہ کا قحط آ رہا ہے! اس سے پہلے تو روٹی  
اور پانی کا قحط آیا کرتا تھا۔ مگر اس بار اللہ کا قحط آ رہا ہے۔ میری طرف دیکھو یہ کہتے ہوئے  
آپ نے دعائیں پھیلے ہو ہاتھ اپنے منہ پر پھیر لیئے۔

حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ نے اپنی الوداعی مجلس میں بتایا۔ کہ بچپن کا زمانہ تھا میں  
محمد عفازی کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ قرآن پڑھا کرتا۔ جب قرآن پاک ختم کر لیا تو فرمانے لگے  
اب کسی استاد کے پاس جانا چاہیئے۔ میں نے عرض کی۔ حضرت مجھے حق تعلیم قرآن معاف فرمادیں  
فرمانے لگے۔ ہم ہیں معاف کر دو۔ اور یہ الفاظ یاد رکھو۔ لَآ اَنْ تَسُوْدَ لَہُمْ تِکْ اِلٰی اللّٰہِ  
طرفتہ عین خیر تک حیا طلعت علیہ الشمس! اللہ کی طرف ایک  
لمحہ کے لئے دیکھنا (مشاہدہ کرنا) طلوع آفتاب کی روشنیوں سے ہزار درجہ بہتر ہے۔

ہم آج تم لوگوں کو یہی وصیت کرتے ہیں۔ یاد رکھو۔ اللہ کو ایک لمحہ کے لئے نہ بھوید۔  
اس کی یاد سے ایک لمحہ کے لئے غافل نہ ہو! یہ کہہ کر آپ نے حسن مودب کو فرمایا۔ اٹھو!  
حسن اٹھا۔ فرمایا۔ یاد رکھو میں نے تمہاری ہستی کو اپنی طرف نہیں بلایا تھا۔ بلکہ تمہاری ہستی  
کو اپنی طرف دعوت دی تھی ہم نے کہا تھا۔ ہستی تو صرف اسی ذات کی ہے۔ تمہیں تو اس نے  
مستی (فنا) کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص دونوں جہانوں کی عبادت بھی کرے۔ تو اس  
شخص کے مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جو مخلوق خدا کو راحت پہنچاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ  
وسلم نے اپنے ہمراہ کو وصیت فرمائی تھی۔

تَحَنُّنًا تَسُوَابًا خَلَقَ اللّٰہُ تَعَالٰی اِدْرَہِیْنِہِ اِسْنِ عَادَاتِہِ کُو اللّٰہِ تَعَالٰی کِی عَادَاتِہِ

کا منظر بنا لیا میں بھی تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ اختیار کرو۔ سب لوگوں کو اللہ کی نظر تو رحم سے دیکھو۔ اللہ کو چھوڑ کر خلق کی نظر سے نہ دیکھو۔

مَنْ نَظَرَ إِلَى الْمَخْلُوقِ بَعِيْنِ الْمَخْلُوقِ طَالَتْ خَسْرَتُهُ مَعَهُمْ وَ  
مَنْ نَظَرَ إِلَى الْخَلْقِ بَعِيْنِ الْحَقِّ اسْتَوَاحَ مِنْهُمْ

ترجمہ:- جو شخص لوگوں کو لوگوں کی نظر سے دیکھے گا۔ اس کی لوگوں کے ساتھ نفرت اور دشمنی بڑھتی جائے گی۔ جو اللہ کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اسے دلوں سے بُست بڑھے گی۔

جلسہ وداعی میں حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ نے ایک بار خواجہ حمویہ کی طرف نگاہ فرمائی۔ اور فرمایا۔ خواجہ تمہیں حمویہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی حمایت کرے مخلوق کے مسائل پر کان رکھے۔ ہماری بات غور سے سناؤ! جمعہ کے روز ہمیں یہاں لایا جائے گا اس دن بہت سے لوگ جمع ہوں گے۔ ہم دلوں کو زحمت دے دیں گے۔ کچھ لوگ ہمارے واقف و آشنا ہوں گے مگر بہت سے لوگ ایسے بھی آئیں گے۔ جنہیں تم بانتے ہی نہیں۔ اس وقت تل منبر پر مگنا اور کوشش کرنا کہ جلد از جلد ہمیں آسودہ خاک بنا دینا۔ عمارت سامنے ایک سخت دشوار گزار سفر آ رہا ہے۔ خواجہ بخاری نے پوچھا۔ حضرت وہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ خواجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تین جن کا نام بنوں پر نامیہ منصر فرمایا تھا ان کے نام۔ عمر۔ بکر۔ اور عتب رضی اللہ عنہم تھے۔ عتب مجھے ملنے رہے ہیں میری عباس میں آتے رہتے ہیں میرے مرنے کے بعد میری قبر پر بنارہے ہوں گے۔ اور ساری زندگی مجاہدت کریں گے۔ وہ ہر وقت عید بتر عید کو وہاں سے بنا باکریں گے ان کی وجہ سے بہت سے دوسرے جنات بھی میرے ساتھ دوستی رکھنے لگے۔ بنائے اور یہاں سر جگہ بہ جن میرے رفیق رہے ہیں مجلس سماع پر پا ہوتی یہ تو پرہ دینے لگے جب تک تم لوگ اور دوسرے درویش ہمارے مزار پر مجالس سماع منت کرتے رہیں گے۔ یہ جنات بھی حاضر رہیں گے ان کے حقوق کا خیال رکھنا اپنے اپنے گھروں میں ہر مل سکتا ہے دہنا کیونکہ کافر جنات اس کی

خوشبو سے بھاگ جاتے ہیں۔ انہیں حکم دینا وہ نماز عصر تک صفائی کا کام کرتے رہیں گے تمام نجاست کو اٹھاتے رہا کریں گے۔ ہماری وفات کے وقت اگر تم لوگوں کو کہیں سے وحشت ناک آواز نائی دے اور آواز دینے والا دکھائی نہ دے تو سمجھ لینا کہ یہ جنات میں سے کوئی ہے۔ یاد رکھو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تم لوگوں کے لئے چار چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ رُنت درو۔ شت رشو۔ جتجو۔ گشتو۔ جب تک ان چار چیزوں کو درست رکھو گے۔ ہماری ہیروں کا پانی جاری رہے گا۔ اور تمہارے۔ ین و ایمان کی کھیتیاں سرسبز و شاداب رہیں گی۔ تمہیں لوگ دیکھنے آیا کریں گے۔ کوشش کرو۔ کہ ان چیزوں سے ایک بھی ضائع نہ ہو۔ اب ہمارا کام مکمل ہو گیا ہے ہماری زندگی کے ایک ہزار ماہ پورے ہو گئے۔ ہزار ماہ سے زیادہ زندگی نہیں ہوگی۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ط

حضرت شیخ نے زندگی کی آخری مجلس میں فرمایا۔ کاغذ تلم ددات لاؤ۔ آپ نے ابوالحسن اعرج ایبوردی کو بلا کر کہا۔ لکھو۔ اور یہ عبارت لکھوائی۔

ابوطاھر سعید بن فضل اللہ طہرہ اللہ واسعدہ بفضله و عنته و عونہ  
و نصرته و لا قوۃ الا باللہ۔ ابوالوفا المظفرہ اللہ و ابدة و وسددة و خیرہ و  
مہدہ و لا قوۃ الا باللہ۔ ابوالعلاء ناصر بن فضل اللہ نصرہ اللہ و ظفرہ و ایدہ  
و خیرہ و نصرہ و لا قوۃ الا باللہ۔ ابوعلی المطہر بن فضل اللہ اعلاہ اللہ و طہرہ و حملہ  
و نصرہ و ادبہ و خیرہ و لا قوۃ الا باللہ۔ ابوالبقا المفضل بن فضل اللہ ابقاہ اللہ و منلہ  
علی کثیر من خلقہ تفضیلا و لا قوۃ الا باللہ۔ اولاد ابی طاہر ابوالفتح طاہر بن سعید فتح  
اللہ لد ربہ و منہ و بجمعیته و لا قوۃ الا باللہ۔ ابوسعید اسعد بن سعید اسعدہ  
اللہ و ایدہ و اکرمة و سدده و لا قوۃ الا باللہ۔ ابوالعزالموفق بن سعید وفقہ اللہ و نصرہ  
و ایدہ اللہ و خیرہ و ادبہ و سدده و لا قوۃ الا باللہ۔ ابوالفرج الفضل بن احمد العامری  
فرج اللہ عنہ و بہ و منہ و لا قوۃ الا باللہ۔ ابوالفتوح مسعود بن الفضل اسعدہ  
اللہ و فضلہ و فتحہ و محملہ و لا قوۃ الا باللہ۔

پھر فرمایا۔ یہ دس افراد ہیں۔ ان میں سے جب تک ایک شخص بھی زندہ ہے اثرات موجود رہیں گے۔ جب یہ تمام کے تمام آسودہ خاک ہوں گے۔ تو لوگوں پر وہ راز محبوب ہو جائیں گے آپ نے فرمایا۔ فَانِمَا خَنَّ بِنْدٍ وَلَهُ ط

حضرت ابوسعید قدس سرہ نے مندرجہ بالا گفتگو کی۔ تو چند لمحوں کے لئے مراقبہ میں چلے گئے سر اٹھایا۔ تو آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ تمام حاضرین بھی رونے لگے فرمایا۔ ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ کہ یہ حضرات کب تک مدہم ہیں گے۔ فرمایا ایک سو ساٹھ سال تک میرے زمانے کے لوگوں میں سے بعض رہیں گے۔ اس کے بعد ان مجالس کی خوشبو کے اثرات باقی نہیں رہیں گے۔ اگر کہیں کوئی شخص ایسا ہو گا بھی تو زیر خاک ہو گا اور ایسی دعائیں اور التجا میں ختم ہو جائیں گی۔“

ہم نے ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت کی رفات کو ایک سو سال گزرا تو ایسے حالات پیدا ہوئے۔ کہ ہر شخص حیران و پریشان ہو گیا۔ ملک بھر میں شورش و ہیجان برپا ہو گئی۔ جتنی کہ کوئی شخص حضرت ابوسعید نور اللہ مرقدہ کے مزار پاک پر مہینہ میں حاضری نہیں دے سکتا تھا۔ مزار سے تین میل دور پیڑ کے اس طرف ایک گاؤں تھا جسے سرکلہ کہتے تھے آتے اور فاتحہ کہتے تھے۔ چونکہ ایک دن یہ بات آپ کی مجلس میں بیان کی گئی تھی۔ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی شخص مہینہ میں نہیں آسکے گا۔ اور سرکلہ پر آکر خفیہ طور پر زیارت کر کے چلا جانے کا اس سو سال کے درمیان جس کا ذکر حضرت شیخ نے فرمایا تھا۔ ہم لوگ مزار پر رہے ایک دن ایسا نہ گذرا تھا۔ کہ نماز باجماعت ادا نہ کی گئی ہو۔ صبح و شام عام لوگوں کو کھانا دیا جاتا تھا۔ ہر صبح مزار پاک پر ختم قرآن کیا جاتا تھا۔ رات کے وقت سونے تک مزار پر شمعیں روشن رہیں۔ سحری سے پھر روشنی جوتی تھی۔ مقربانِ درگاہ و خادمانِ خانقاہ صبح و شام مزار پر حاضری دیتے تھے۔ اور مزار کے ارد گرد آپ کی اولاد اور دوسرے سو فیہا کا مجمع رہا کرتا تھا۔ کوئی فتنہ و فساد نام تک نہ تھا ہر روز نئی بات اور نعمتیں آتی تھیں۔ اور اطرافِ عالم اسلام سے بزرگانِ دین زیارت کے لئے

حاضر ہوا کرتے تھے مجالسِ نمارع منعقد ہوتیں۔ خرقہ ہائے نضر تقسیم ہوتے جس شخص کو راہ سلوک میں کوئی مشکل پیش آتی۔ آپ کے صاحبزادگان سے صل ہوتی آپ کی اولاد اور متعلقین کو جس قدر عزت و منزلت حاصل تھی۔ اُس کی مثال نظر نہیں آتی۔ ابا ہوا۔ کہ مہینہ میں جس کے پاس ایک درہم تھا۔ وہ مال مال ہو گیا۔ جو مال مال تھے۔ وہ آسودہ جاں ہو گئے۔ جن کے پاس خردارے تھے وہ انباروں کے مالک بن گئے اور آپ کی اولاد کی خواجگی عالم اسلام سے خراج عقیدت حاصل کرنے لگی تھی۔

سوسال گذرے تو یہ آثار مٹنے لگے۔ آپ کے فرزند اور مریدوں میں سے محدود سے چند حضرات رہ گئے۔ تمام کے تمام بھر گئے یا شہید کر دیئے گئے غزوں نے ایک ایک کو تہ تیغ کر دیا۔ بعض عقیدت مند اطراف جہاں میں نکل گئے اور دیار غیر میں غربت کے عالم میں رحلت کرتے گئے آج کتاب لکھنے دنت چوتیس سال گزری چکے ہیں ابھی تک مزار پر کوئی آثار نہیں بائے جاتے کہ اس کی رونق پھر لوٹ آئے۔ ہم دو چیزوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ ایک تو حضرت شیخ قدس سرہ نے فرمایا تھا کہ ایک سوسال بعد یہ واقعات ہوں گے اور ایک شخص اٹھے گا۔ جو حالات کو درست کرے گا۔ دوسرے میرے والد مکرم نور الدین منور رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی کہ خواجہ ابو الفتح نے حضرت شیخ قدس سرہ کی زبانی سنا تھا۔ کہ یہ لوگ ایک سوسال ہمارے خادم رہیں گے۔ ایک سوسال تک ہماری اولاد کے خادم رہیں گے اور ایک ہزار سال تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ خواجہ عبدالکریم نے جو حضرت کے خادم خاص تھے۔ فرمایا۔ کہ میں نے اپنے کانوں حضرت شیخ کو کہتے سنا تھا کہ قیامت تک ہمارے مزار کی رونق رہے گی۔ ہم لوگ ان امیدوں پر جی رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی عمر کے آخرین حصہ میں مزار پاک کی رونق کو بحال ہوتے دیکھ سکیں۔ اور ہم آسودگی پاسکیں۔

حضرت شیخ نے خواجہ عبدالکریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ بچہ چاہتا ہے کہ راہ سلوک کو فوراً طے کرے۔ بیٹا! جہاں تم پیچھے ہو۔ ثابت قدم رہو۔ اس سے آگے قدم بڑھانے

کی خواہش نہ کرو۔ تمہارا مقام یہاں تک ہی ہے۔ پھر آپ نے اپنے بڑے لڑکے کی طرف دیکھا فرمایا  
طاہر آگے آؤ۔ وہ آگے آئے۔ تو حضرت شیخ نے اس کا دامن پکڑ کر فرمایا۔ میں نے تمہیں اور تمہاری  
اولاد کو درویشوں کی خدمت کے لئے وقف کر دیا ہے۔ پھر یہ شعر فرمایا۔

عاشقی خواہی کہ تا پایاں بری . بس کہ بہ پسندیدہ باید ناپسند

زشت باید دید و انگارید خوب . زہر باید خورد و انگارید قند

پھر آپ نے فرمایا کیا تم نے خدمت درویشاں قبول کر لی ہے عرض کی ہاں حضرت مجھے  
منظور ہے فرمایا جو لوگ آج یہاں موجود ہیں سن لیں اور دوسروں تک یہ بات پہنچا دیں۔ کہ خواجہ ابوطاہر  
دو قطبوں میں سے قطبِ وقت ہے۔ اسے بزرگوں کی آنکھ سے دیکھیں۔ اس زمانہ میں دو خواجہ ہوئے  
ہیں۔ خواجہ علی حسن جو اس وقت کرمان میں تھے اور خواجہ علی جہاز جو مرو میں تھے۔ تیسرے قطب  
حضرت خواجہ ابوطاہر ہیں۔ دنیائے تصوف میں یہ تینوں صوفیاء کے قطب مانے جاتے ہیں۔



## فصل دوم

# احوالِ حالتِ نزع

ہمارے شیخ ابوسعید ابی الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے بروز جمعہ، ۲، ماہِ رجب ۱۳۴۰ھ اپنی زندگی کی آخرین مجلس اس بیت پر ختم کی:-

دردا کہ ہی روی برہ باید کرد . دین مفرش عاشقی دوتا باید کرد  
دے درد عشق! اب راہِ محبوب کا رخ کرنا چاہیے۔ اور عاشقی کی بساط تہہ کر دینی چاہیے۔

اس شعر کے بعد آپ نے اپنے خواجہ علیک نیشاپوری سے فرمایا۔ اٹھو علیک اٹھے۔ تو فرمایا تم نیشاپور روانہ ہو جاؤ۔ تین دن کے اندر اندر واپس آ جانا۔ صرف وہاں نصف دن قیام کرنا اور مہجرات نماز ظہر تک یہاں پہنچ جانا۔ وہاں ایک روئی گرہ کو سلام کہنا اور کہنا کہ روئی کی وہ کتی جو تم نے آخرت کے لئے رکھی ہے۔ مجھے دے دو۔ علیک اسی وقت اٹھے۔ اور روانہ ہو گئے اور مقصود حاصل کیا۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ مجلس کے تمام صوفیاء کو بڑی تشویش ہوئی۔ کہ حضرت آج کیسی باتیں کر رہے ہیں۔

حضرت نے اسی مجلس میں خوابہ عبدالمکریم کو بلایا اور فرمایا کہ زندگی میں تم مجھے وضو کراتے رہے ہو۔ بعد از وفات بھی میرے غسل کا اہتمام تم ہی کر دو گے۔ کسی قسم کی کوتاہی یا غلطی نہ ہونے پائے۔ حسن مؤدب کو ساٹھ رکھنا۔ خیال کرنا کسی قسم کا خوف اور دہشت نہ آنے پائے اور سنت نبوی کے مطابق سارے کام کرنا۔ اگر کوئی سنت رہ جائے تو اس کا اعادہ کرنا۔

یہ تمام وصیتیں کرنے کے بعد آپ منبر سے اترے۔ حسن مؤدب کو فرمایا۔ گھوڑے پر زین رکھو گھوڑا تیار ہوا۔ تو آپ سوار ہوئے۔ میمنہ کے گردا گرد ایک چکر لگایا۔ جہاں جہاں خلوت میں عبادت خداوندی کی تھی۔ ایک ایک لمحہ رکے۔ اوداع کہنے کے حسن مؤدب بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت یزید کے ہمراہ تھا۔ سوچا جاتا تھا کہ حضرت یزید کی وفات کے بعد میں کس طرح خدمات سرانجام دوں گا میرا دل غم و الم سے بھرا پڑا تھا۔ اور مجھے اس قرض کا بڑا فکر تھا جو حضرت نے درویشوں کی دعوت کے لئے اٹھا رکھا تھا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ حضرت یزید نے گھوڑے کو روکا۔ اور میری طرف منہ کر کے فرمانے لگے۔

ایا برجاں، ماہر چو بر شطرنج ابوانہی

چو مارا شاہ مات آید ترا سپرے شود بازی

میں یہ شعر سنتے ہی دم بخود ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا۔ حسن۔ فکر نہ کرو۔ بوسعد دادا آنے ہی والا ہے۔ میری وفات کے بعد تمہارا سارا قرضہ چکا دے گا۔ حقیقت میں یہ دونوں باتیں دیے ہی ہوئیں۔ جیسے حضرت یزید نے کہی تھیں۔

جب ہمارے حضرت یزید قدس سرہ کو موت نے آیا۔ تو خواجہ حسن مؤدب، درویشوں کی خدمت کرنے کے قابل نہ رہے تھے۔ خواجہ ابوظہر اور اوسان کے بیٹے ہی ہماؤں اور درویشوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت یزید کا حکم بھی یہی تھا۔ حضرت یزید کی وفات کے تیسرے روز بوسعد دادا غزنین سے آیا۔ تمام قرضہ بقیاق کر دیا گیا۔

حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سیر کرنے کے بعد واپس آئے گھر میں داخل

ہوئے۔ آج آپ بیمار اور خستہ بدن دکھائی دیتے تھے۔ آپ کے مرید اور بیٹے عام طور پر آپ کے پاس ہی ہوتے تھے۔ اور آپ سے سوال کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پوچھا آپ کے جنازے کے آگے کون کون سی آیات تلاوت کی جائیں۔ آپ نے فرمایا۔ آیات قرآنی کی تلاوت تو بہت بڑا کام ہے لیکن یہ اشعار ضرور پڑھے جائیں۔

خوبتر اندر جہاں ازین چہ بود کار

دوست بر دوست رفت و یار بر یار

آن ہمہ اندوہ بود و این ہمہ شادی

آن ہمہ گرفتار بود و این ہمہ کردار

دنیا میں اس سے اچھا کام کیا ہے کہ دوست اپنے دوست سے ملاقات کرے۔ ایک مرحلہ تو صرف اندوہ غم کا ہی ہے اور ایک مقام خوشی کا ہے۔ ایک تو ساری گرفتار ہی گرفتار ہے۔ اور دوسرا کردار۔

جس دن حضرت شیخ ابوسعید کا جنازہ اٹھایا گیا۔ تو قاریاں خوش گلو آگے آگے پڑھتے جا رہے تھے حضرت شیخ سے لوگوں نے دریافت کیا تھا کہ آپ کی قبر پر شہد اللہ۔ آیت الکرسی لکھیں یا تبارک اللہ لکھا جائے۔ آپ نے فرمایا۔ یہ آیات تو بہت بلند مقام کی حامل ہیں۔ میری قبر پر یہ شعر لکھا جائے۔

سائک بل اوصیک ان مت ناکبتی . علی روح قبری کان هذا متینا

نقل شجاع رفا سنن ابوی . میر علی قبری القریب سلما

مذرجہ بالا شعر کے علاوہ آپ کے مزار پر انوار پر یہ قلم لکھا گیا۔

یا عسرا تم بالذی انا عبده . ولہ الحج و ما حوت عرفات

لا اجتفی بدلاً سواک خلیتہ . نقش بقول واکرام ثقات

ووان فوئی تربتہ و دعوتی . لاجبت صوتک و النظام رفات

واذا ذکر تک ما خلوت تقطعت . کبدی علیک وزادت المحسرات

آپ کی وفات کے بعد یہ دونوں قطعاً حضرت شیخ قدس سرہ کے مزار پر تین خطوں میں لکھے گئے تھے۔

وفات سے دو دن پہلے حضرت شیخ کی زبان پر یہ جملے آئے۔ اس وقت حضرت کے تمام بیٹے اور مرید موجود تھے۔

نِعْمَتُهُ اِلٰهٌ مُّجْهَوْلَةٌ فَاَدَامَتْ مَحْسُوْلَةٌ فَاِذَا فَتَدَتْ عَرَفَتْ ط

یہ بات کرنے کے بعد آپ نے فرمایا غور سے سن لو! جب تک ایمان پر قائم ہو مخلوق خدا کا کام کرتے رہو۔ اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ آنے پائے۔

خواجہ عبدالکریم بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ نے جمعرات کو بوقت نماز ظہر آنکھیں کھولیں اور خواجہ ابوطاہر کو فرمایا۔ علیک آگیا ہے، نہیں اباحضرت حضرت شیخ نے پھر آنکھیں بند کر لیں میں اٹھ کر باہر نکلا۔ اس وقت علیک آ رہا تھا۔ میں لوٹ کر اندر آیا۔ اور خواجہ ابوطاہر کو بتایا کہ علیک آگیا ہے۔ اور وہ کپڑے آیا ہے۔ جسے لینے کے لئے گیا تھا۔ ابوطاہر نے حضرت کو اطلاع دی تو آپ نے سنتے ہی فرمایا۔ کیا کہہ رہے ہو! ابوطاہر نے کہا حضور علیک آگیا ہے۔ سنتے ہی فرمایا۔ الحمد للہ۔ اور جان شریں جان آفرین کے حوالہ کر دی۔ یہ تاریخ چار شعبان ۸۴۴ھ بروز جمعرات بوقت نماز عشاء تھی۔ گھر سے ایک شورا اٹھا۔ سارا قصبہ مہینہ آہ دیکا سے بھر گیا۔ چونکہ شیخ نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یہ ان جنوں کی آواز تھی۔ جو حضرت کی وفات کا سن کر گئے تھے۔ ان آوازوں

---

لے۔ جب میں تمہارا ذکر کرتا ہوں تو میرا دل دھڑکتا ہے۔ میرا جگر تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور محبت کی کشش زیادہ بڑھتی ہے۔

میں یہ الفاظ سنے گئے۔ دریا دریا یا افسوس آپ رخصت ہو گئے۔ سب کچھ ساتھ لے گئے۔ اب ہمارے لئے کچھ نہ رہا۔ یہ آوازیں آدھی رات تک مختلف اطراف سے سنائی دیتی رہیں۔ ہم صبح کے وقت غسل کی تیاریاں کرنے لگے۔ حضرت شیخ نے بتایا تھا۔ علیک نیشاپور سے جو کپڑا لایا ہے۔ اُسے دو حصے کر لینا۔ ایک ہمارے کندھے پر ڈال دینا۔ خواجہ عبدالحکیم کہتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت شیخ کو کفن پہنا لیا۔ تو حضرت خواجہ ابوطاہر اور دوسرے بیٹے موجود تھے۔ میں حضرت کے پاؤں کی جانب کھڑا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو آپ نے آنکھیں کھول دیں ہیں جیسے وہ مجھے دیکھ رہے ہوں۔ دائیں ہاتھ سے اپنی ران کی طرف اشارہ کیا۔ جسے تمام حاضرین نے دیکھا۔ میں نے دیکھا تو کفن کا ایک حصہ ران پر موجود نہ تھا۔ یہ بے پردگی کی طرف اشارہ تھا۔ میں آگے بڑھا اور کفن کو درست کیا۔ یہی بات تھی۔ جب حضرت نے مجھے کہا تھا۔ دیکھنا! شرائط سنت میں کوتاہی نہ آتے پلئے۔ مجھ سے کوتاہی ہوئی۔ آپ نے آگاہ کر دیا۔

صبح آفتاب نکلا۔ جنازہ اٹھا کر باہر لایا گیا۔ نماز جنازہ ادا کی گئی جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف روانہ ہوئے مگر صبح سے لے کر چاشت تک جنازہ قبرستان تک نہ پہنچ سکا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی۔ مگر جنازے کا فاصلہ طے ہونے کو نہ آتا تھا۔ خواجہ بخار نے خواجہ حمویہ کو کہا۔ کہ شیخ نے آپ کو کیا فرمایا تھا۔ کیا وہ وقت آ گیا ہے یا نہیں؟ حمویہ نے حضرت شیخ کی وصیت کے مطابق ایک لکڑی اٹھائے لوگوں کو راستے سے ہٹاتے جاتے تھے۔ اس طرح جنازہ قبر تک پہنچایا گیا۔ اور لا کر دفن کر دیا۔ ان کرامات کے علاوہ ایک کرامت قابل ذکر ہے کہ جس تختے پر حضرت شیخ کو غسل دیا گیا تھا اسے اسی مقام پر ایک بلند جگہ رکھا گیا۔ اور اس جگہ سے کوئی بھی نہ ہلاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک عرصہ تک وہ تختہ ایک جگہ نصب رہا۔ دیوار یا پھت بناتے وقت اسے کوئی نہ ہلا سکا۔

شیخ کی وفات کے بعد یہ بات مشاہدے میں آئی۔ کہ جس پایہ تخت یا کرسی پر حضرت شیخ زندگی میں وضو فرمایا کرتے تھے۔ بطور تبرک محفوظ رکھ لئے گئے۔ لوگ آتے۔ ان دونوں کی زیارت کرتے۔ غزوں کی شورش اور حملے کے وقت مہینہ تباہ و برباد ہو گیا۔ جہاں جہاں لکڑی کی کوئی چیز تھی۔ جلا

کر رکھ کر ذی گئی۔ مگر یہ گڑھی اور پایہ تخت ان دنوں گم ہو گئے۔ لوگ قیدی بنائے گئے۔ مگر ان تبرکات کا کسی کو علم نہ ہوا۔ حضرت شیخ کی اولاد میں سے اکثر حضرات قید و بند میں رہے۔ مگر جب یہ لوگ رہا ہو کر واپس آئے تو یہ تینوں چیزیں اپنی اپنی جگہ صحیح و سلامت تھیں۔

اس حادثے کے دوران جیسے ہی ایسی چیزیں دیکھنے میں آئیں جو حضرت شیخ کی کرامات میں سے ہیں۔ کہ جب سلطان سعید شجر بن ملک شاہ برد اللہ مضعفہ کو غزوں سے رہائی ملی اور مرد کے دارالسلطنت میں پہنچے۔ یہ دعا گور نور الدین (مرخص سے شاخ کے وفد کے ساتھ مرد گیا۔ تاکہ بادشاہ کو ہدیہ تبریک پیش کیا جائے مصلحتاً اس وفد میں حضرت شیخ ابو سعید کے فرزند ان۔ رشتہ داراں اور ہینہ کے لوگوں کو ساتھ نہ لیا تھا۔ اکثر لوگ ادھر ادھر مختلف مقامات پر چلے گئے تھے۔ ان میں اکثر لوگ عراق میں چلے گئے تھے۔ ہم مرد پہنچے تو ہینہ کا گورز بھی چند روز قبل وہاں پہنچا تھا۔ وہ ابھی تک سلطان سے ملاقات نہیں کر سکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مرخص کے اس علاقہ کی یہود کے لئے بات کرے جو غزوں کے حملے سے تباہ و دیران ہو چکا تھا۔ کیونکہ اس سے قبل حضرت شیخ کی اولاد کے بغیر کوئی بھی اس کام کی طرف توجہ نہیں دیا کرتا تھا۔ اگر کسی نے کبھی کوشش کی بھی تو اسے نگاہ التفات سے نہیں دیکھا گیا ہینہ کا کو تو ال۔ عامل۔ رئیس یا دوسرے حکام جو کام بھی کرتے حضرت شیخ کی اولاد کے مشورہ سے متعین کرتے تھے۔ اگر کسی پر کوئی حاکم ظلم کرتا۔ تو حضرت شیخ کے بیٹے بادشاہ کو لکھا کرتے کہ فلاں حاکم کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ یہ خط کسی درویش کے ہاتھ لشکر گاہ میں پہنچا دیا جاتا۔ پھر بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوتا۔ اور اس شخص کو معزول کیا جاتا۔

الغرض ہینہ کے گورز کو اس فقیر صاحب کتاب نور الدین کے پہنچنے کی خبر ملی۔ طے کے لئے آیا اور بڑے تپاکنے سے ملا کہنے لگا۔ چند دنوں سے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ میری دلی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ مل کر بادشاہ کی خدمت میں سفارشات پیش کی جائیں۔ دوسرے دن ہم دونوں بادشاہ سے ملے۔ بادشاہ نے مجھے دیکھا۔ تو بڑی عزت افزائی کی۔ میں نے بادشاہ کے لئے دعا کی۔ تو بادشاہ نے کہا۔ ہینہ بڑی مبارک جگہ ہے۔ حضرت شیخ کے مرقد سے نورانی اور بابرکت مقام اور کونسا ہو سکتا ہے؟

نے سنبھلے۔ کہ ایک غزنو نے حضرت شیخ کی قبر کو گرانے کے لئے ہاتھ بڑھایا یہی تھا کہ اس کا بازو ٹھٹھل ہو گیا۔ اس غزنو کا خیال تھا کہ مزار میں دولت اور سونا بھرا ہوا ہے اس شخص کے رشتہ دار اسے اٹھا کر میرے شکر گاہ میں لے آئے۔ میں نے اسے خود دیکھا تھا۔

سلطان سنجر نے یہ واقعہ سنانے کے بعد حکم دیا کہ ایک ہزار خروار غلہ دیا جائے تاکہ خادراں کی زمینوں میں تخم ریزی کی جاسکے۔ ایک سو خروار شہد کے لئے دیا جائے۔ مہینہ کے گورز نے التجا کی کہ حضور ہیں کاشتکاری کے لئے پیوں کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے بتایا۔ کہ خراسان تباہ ہو کر رہ گیا ہے خزانے میں روپیہ نہیں ہے۔ ابھی اپنے وسائل سے گزارا کرو۔ حضور کے مزار کے لئے ایک سو دینار خصوصی طور پر دیئے مہینہ کے گورز نے واپس آ کر ادھر ادھر آدمی بھیجے تاکہ حضرت شیخ کی اولاد میں جو شخص جہاں ملے اسے واپس لایا جائے۔ اس وقت صرف پچاس ایسے افراد ملے جو مہینہ پیچھے خانقاہ پر نگر جاری کیا گیا۔ پانچ وقتی نماز شروع ہوئی قبر پر شمع جلنے لگی ختم قرآن کا آغاز ہوا۔ قادیوں کا بند کیا گیا۔ اور اس طرح سابقہ رونقین لوٹ آئیں۔ روشنیاں پھیلنے لگیں راتم بھی مزار کی سابقہ شان و شوکت کو بحال کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اطراف و اکناف سے لوگ جمع ہونے شروع کئے۔ آرام و آسائش ملنے لگی۔ اسی دوران سلطان سنجر کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کی جگہ سلطان محمود تخت نشین ہوا۔ مرو میں غزوں کے ساتھ دوبارہ جگ شروع ہو گئی۔ بادشاہ کو شکست ہوئی۔ شاہی لشکر بکھرا گیا اور غزوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس بار پھر ہمارے حالات خراب ہو گئے۔ علاقہ ویران ہو کر رہ گیا۔

اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے امن و عدل برقرار کرے۔ خراسان کو آباد فرمائے اور تمام جہاں پر امن و سلامتی کا دور دورہ ہو۔ بختہ و فضیہ۔

## فصل سوم

# کرامات بعد از وصال شیخ قدس سرہ

یہاں ہم ان کرامات کا ذکر کریں گے جو حضرت کے زبان سے  
بعض اقوال کے سورتے میں برآمد ہوئیں اور دناتے کے بعد  
انے حقایقے کا اظہار کیا۔

ہمارے شیخ ابو سعید قدس سرہ کے گھر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو  
حکایت :- آپ کے گھر میں بادرچی خانہ میں کام کیا کرتی تھی۔ اسے دادا مطلبی کہا کرتے  
تھے۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بوسعد دادا تھا۔ اس کی ماں اسے کسی کام کا کہتی تو کہتی دوست  
دادا باہر ماں کام کر آؤ۔ ایک دن حضرت شیخ اپنے حجرہ میں آرام فرما رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا  
دوسرے صوفی مسجد میں آرام کر رہے تھے۔ سخت گرمی تھی۔ ماں نے بیٹے کو ایک گھڑا دیا۔ اور کہا۔  
اے دوست دادا باہر دوڑ کر پانی بھر لاؤ۔ ابھی صوفیوں کو اور حضرت شیخ کو پانی کی ضرورت پڑے  
گی۔ بوسعد نے گھڑا اٹھایا۔ اور پانی لینے گیا۔ ننگے پاؤں تپتی ہوئی زمین۔ بوسعد کے پاؤں جلتے



آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں گرتیں۔ اور کمر پر پانی کا گھڑا اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ حضرت کے حجرے کے دروازے سے سامنے سے گذرا تو حضرت شیخ نے اندر سے آواز دی تو سعد و آداتہیں ہم نے بغداد تہن دیا ہے تم اپنے بیٹوں کو دو یا خود رکھو۔ یہ انعام پانی کے ایک گھڑے کے بنے دیا گیا ہے۔ اس دن کے بعد لوگ سعد کو دوست دادا کہنے لگے۔

دقت گذرتا گیا۔ یہ بچہ حضرت کے دربار کی خدمت میں ہی نوجوان ہو گیا اس کی خدمت گذاری نے اسے یہاں تک پہنچایا کہ وہ حضرت کے دس مخصوص خدمت گزاروں میں شمار ہونے لگا۔ اجاب ان دس خدمت گزاروں کو اجاب عشرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ نسبت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ مبشرہ سے تھی۔ واللہ تعالیٰ ان عشرہ مبشرہ کی برکات سے ہم سب کو اعزاز و اکرام سے نوازے۔

حضرت شیخ کی وفات کے بعد آپ کی خانقاہ کے ہر خدمت گزار کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان سے نوازا۔ آپ کے خادم اور فرزند ایاں ایک ایک کر کے بلند درجات کو پہنچے امام اور پیشوا بنے۔ حضرت شیخ نے اپنی عمر کے آخیر حصہ میں جو سعد و دست دادا کو اپنے پاس بلایا اور کہا ہم اس دقت تک اس دنیا سے جانا نہیں چاہتے جب تک حسن ثواب کا وہ قرضہ جو اس نے درویشوں پر خرچ کر دینے میں بیباق نہ کر دیا جائے یہ قرضہ تین ہزار دینار ہیں۔ میں آج تمہیں عزیزین بھیجا چاہتا ہوں۔ تم سلطان عزیزین کی خدمت میں جاؤ۔ اسے میرا سلام کہنا۔ اور پیغام دینا کہ میں نے تین ہزار دینار قرضہ ادا کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے دل کو فارغ کر دو۔ ہم انکی وجہ سے اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتے۔ جو سعد کہتے تھے کہ جب یہ بات حضرت شیخ نے مجھے کہی تو میرے دل میں آیا کہ میں یہ باتیں بادشاہ کو کیسے کہہ سکوں گا۔ اور بادشاہ کو میرا کیا پتہ کہ میں کون ہوں؟ بھلا بادشاہ میرے جیسے خدمت گزار کی باتیں کیوں نہ گائے۔ میرے دنی خدشات کو حضرت نے بھانپ لیا۔ فرمایا۔ دست دادا! تم فکر نہ کرو۔ میں نے ساری باتیں بادشاہ کو کہہ دی ہیں۔ اور اس نے قبول کر لی ہیں۔

بوسعد نے اسی وقت رختِ سفر تیار کیا۔ اور حضرت سے اجازت طلب کرنے کو اندر آیا۔ آپ نے فرمایا۔ بوسعد ہمیں الوداع کہہ لو۔ واپسی پر تم ہمیں نہ پاؤ گے مہینہ میں واپس آ کر صرف تین دن قیام کرنا۔ پھر واپس چلے جانا۔ اور بغداد چلے جانا۔ میں نے بغداد تمہیں اور تمہارے بیٹوں کو بطور جاگیر دے دیا ہے۔ یاد رکھو! کسی دوسرے شہر میں نہ ٹھہرنا۔ وہاں تمہیں بہت آسودگی ملے گی۔ رزق میں کشائش ہوگی۔ اور صوفیہ بھی آرام پائیں گے بوسعد کہتے ہیں۔ یہ بات سن کر میں بے حد رویا حضرت کی قدم بوسی کی۔ وداع کہا اور غزینہ کو روانہ ہو گیا۔ میں شہر کے دروازے پر پہنچا تو ڈر رہا تھا کہ مجھے اس شہر میں کون پہچانے گا مجھے ڈر تھا کہ میں بادشاہ تک کیسے پہنچوں گا وہ یہ باتیں کس طرح بیان کروں گا میں یہ سوچتے ہوئے شہر کی اس مسجد میں گیا جو بادشاہ کے گھر کے پاس ہے۔ وہاں میں نے قیام کیا میرا خیاں تھا کہ بادشاہ کا کوئی خاص ملازم نماز پڑھنے آئے گا۔ تو مجھے وہاں تک رسائی کا کوئی راستہ تلاش کرنے میں مدد ملے گی۔ چنانچہ میں اسی نکل میں تھا کہ مسجد کے باہر انہی خیالات میں گم بازار سے گذر رہا تھا کہ ایک محلہ سیلہ میرے راستے آئی میں اس محلہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی تو اس آگے گیا تو مجھے ایک دروازے کے ساتھ چہ پ ہی سر وند کمرے دکھائی دیئے میں نے محسوس کیا کہ یہ کسی صاحبِ منصب کے گھر کے دیکھتے ہی ان لوگوں نے میرے لئے راستہ بنایا۔ ایک خوبصورت سا خادم آگے بڑھا اور میرے پاس آ کر کہنے لگا حضور! یہاں بیٹھے! میں ابھی آتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد باہر آ کر کہنے لگا شیخ بوسعد دوست نازا شیخ پوسیدہ! ابو الجرحی عینی کے مرید آپ ہی ہیں؟ میں نے کہا۔ ہاں! کہنے لگا۔ اٹھو! اندر آؤ۔ میں اٹھا۔ اور روتے روتے بادشاہ کے مکان میں داخل ہوا۔ مجھے حیرانی تھی کہ ان لوگوں نے مجھے کیسے پہچان لیا۔ اور میرے نام سے کس طرح واقف ہو گئے۔ بادشاہ کو میرے آنے کی اطلاع کس نے دی ہے۔ وہ خادم مجھے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ اپنے کمرے میں بیٹھا میرا منتظر تھا میں نے سلام کیا۔ مجھے بہت محبت سے جواب دیا کہ تم بوسعد دوست دادا ہو! میں نے کہا۔ ہاں میں ہی ہوں۔ بادشاہ نے فرمایا۔ چالیس دن پہلے مجھے حضرت شیخ ابو سعید خواب میں لے میں نے

اس خادم کو دروازے پر بٹھا دیا کہ وہ تمہارا منتظر رہے۔ حضرت شیخ نے قرض کا سارا معاملہ مجھے بتا دیا ہے۔ میں نے منظور کر لیا ہے۔ اب اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ وہ تو دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ میں نے یہ باتیں نہیں تو سکتے میں آگیا۔ رونے لگا۔ بادشاہ بھی میرے ساتھ رونے لگا۔

بادشاہ نے اپنے خادم کو بتایا۔ انہیں لے جاؤ۔ اور لباس سفر بدلو۔ بادشاہ کے گھر میں ہی ایک آراستہ پیراستہ کمرہ دیا۔ تو کر چاکر آئے۔ سامان سفر ایک طرف رکھا گیا۔ مجھے حمام میں لے گئے غسل کیا۔ نیا لباس ملا۔ صوفیانہ پوشاک پہنائی گئی۔ میں تین دن تک شاہی مہمان کی حیثیت سے رہا چوتھے دن علی الصبح ایک خادم نے آکر کہا کہ بادشاہ طلب فرما رہے ہیں۔ میں اٹھا۔ بادشاہ کے ہاں حاضر ہوا۔ مجھے تین ہزار دینار دے کر فرمایا۔ یہ حضرت شیخ ابو سعید کے قرضہ کی رقم ہے۔ ایک ہزار دینار مزید دے کہ کہا۔ یہ حضرت کے عرس کے اخراجات ہیں۔ ہماری طرف سے حضرت کے مزار پر عرس کرنا۔ ایک ہزار مزید دیا کہ اس سے اپنے سفر اخراجات پورا کرنا۔ اور بقایا رقم اپنے اہل دعیال کو دینا۔ کیونکہ ابھی تم لوگوں نے مزید سفر پر جانا ہے۔

اسی وقت ایک خادم کو بلایا۔ اسے حکم دیا کہ مجھے خراسان کو جانے والے قافلے میں لے جائے۔ ایک سواری خرید کر اس پر سوار ہو جاؤ۔ زاد راہ بہیا کرے۔ اور سالار قافلہ کو تاکید کرے کہ یہ ہمارا آدمی ہے۔ دوران سفر اس کا پوری طرح خیال رکھا جائے کوئی تکلیف نہ ہونے دے اور خراسان تک خدمت گزاری کرے۔

میں نے بادشاہ کو سلام کیا۔ اور رخصت لی۔ بادشاہ نے مجھے بڑے اعزاز کے ساتھ اوداع کہا۔ خادم نے بادشاہ کے حکم کے مطابق قافلہ میں شرکت کرانی اور میں نہایت آرام سے خراسان پہنچ گیا۔ راستے میں اگوچہ مجھے ہر قسم کا آرام میسر تھا۔ مگر میرا دن بہینہ کے حالات اور حضرت شیخ کے وصال کی طرف لگا رہا۔ میں بہینہ پہنچا۔ تو حضرت کے تمام بیٹوں۔ درویشوں اور دوسرے مہمانوں نے میرا استقبال کیا۔ حضرت شیخ کے ارشاد کے مطابق حسن مودب کو قرضہ کے بوجھ سے فارغ کیا یہ وصال کے بعد چوتھے دن تھا۔ میرے پہنچنے پر تمام حاضرین کے ہاں آہ و فغان برپا ہو گئی۔ سارا گھر دوبارہ

ماتم کدہ بن گیا۔ تمام اجاب کو لے کر میں حضرت شیخ کے مزار پر پہنچا۔ اور تمام حاضرین کو دو واقعات  
سنائے جو حضرت کے حکم کی تعمیل میں پیش آئے تھے۔ حضرت ابو طاہر کی خدمت میں ایک ہزار  
دینار رکھے تاکہ وہ حضرت کے عرس کے اخراجات میں لائیں۔ تین ہزار دینار ادائیگی قرض کا پیش  
کیا۔ تاکہ حسن مؤدب فارغ ہوں۔ میرا ذاتی سرمایہ جو ایک ہزار دینار تھا بھی حضرت ابو طاہر کی  
خدمت پیش کیا تاکہ آپ یہ روپیہ بھی میری طرف سے حضرت کے عرس پر خرچ فرمائیں حضرت خواجہ  
ابو طاہر نے میرا نذرانہ قبول فرماتے ہوئے عرس پر تمام خرچ کر دیئے۔ تین دن تک تمام تقریبات  
ختم ہوئیں تو میں نے حضرت شیخ قدس سرہ کے حکم کے مطابق بغداد روانہ ہونے کا اعلان کیا حضرت  
کے مزار۔ آپ کی اولاد اور مریدوں کو الوداعی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے خالی ہاتھ روانہ ہوا۔  
میں بغداد پہنچا۔ ان دنوں ساری آبادی دریائے دجلہ کے اس طرف تھی۔ میں ایک مسجد میں  
ٹھہر گیا۔ کوئی واقف نہ تھا۔ چند روز گزرے ایک شخص سے شناسائی ہو گئی تھی۔ اس سے مشورہ  
کیا کہ میں بغداد میں ایک ایسی آرام گاہ بنانا چاہتا ہوں۔ جہاں صوفیہ آرام کر سکیں۔ اس نے  
کہا۔ بغداد کی ساری مسجدیں خالی ہیں جس مسجد میں چادر ڈیرہ جالو۔ اور صوفیہ کی خدمت کرتے  
رہو۔ مگر خانقاہ بنانے کے لئے سارے شہر میں کوئی جگہ حاصل کرنا آسان نہیں۔ البتہ دریائے  
دجلہ کی دوسری طرف جگہ آسانی سے مل جائے گی۔ اور حکومت بھی خانقاہ بنانے میں تمہاری مدد کریگی  
بغداد شہر میں نہ تو تمہیں جگہ ملے گی نہ پانی۔ لوگ دنیاوی لالچ میں کسی کو نظر میں نہیں لاتے۔

چنانچہ میں نے امیر المومنین بغداد کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی کہ مجھے دجلہ کے دوسری  
جانب صوفیہ کے لئے ایک خانقاہ تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے۔ میں حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر  
ہیتی کا مرید ہوں۔ میں درویشوں کی خدمت کرنے کا ارادہ لے کر آیا ہوں۔ خلیفۃ المسلمین نے میری  
درخواست پر لکھا کہ مجھے جس جگہ چاہیے۔ دے دی جائے۔ میں دریا کے اس پار آیا۔ ایک وسیع  
قطعہ زمین پر نشان لگائے۔ اور فیصلہ کیا کہ تقریباً دو ہزار گز جگہ پر خانقاہ کی عمارت بناؤں گا جہاں  
صوفیہ قیام کیا کریں گے۔ زمین پر قبضہ کرنے کے بعد میں نے ایک تھیلہ اٹھایا۔ اور دن رات بغداد

کے کھنڈرات میں گھومتا۔ اینٹیں اور ان کے ٹکڑے اکٹھے کرتا۔ اور خانقاہ کی تعمیر کے لئے لاتا رہتا اور اس جگہ پر ایک ڈھیر لگا دیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ خراسان سے ایک قافلہ آرہا ہے۔ میں اس قافلے کے استقبال کے لئے ہنروان تک پہنچا۔ قافلہ والوں نے مجھے دیکھتے ہی بڑی خوشی کا اظہار کیا اور بڑی مراعات کرنے لگے۔ ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جنہوں نے مجھے حضرت شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دیکھا تھا اور جانتے تھے کہ حضرت مجھے کتنا چاہتے تھے۔ یہ لوگ بھی حضرت کے مرید اور عقیدت مند تھے۔ اور مجھے بھی عزیز جانتے تھے۔

میں نے درخواست کی کہ میں بغداد کے نزدیک صوفیہ کے لئے ایک سرمائے بنا نا چاہتا ہوں اگر آپ کا قافلہ چند دنوں کے لئے اسی جگہ پر قیام کرے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ کیونکہ آپ اولین لوگ ہوں گے جو میرے اس مقصد کے لئے قیام کریں گے۔ اس قافلہ میں صوفیاء کی ایک خاصی تعداد تھی۔ کچھ تجارت پیشہ حضرات تھے۔ تمام وہاں قیام کرنے پر رضامند ہو گئے۔ اور میری مقررہ جگہ پر نیچے نصب ہو گئے۔ میں ابٹھا۔ زنبیل لی۔ اور بغداد سے کھانا اور پھل مانگ کر لانے لگا۔ اور ہر روز صوفیہ کے لئے ایک دسترخوان سجالتا۔ پانچوں وقت اذان دیتا۔ نماز باجماعت ہونے لگی جس کی امامت میں خود کراتا۔ علی الصبح قرآن پاک کا درس دیتا۔ اس قافلے کے قیام کے دوران رات کو بڑی روشنیاں ہوتیں۔ دن کو بڑی رونقیں رہتیں۔ جب یہ قافلہ چلا گیا تو اہل قافلہ نے مجھے بڑے احترام سے اوداع کہا۔ میرے متعلق ایک ہمدانہ تاثر نے کو گئے۔ میری خدمات کو بڑا پسند کیا گیا۔ ہر ایک شخص نے مجھے کچھ نہ کچھ دیا۔ میرے پاس خاصا۔ وہیہ جمع ہو گیا۔ قافلہ چلا گیا تو میں نے ان اینٹوں سے خانقاہ کی عمارت چھنا شروع کر دی۔ دن رات کام کرتا۔ ایک وسیع خانقاہ کی چار دیواری کھڑی ہو گئی ایک اونچا سا وسیع مٹیچ بنا لیا۔ جماعت خانہ تعمیر ہوا۔ باورچی خانہ تیار ہو گیا اور لوگوں کے لئے وضو کرنے کی نہایت اچھی جگہ تیار ہو گئی۔ میں نے مسجد کی بنیاد رکھی اور ایک بڑی مسجد کی عمارت بند ہونے لگی۔ ان ساری عمارت کی دیواریں دروازے نظر آنے لگے۔ اور ایک بہت بڑی بستی دکھائی دینے لگی۔ لوگ دیکھتے تو حیران ہوتے۔ کہ یہ کون سا شہر آباد ہو رہا ہے۔

اب حاجیوں کی آمد کا زمانہ آپہنچا۔ میں آگے بڑھا۔ اور حاجیوں کے ایک قافلے کو دریائے فرات تک استقبال کرنے چلا گیا۔ میں نے درخواست کی کہ آپ لوگ ایک نیکی کے سفر پر روانہ ہیں۔ براہ کرم چند روز کے لئے میری خانقاہ پر قیام کر لیں مجھے ثواب ہوگا۔ آپ کی خدمت کروں گا۔ اور آپ میری خدمات سے خوش ہوں گے۔ لوگ رضامند ہو گئے اور حاجیوں کا یہ کارواں میری خانقاہ پر فروکش ہو گیا۔ ان لوگوں نے اتنی عمارت کی بنیادیں کھڑی دیکھیں تو تعجب کرنے لگے اور بے پناہ خوش ہوئے کہ عموماً یہ عرصہ میں اتنی عمارتیں تیار ہونے لگی ہیں میرے متعلق ان کی رائے بڑی اچھی ہو گئی۔ میں بھی حسبِ سابق گداگری کرتا۔ اور جو کچھ ملتا درویشوں کے سامنے دسترخوان پر لار کھتا۔ پانچوں وقت اذان دیتا۔ اور خود جماعت کراتا۔ چند دنوں بعد حاجیوں کا یہ قافلہ روانہ ہونے لگا تو سب نے حسب استطاعت میری خدمت کی میرے پاس ایک بار پھر خاصی رقم جمع ہو گئی۔ قافلہ چلا گیا۔ میں خانقاہ کی تعمیر میں مشغول ہو گیا۔ اس دفعہ خانقاہ کی خوبصورت عمارت تیار ہو گئی۔ سنگ مرمر استعمال کیا گیا۔ حمام تیار ہوئے۔ جماعت خانہ مکمل ہو گیا۔ فرش لگائے گئے۔ باورچی خانے کے برتن جمع کئے۔ حتیٰ کہ اکثر ضروریات قیام و طعام تیار ہو گئیں۔ خانقاہ کے دروازے کے سامنے دکانیں اور بازار بن گئے اور ایک کارواں سرائے ترتیب دے دی گئی۔ میں چونکہ ہمہ تن خدمت خلق بن گیا تھا۔ عالم اسلام کے اطراف سے صوفیاء مشائخ آتے تو میرے پاس قیام فرماتے میری خدمت گزار کی شہرت ہر طرف پہنچی۔ کہ بوسعد نے بغداد کے پاس ایک ایسی بستی میری ہی ہے جہاں صوفیہ اور درویش قیام کرتے ہیں اور پھر اس قدر خدمت کرتا ہے۔ کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔

آہستہ آہستہ بغداد کے لوگ میرے مرید ہونا شروع ہو گئے حتیٰ کہ میری شہرت خلیفہ وقت کے مملکت تک جا پہنچی۔ میں ایک ات سویا ہوا تھا کہ کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں اٹھا دروازہ کھولا دیکھا کہ امیر المومنین چند خاص آدمیوں کو لے کر مجھے ملنے کو تشریف لائے ہیں۔ اور میری خانقاہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان حضرات میں وزیر عمارات۔ وزیر داخلہ۔ وزیر خزانہ اور دوسرے اعیان مملکت موجود تھے میں نے بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ خلیفہ خانقاہ میں تشریف لائے اور مختلف زیر تعمیر

عمارت دیکھنے گئے۔ درویشوں کے جماعت خانہ میں تشریف لائے۔ نہایت نیک اور عبادت گزار لوگوں کو دیکھا۔ پاس حضرات صوفیہ اور مشائخ اس وقت مصلوں پر بیٹھے عبادت خداوندی میں مشغول پائے۔ امیر المؤمنین نے ان حضرات قدس کی زیارت کی اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ میں بھی چند لمحے امیر المؤمنین کے پاس بیٹھا۔ اور اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو سعید ابو الحزیر کی کرامات اور دوسرے حالات کا ذکر کرنے لگا۔ خلیفہ اس وقت بڑے اچھے مزاج میں تھا۔ اس پر رقت طاری ہو گئی رونے لگا۔ اور ان حضرات سے بڑا متاثر ہوا۔ چند لمحوں کے بعد اپنے وزیر دربار کو مخاطب کر کے فرمایا۔ بوسعد جب بھی آئیں۔ بلا تردد فوراً انہیں اندر بھیج دیا کرو۔ اور ان کے لئے پہلے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ پھر مجھے فرمایا۔ بوسعد آپ خدمت خلق میں مصروف رہیں آج سے ہماری طرف سے خدمت خلق کے اختیارات دیئے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی ثواب دید کے مطابق لوگوں کے مسائل حل کرتے رہیں۔ میں ہر وقت تعاون کروں گا۔ جس کام کے لئے آپ کہیں گے۔ اسے قبول کیا جائے گا۔

امیر المؤمنین واپس گئے تو میں چند روز بعد دربار میں گیا۔ حاجب دوزیر دربار ہنرے فوراً اجازت ملاقات دی۔ اندر لے گیا۔ اور میں خلیفہ کے سامنے پہنچ گیا۔ میں نے دعا کی اور اس رات تشریف آوری کا شکر یہ ادا کیا۔ امیر المؤمنین نے میری بے پناہ عزت کی اور جو حکامات میری خانقاہ پر نافذ کئے تھے۔ دوبارہ جاری کئے۔ خدمت عامہ کا عہدہ مجھے دیا۔ میں واپس آیا۔ تو لوگ میری خانقاہ پر ٹوٹ پڑے۔ اپنے اپنے مسائل حل کرانے لگے۔ میرے لکھے جانے پر لوگوں کو سہولتیں ملنے لگیں ہیں جو کچھ لکھ کر بھیجتا۔ اس کی تعمیل ہونے لگی۔ بہت سے لوگ تو میرے قرب و جوار میں ہی آنے جانے لگے۔ میری خانقاہ کے قریب ہی زمین لے کر گھر بنانے لگے۔ حتیٰ کہ میری خانقاہ کے آس پاس ایک شہر آباد ہو گیا۔ میں بھی اپنے اور خدمت سے لوگوں کی خدمت میں دن رات مصروف ہو گیا۔ خلیفہ کے ہاں میری عزت اور بڑھ گئی۔ اور مخلوق خدا کے لئے و بہار تک رسائی میں آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ لوگوں کو فائدہ پہنچنے کا اثر یہ ہوا۔ کہ دوردور سے لوگ آ کر میری خانقاہ کے قرب و جوار مکانات بنانے لگے۔

یہ علاقہ ایک قصبہ میں تبدیل ہونے لگا۔ دوسری طرف خلیفہ کی نگاہ میں میرا مقام بڑھنے لگا۔ اس کا اعتقاد اور بڑھا۔ حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ خلیفہ نے اعلان کیا کہ اب دار الخلافہ ابوسعید داد کا قرب و جوار میں بنایا جائے۔ سارا شہر اس طرف امنڈ آیا۔ حتیٰ کہ پرانا شہر جو دوسرے کنارے کا تھا۔ بے رونق ہو گیا۔ اور لوگ وہاں سے اٹھ کر نئے شہر میں آباد ہو گئے۔ اب میں بغداد کا شیوخ تھا میرا مقام خلیفہ وقت سے کمتر نہ تھا۔ یہ سب صدقہ تھا۔ حضرت شیخ ابوسعید البخیری رحمۃ اللہ علیہ کی اس نگاہ کا جس نے مجھے ننگے پاؤں دھوپ میں آتے دیکھ کر فرمایا تھا۔ کہ ہم نے بغداد تمہارے حملے کر دیا ہے۔ ان دنوں (موتلف کے کتاب لکھنے کے زمانہ میں) ابوسعید داد کے بیٹے بغداد کے شیخ شیوخ ہیں۔ تمام امور سلطنت عملی طور پر انہیں کے ہاتھ میں ہیں۔ خلیفہ کی تو صرف مہر اور سک ہی چلتا ہے۔ ان دنوں بغداد کی سیاست کا یہ عالم ہے۔ کہ جو خلیفہ تخت نشین ہوتا ہے شیخ شیوخ اس کا ہاتھ پکڑ کر تخت پر بٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ بیعت ہوتا ہے۔ پھر عمائدین سلطنت پھر امرار وقت اور پھر عوام الناس اس طرح تمام معاملات اور امور سلطنت سعید داد کے بیٹوں کے ہاتھ ہوتا ہے۔

میں نے ابویانی کے اشراف میں سے ایک سے سنا کہ اس کے  
**حضرت شیخ کا گھوڑا :-** والد نے پیر ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا کہ حضرت شیخ کے پاس کیت رنگ کا ایک گھوڑا تھا۔ جو اس قدر سرکش تھا۔ کہ کسی کو سواری کی اجازت نہ دیتا۔ لیکن جب حضرت شیخ آتے تو اپنی پشت جھکا دیتا۔ حضرت رکاب پر پاؤں رکھتے۔ اور وہ ہوا ہوا جاتا۔ حضرت کی وفات ہوئی تو وہ گھوڑا بڑا افسردہ خاطر دکھائی دیا۔ اُس کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا۔ چارہ کھانا ترک کر دیا۔ پانی پینا چھوڑ دیا۔ سات دن اسی طرح گذر گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت کا گھوڑا اس قدر لاغر ہو گیا ہے۔ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ کیا کیا جائے۔ حضرت خواجہ ابوطاہر کو کہنے لگے۔ کیا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا۔ اسے ذبح کر دیا جائے۔ درویشوں کو بطور تبرک بانٹ دیا جائے۔ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔



میں نے پیر زین الطائفہ عمر شوکانی سے سنا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ ایک دن خواجہ ابوالفتح  
(جو حضرت شیخ کا بیٹا تھا) اپنے باپ کی خانقاہ میں بیٹھتے تھے۔ خواجہ امام ابوالفتح حضرت شیخ کے  
واقعات زندگی بیان فرماتے ہوئے کہا کہ آپ نے وفات سے چند لمحے قبل تین بار ہماری طرف  
دیکھا۔ فرمایا کہ مبعرات کو ہم دنیا سے رخصت ہوں گے۔ بروز جمعہ یہاں بڑی اندوہناک بھیڑ  
ہوگی۔ تم ہمارے جنازے کے قریب نہ جا سکو گے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے فرمایا۔ ایک چادر لاؤ۔  
لوگوں نے چادر کے چاروں کنارے پکڑے اور ہوا میں پھیلا دی۔ آپ نے ہمیں فرمایا۔ اس چادر  
کے نیچے ہو کر دیکھو۔ گویا یہ ہمارا جنازہ جا رہا ہے حضرت کے بیٹوں نے ویسے ہی کیا جس طرح حضرت  
نے حکم دیا۔ چنانچہ قیصرے دن ایسا ہی ہوا جیسا حضرت نے فرمایا تھا۔

جب حضرت کا جنازہ اٹھا۔ تو ہم لوگ جنازے کے قریب نہ جا سکے اور ایک کونے میں کھڑے  
روتے رہے۔ یہ بات سنتے بھی زار و زار رو رہے تھے۔

**تربیت مزین** شیخ ابوالقاسم روباہی قدس سرہ ہمارے شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ یہ قدیم صوفیہ  
میں شمار ہوتے ہیں۔ جس طرح بونصر حرضی۔ احمد عدنی باف وغیرہ پرانے صوفیہ میں سے مانے جاتے ہیں  
آپ نے حضرت شیخ کی وفات کی خبر سنی۔ تو نیشاپور پہنچے۔ ان دنوں حضرت امام ابوالقاسم قشیری نیشاپور  
میں قیام فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا۔ آج وہ شخص اٹھ گیا ہے جس کی مثال نہ صوفیاء متقدمین میں سے  
ملتی ہے اور نہ متاخرین میں کوئی ایسا ہوگا۔ آپ اٹھے اور کونے مدنی گویاں کے محلے میں آئے اور  
حضرت کے غم میں غلوت گزین ہو گئے اسی ماتم کے دوران فرمانے لگے۔ جب ہم نے حضرت شیخ ابوسعید  
کو دیکھا تھا تو ابھی ہمیں تصوف کا علم بھی نہ تھا اور کسی صوفی کو دیکھا تک نہ تھا۔ اگر ہم آپ کی  
زیارت نہ کرتے تو لفظ صوفی صرف کتابوں میں ہی پڑھتے۔ زندہ صوفی نہ دیکھ سکتے۔ تعزیت سے  
فارغ ہوتے ہی حضرت استاد امام ابوالقاسم قشیری نے آپ کا عرس کیا۔ ساتویں دن علی محاسب کو  
جو آپ کی خانقاہ کا وکیل تھا۔ ہمارے پاس بھیجا۔ اور کہا تم دس ایسے شخص ہو۔ جو حضرت شیخ کی  
زندگی میں مہینہ میں قیام پذیر تھے۔ تم ہمارے ہی آدمی ہو۔ اب شیخ چلے گئے ہیں۔ تم واپس آجاؤ

لوگوں نے علی محتسب کو کہا۔ چند روز ہمیں فیصلہ کرنے کی مہلت دی جائے۔ چند دنوں کے بعد ایک اور شخص آیا۔ اور کہنے لگا۔ استاد قاسم نے فرمایا اب تو تم نے سوچ کر فیصلہ کر لیا ہوگا۔ تمام کے تمام خاموش رہے۔ مجھ سے نہ رہا جاسکا میں نے کہا تم لوگ کیوں جواب نہیں دیتے۔ کہنے لگے ہم کیا کہیں۔ میں نے کہا۔ میں تو تمہاری زبان سے جواب دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت استاد کی خدمت میں گزارش کر دیں کہ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا۔ کہ جب دعوت ہوتی تو حضرت مجھے ایک پیالہ ایک قلو اور ایک مٹیٹی طشتری اپنے آگے سے اٹھا کر مجھے عنایت فرمایا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی اپنے باورچی خانے سے اتنا کھانا میرے گھر بھجواتے۔ ایک دن دعوت تھی۔ میں نے خود ہی باورچی خانے پہنچ کر تمام ضرورت کا کھانا اٹھالیا۔ اور ساری چیزیں باندھ کر سر پر رکھ لیں۔ روٹیاں ایک آستین میں رکھیں۔ اور پیالہ دوسرے ہاتھ میں اٹھالیا۔ اب حضرت نے اپنی طرف سے بھی یہ ساری چیزیں از سر نو عنایت فرمادیں۔ میں نے دوسری آستین میں رکھ لیں۔ اور دوسرے ہاتھ میں پیالہ اٹھالیا۔ یہ گرمیوں کا زمانہ تھا حضرت اپنے اجاب اور درویشوں کے ساتھ آرام فرماتے چلے گئے ہیں۔ اسی طرح خانقاہ سے روانہ ہوا۔ راستے میں برسر بازار میرا آزار بند ڈھیلا ہوا۔ اور قریب تھا کہ میں عریاں ہو جاتا حضرت نے اپنے حجرے سے آواز دے کر درویشوں کو کہا۔ ابوالقاسم کی امداد کرو۔ ایک درویش دوڑ کر آیا۔ اور کہنے لگا۔ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے اشارہ کیا تو اس نے میرا آزار بند باندھ کر مجھے شرمندگی سے بچایا۔ حضرت ہم تو ایسے پر درمشد کے زیر تربیت رہ چکے ہیں۔ اگر آپ بھی یوں حفاظت میں رکھ سکتے ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ علی محتسب واپس چلے گئے۔ دوسرے دن صبح کے وقت حضرت استاد امام قشیری ہمارے پاس خود تشریف لائے۔ اور ہم سے معذرت کی۔ اور ہمیں کہا کہ جب تک ہم زندہ ہیں کسی سے بات نہ کرنا۔ ہم نے وعدہ کر لیا۔

حضرت استاد امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے۔ اور حضرت  
امام قشیری مزرائی شیخ پروردگار ابو سعید کے مزار کی زیارت کو روانہ ہوئے اس سفر میں آپ  
کے ساتھ چالیس صوفیہ بھی تھے۔ جب یہ جماعت رباط سرکاہ میں پہنچے تو استاد قشیری اور دوسرے

لوگوں کی نگاہیں مہینہ پر پڑیں۔ سواہیوں سے نیچے اتر آئے۔ اور قاری حضرات کو کہا کہ حضرت شیخ ابوسعید کا یہ شعر پڑیں۔

ہے۔ جانا بزمیں خاوراں خار سے نیست  
کش بامں و روزگار من کار سے نیست  
بالطف و نوازش جسمال تو مرا  
ورد اذن صد ہزار جاں عاری نیست

قاری حضرات یہ اشعار خوش الحانی سے پڑھتے جلتے تھے۔ حضرت استاد پر حالت خاص طاری ہو گئی۔ اپنا فرقہ اتار دیا۔ دوسرے صوفیہ نے بھی اپنے اپنے فرقے اتار دیئے۔ حضرت شیخ کے بیٹوں کو ان بزرگان دین کے آنے کی خبر ہوئی۔ کہ حضرت امام قشیری صوفیہ کی جماعت کے ساتھ نیشاپور سے آ رہے ہیں۔ تمام کے تمام اپنے مریدوں اور درویشوں کو لے کر استقبال کے لئے آگے بڑھے۔ راستے میں سٹے قاری اشعار پڑھ رہے تھے مہینہ والے بھی اپنے فرقوں سے عاری ہو گئے۔ حتیٰ کہ یہ سارا مجمع حضرت شیخ کے مزار پر انوار کے سامنے آپہنچا۔ قاری پڑھتے جا رہے تھے درویش زمین پر تڑپ رہے تھے۔ ہر ایک پر عجیب حالت طاری تھی۔ فرقے پارہ پارہ کر دیئے گئے۔

حضرت امام قشیری ایک دن کے لئے مہینہ میں ٹھہرے۔ حضرت شیخ کے بیٹوں نے آپ سے درخواست کی کہ ایک دن مزار پاک کے سامنے مجلس ذکر برپا کی جائے۔ آپ نے قبول نہ کی۔ لیکن لوگوں کے اصرار پر جامع مسجد میں مجلس ذکر منعقد کی۔ اور دو۔ ان وعظ فرمایا۔

كُنَّا نَعْتَرِضُ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي سَعِيدٍ فِي أَشْيَاءٍ وَكُنَّا نَظْلِمُهُ لَانَ  
مَنْ قَابِلُ صَاحِبِ الْحَالِ بِالْعِلْمِ يَظْطَحُ۔

ترجمہ :- بعض مسائل میں ہم حضرت شیخ پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ اور ہم زیادتی کیا کرتے تھے۔ کیونکہ جو لوگ صاحب حال بزرگوں کا علم سے مقابلہ کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں۔ چند دن مہینہ سے واپس نیشاپور چلے گئے۔

حضرت شیخ کا ابتدائی زمانہ تھا۔ مینہ کی ایک نیک یرت عورت  
مزار شیخ کا نعین :- نے خواب میں دیکھا کہ جہاں ان دنوں حضرت کا مزار ہے حضرت  
آدم علیہ السلام دوسرے انبیاء کرام کو لئے کھڑے ہیں۔ اس عورت نے حضرت ابراہیم حضرت یعقوب  
حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہم السلام ایک ایک کو پہنچان لیا۔ اس وقت یہ مقام ہر ایک حویلی تھی  
جسے حضرت شیخ نے فریاد کیا۔ لوگ تو وہاں گھوڑے باندھا کرتے تھے۔ مگر شیخ نے اس پر ایک صاف ستھری عمارت  
کھڑی کر لی۔ وہاں بیٹھا کرتے۔ مراقبہ فرماتے۔ دوسرے صوفیہ بھی وہاں ذکر کرتے۔ حضرت نے اس عمارت  
کو مشہد کا نام دیا۔ تو خواجہ امام ابو البدر مشرقی نے حضرت شیخ کی خدمت میں یہ شعر پیش کیا۔

نبی شیخ الزمان بنا      لقا غریبہ ماقدان قبلہ  
فکعبہ قبلۃ لنا کس طرا      وهذا البیت للعشاق قبلہ

حضرت نے وفات سے پہلے ہی فرمایا تھا کہ مجھے غلاں جگہ دفن کرنا۔ اس عورت نے مزار دیکھ  
کر کہا۔ یہ ہے اُس خواب کی تعبیر! میں نے وفات کے وقت دیکھا کہ جس جگہ حضرت کا مزار بنا تھا وہاں  
ہی حضرات انبیاء علیہم السلام کو کھڑے دیکھا تھا۔

میں نے حضرت ابو الیمان سے سنا۔ انہوں نے حسن جاناروی سے سنا اور  
نازنعینان حتی :- انہوں نے خواجہ ابو الفتح کی زبانی سنا تھا کہ میرے والد ابو طاہر شیخ قدس سرہ  
اپنے سکول جا رہے تھے۔ ایک دن اتاد نے کسی بات پر انہیں مارا پٹیا۔ زخم کے نشانات بدن پر نمایاں  
تھے۔ خواجہ ابو طاہر رونے رو تے سکول سے گھر آگئے۔ اور زخم نشان حضرت شیخ کو دکھائے۔ حضرت شیخ  
نے اتاد کو پیغام بھیجا کہ ہم اس بچے کو مقرب اور امام نہیں بنانا چاہتے۔ خیال رہے۔ یہ بچے۔ اللہ  
کے نازنین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لطف و کرم سے پالا ہے۔ اپنے لطف و کرم میں رکھ ہے  
کان کھول کو سن لو۔ آئندہ کے لئے انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔

ابو طاہر سکول سے بہت گھبراتے تھے۔ بلکہ اس دن کے بعد آپ کو سکول سے نفرت ہو گئی اور  
سکول کی تعلیم سے کنارہ کش رہنے لگے۔ ایک دن حضرت شیخ نے فرمایا جو شخص ہمیں یہ خبر پہنچائے گا کہ

درویش آرہے ہیں۔ ہم اسے منہ مانگی مراد دیں گے چند دن کے لئے حضرت کے پاس کوئی مسافر نہ آیا۔ آپ کی دلی خواہش تھی۔ کاش کوئی درویش آتے اور میں اس کی خدمت بجا لاؤں۔ خواجہ ابوطاہر نے یہ بات سنی۔ تو مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور ہر طرف نظر دوڑا کر دیکھنے لگے۔ شاید کوئی مسافر آتا دکھائی دے اور آپ خوشخبری لے کر حضرت کے پاس جائیں۔ اتفاقاً طوس کے راستہ پر چند درویش صورت بزرگ آتے دکھائی دیئے۔ ابوطاہر چھت سے اترے اور جلدی جلدی حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے بابا چند مسافر درویش آتے والے ہیں۔ حضرت شیخ نے فرمایا۔ اب بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ عرض کی۔ آج سکول نہیں جاؤں گا۔ شیخ نے فرمایا۔ ٹھیک ہے! عرض کی۔ کل بھی نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا۔ بہت اچھا! پھر کہا یہ پورا ہفتہ نہیں جاؤں گا۔ حضرت شیخ نے فرمایا۔ نہ جانا۔ پھر کہنے لگے۔ میں بالکل ہی سکول نہیں جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا۔ نہ جانا۔ مگر گھر میں بیٹھ کر اتنا فتحنا تو یاد کر لینا۔ اور یہ ساری سورت یاد رکھنا اور سکول نہ جانا۔ حضرت خواجہ ابوطاہر خوش ہو گئے۔ مگر حضرت شیخ نے ہاتھ اٹھا کر توت کے ایک درخت سے شاخ کاٹی۔ اور ابوطاہر کی میان میں باندھ دی۔ اور ایک جھاڑو ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اور فرمایا۔ لو۔ مسجد کی صفائی کرو۔ ابوطاہر نے جھاڑو دینا شروع کر دیا۔ ادھر درویش آ پہنچے۔ اور حضرت شیخ کی خدمت میں آ بیٹھے۔ حضرت نے پوچھا۔ آپ لوگوں کو میرا بیٹا ابوطاہر کیا دکھائی دیتا ہے انہوں نے کہا بہت اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اب ہم نے اسے اور اپنے دوسرے بیٹوں کو درویشوں کی خدمت کے لئے وقف کر دیا ہے البتہ سورہ اِنَّا فَتَحْنَا زَبَانِيَا كِرَالِي ہے۔ حضرت شیخ کی وفات کے بعد ابوطاہر قدس سرہ نے۔ یہ واقعہ بیان کیا تھا اور ساری زندگی مہر بہ لب رہے۔

نظام الملک طوسی ملک شاہ سلجوقی کا وزیر مملکت تھا۔ ان دنوں

نظام الملک طوسی :- اصفہان سلجوقیوں کا دار الخلافہ تھا۔ نظام الملک طوسی حضرت شیخ

ابوسعید رحمۃ اللہ کا مرید تھا۔ اور شیخ کی وجہ سے دوسرے صوفیاء کا بھی مربی تھا۔ خواجہ ابوطاہر صوفیاء

کی وجہ سے قرض میں زیر بار تھے۔ چنانچہ خواجہ ابوطاہر چند صوفیہ کو لے کر اصفہان گئے۔ نظام الملک نے

ان حضرات کی بڑی عزت و تکریم کی۔ اپنی دنوں سلطان غزنین کی طرف سے ایک سفیر آیا ہوا تھا۔ جو علوی سید تھا۔ بڑا فاضل صاحب الذہن و متعصب شیعہ۔ اور بزرگان دین اور صوفیاء کا منکر تھا۔ وہ اپنے قیام کے دوران نظام الملک کو ملامت کرتا رہا۔ کہ تم ایسے لوگوں پر اپنی دوست نچھا کر کے ہتے ہو۔ جو سنت کے مطابق وضو کرنا بھی نہیں جانتے۔ دو رکعت نماز صحیح ادا نہیں کر سکتے۔ فرض اور سنت میں فرق کرنا نہیں جانتے۔ علوم شریعت سے بے بہرہ ہیں۔ جاہل اور شیطان کے بہکائے ہوئے لوگ تمہارے مال پر پلتے ہیں۔ نظام الملک نے کہا تم نہیں جانتے۔ یہ بڑے باہوش و خرد لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ہوتا جو علم دین کو ضرورت کے مطابق نہ جانتا ہو۔ ان کے مقصدی علماء شریعت اور اولیاء طریقت ہوتے ہیں۔ علم کا مقصد عمل ہوتا ہے۔ یہ لوگ شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ باتیں ان دونوں میں دیر تک ہوتی ہیں۔

غزنین کے سفیر کو یہ معلوم تھا۔ کہ ابوطاہر کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ مگر نظام الملک کو اس بات کی خبر نہ تھی۔ چنانچہ سفیر نے اسے کہا۔ یہ کیا یہ بات درست ہے کہ ابوسعید ابوالخیر اس زمانے کے تمام صوفیہ سے بہتر ہیں۔ نظام الملک نے کہا۔ بالکل درست ہے سفیر نے کہا۔ خواجہ ابوطاہر تو قرآن تک نہیں پڑھ سکتا۔ نظام الملک نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ شیخ کے بعد ابوطاہر تو قطب وقت ہیں نظام الملک نے فرمایا۔ ہم انہیں بلا تے ہیں تم قرآن کی کوئی سی صورت سوچ رکھو۔ جو انہیں سنانے کا کہنا۔ نظام الملک نے خواجہ ابوطاہر کو بلا یا۔ آپ تمام صوفیاء اور بیٹوں کو لئے اندر آ گئے۔ جب سب کے سب بیٹھ گئے۔ تو نظام الملک نے سفیر کو کہا۔ کون سی سورت سنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا انہیں کہیں اِنَّا قَنَعْنَا پڑھیں۔ نظام الملک نے اشارہ کیا تو خواجہ ابوطاہر نے ساری سورت نادی۔ تمام حاضرین پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ نظام الملک بہت خوش ہوا۔ ادھر سفیر غزنین بڑا شرمسار ہوا کہ اس نے اتنے بڑے مجمع میں اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا۔ اٹھا۔ اور مجلس سے باہر چلا گیا۔ نظام الملک نے پوچھا۔ حضرت آپ اتنے خوش کیوں ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ جناب صدر بزرگوار۔ میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں۔ اور اپنے بچپن کا تمام واقعہ اول سے آخر تک سنا دیا۔ نظام الملک

کا اعتقاد پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔

یہ واقعہ حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ کے کشف کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ نے ستر سال پہلے معلوم کر لیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کے بیٹوں سے امتحان لیا جائے گا۔ اسی لئے آپ نے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ کم از کم اِنَّا قَنَحْنَا تو یاد کر لو۔ حضرت شیخ کی وفات کو چالیس سال ہو چکے تھے۔ حضرت ابوطاہر نے ۴۸۰ھ میں وفات پائی۔

حضرت جن دنوں مجاہدہ اور ریاضت کے مراحل طے  
خواجہ ابوطاہر کی شیخ سے محبت :- کر رہے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ آپ دو دو

ماہ گھر سے غائب رہتے۔ اور کسی کو بھی نہ ملتے۔ خواجہ ابوطاہر بھی بچے ہی تھے۔ اپنے والد حضرت شیخ سے بڑی محبت تھی۔ شیخ کی عدم موجودگی میں آپ کو بڑی بے چینی اور اداسی ہوتی ایک بار ایسا ہوا۔ کہ شیخ پورا ایک مہینہ گھر سے غائب رہے۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ ابوطاہر بڑے اداس اور مضطرب دکھائی دیتے تھے۔ ایک دن علی الصباح اٹھے۔ اور جہاں جہاں حضرت شیخ عبادت کیا کرتے تھے۔ گھومتے رہے۔ صحرا و بیابان۔ مسجد۔ سرائے۔ قبرستان غرضیکہ جگہ جگہ والد مکرم کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے۔ مگر حضرت کا کہیں پتہ نہ چلا۔ سارا گرم دن پھرتے رہے۔ آخر کار نماز ظہر کے وقت ایک پرانی سرائے کے سامنے آکر رک گئے یہ ایسی سرائے تھی جہاں حضرت شیخ عام طور پر عبادت کو آتے تھے۔ سرائے کا دروازہ بند تھا۔ ابوطاہر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اتفاقاً حضرت وہاں ہی تھے۔ دروازہ کھولا۔

ابوطاہر کو کھڑے پایا۔ پسینے میں شرا بور۔ گرمی سے چہرہ سرخ۔ ہوش و حواس اڑے ہوئے۔ حضرت شیخ کو دیکھتے ہی زمین پر گر گئے۔ حضرت شیخ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمانے لگے۔ ابوطاہر! تمہیں کیا ہو گیا۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ابوطاہر نے کہا۔ بابا۔ میں تو آپ کو لینے آیا ہوں۔ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ نے فرمایا۔ بیٹا۔ تم دنیا میں ہمارے ساتھ رہو گے۔ قبر میں ہمارے ساتھ رہو گے۔ بہشت میں ہمارے ساتھ رہو گے۔ ہاتھ بڑھانے۔ ابوطاہر کو گود میں اٹھالیا۔ اور اندر لے گئے۔ آپ ساری زندگی حضرت شیخ کے ساتھ رہے۔ ابوطاہر مرتے دم تک شیخ سے جلا نہ ہوئے۔

خواجہ ابوطاہر فوت ہوئے تو لوگوں کو ان تعلقات کا خیال نہ رہا جنازہ تیار ہوا۔ تو باہر قبرستان میں لے جانے کی تیاری ہوئی۔ آسمان پر بادل اٹھے اور زبردست طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں کو انتظار تھا کہ ابھی بارش ختم جائے گی اور جنازہ اٹھا کر لے جائیں گے۔ مگر متواتر تین دن رات بارش ہوتی رہی اور کسی کو جنازے اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر کار ایک مرید صادق نے گذارش کی۔ خواجہ ابوطاہر کا عشق اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ کہ آپ کو حضرت شیخ کے مزار کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ حضرت شیخ بھی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ ہم دونوں زندگی اور بعد از زندگی اکٹھے ہی رہیں گے۔ یہ طوفان باد و باران حضرت شیخ کی کرامت سے ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جنازہ قبرستان میں لے جانے کی بجائے یہاں ہی دفن کیا جائے۔

ان دنوں ایک گورکن جس کا نام قتیبہ تھا حضرت شیخ کے مزار کے پاس ہی کوچہ  
**شیخ کا گورکن**۔ صوفیاں میں رہتا تھا حضرت کی وفات کے وقت اسی نے قبر کھودی تھی اسے  
بلایا گیا کہ وہ حضرت کے پہلو میں ایک اور قبر بنائے۔ اس نے قبر تیار کی قبر کو صاف کرتے ہوئے اس کی  
گدال ایک پتھر پر لگی جس سے حضرت کی قبر سے ایک سوراخ ہو گیا۔ قتیبہ نے زور سے چیخ ماری اور پتھر  
کو وہیں رکھ دیا۔ اور خود بے ہوش ہو کر قبر میں ہی گر پڑا۔ اسے نکالا گیا۔ اور اس کے گھر پہنچا دیا گیا۔ حضرت  
خواجہ ابوطاہر کو دفن کر دیا گیا۔ ابھی لوگوں نے مٹی سے ہاتھ بھی نہ جھاڑے تھے۔ کہ بارش رک گئی۔ اور  
دھوپ نکل آئی۔ تمام لوگوں کو یقین ہو گیا۔ کہ یہ بارش حضرت شیخ ابو سعید قدس سرہ کی کرامت تھی۔ قتیبہ  
بے ہوش پڑا رہا۔ چالیس دن تک آنکھ نہ کھولی۔ اور زبان نہ بلا سکا۔ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکا۔ کہ اس نے  
کیا دیکھا ہے۔ چالیس دن بعد وہ فوت ہو گیا۔ اور یہ راز سر لبتہ ہی اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ اگرچہ لوگ اس  
واقعہ کو بھی حضرت شیخ کی کرامت بتا کر مختلف قیاس آرائیاں کرتے رہے۔ مگر اس واقعہ کا معنی شاید  
قتیبہ بات کے بغیر دنیا سے چل بسا۔

شیخ ابوالفضل شامی بڑے ہی پیار سے اور بزرگ انسان تھے مشاہیر  
**شیخ ابوالفضل شامی**۔ صوفیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ جوانی میں بڑے سفر کئے۔ آخر عمر میں



بیت المقدس قیام کیا۔ اور بیت المقدس کے مجاور بن گئے۔ بیت المقدس میں ایک دن صوفیوں کی ایک خانقاہ میں سو رہے تھے۔ کہ خواب میں دیکھا۔ حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ خانقاہ کے دروازے سے اندر تشریف لائے۔ ہاتھ میں مٹھائی کا ایک طباق اٹھائے ہوئے مجمع میں آگئے۔ ایک ایک کو مٹھائی کا ایک حصہ دیتے چلے۔ جب شیخ ابوالفضل شامی کے پاس آئے تو طباق کی ساری بچی ہوئی۔ مٹھائی آپ کی جھولی میں ڈال دی۔ اور کچھ مٹھائی آپ کے منہ میں ڈالی جس سے منہ بھر گیا۔ حضرت شامی بیدار ہوئے تو آپ کا منہ ابھی تک مٹھائی سے بھرا ہوا تھا۔ خادم کو آواز دی۔ روشتی کا انتظام کر دیا۔ پاس سوئے ہوئے صوفیوں کو اٹھایا۔ اور تمام کو خواب کا واقعہ سنایا۔ پھر اٹھے۔ غسل کیا۔ اور دو گانہ ادا کیا۔ اٹھ کر اعلان کیا۔ شیخ ابوسعید کی زیارت کرنے والے انھیں صوفیہ کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تیار ہو گئی۔ اور پادہ بیت المقدس سے روانہ ہو کر صیہبہ میں آگئے۔ اگرچہ اس وقت آپ کی عمر اسی سال سے تجاوز تھی۔ مگر آپ راستے میں کہیں نہ رکنے صیہبہ میں چند روز قیام کیا۔ حضرت شیخ قدس سرہ کے تمام بیٹوں کو بلایا۔ اور کہا۔ میں آپ لوگوں کو حضرت شیخ کے مزار پر انوار کی خدمت اور حفاظت کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اس مقام کی عزت و حرمت کو بقرار رکھیں۔ سب کو الوداع کہا۔ اور بیت المقدس کو واپس آگئے۔

حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ کی وفات کے بعد ایک بزرگ نے آپ کو  
**مَنْ ثَبِتَ نَبِيَّتَ خَوَابٍ فِي دِيَارِهِ** دیکھا کہ آپ ایک تخت پر جلوہ فرما ہیں۔ اور فرما رہے ہیں۔ مَنْ ثَبِتَ نَبِيَّتَ "جو شخص ثابت قدمی سے راہ راست پر چلے گا۔ نجات پالے گا" ایک اور بزرگ نے حضرت شیخ کو خواب میں دیکھا۔ تو فرما رہے تھے۔ درویشوں کی روٹیاں کھاتے ہو اور ان کی خدمت نہیں کرتے!"

میرے دادا کی زبانی حضرت شیخ الاسلام ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ ایک دن درویشوں کی ایک جماعت کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا۔ سخت بارش نے آیا ہم ایک پناہ گاہ میں چلے گئے۔ بارش لگا تار کئی دن تک رہی۔ مویشی چارے کے بغیر بھوکے مرنے لگے۔ اچانک میری زبان سے

نکلا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کیا کریں؟ اس رات خواب میں حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ کی زیارت ہوئی۔ فرماتے لگے۔ ابوسعید! ایسی باتیں کس کام کی ہیں۔ ایسی بات کرو جو ہم کو اسکیں؟ میں اٹھا۔  
قبرہ کی۔ اور کئی دن تک روتا رہا۔

شیخ مہد بارودی بڑے پیارے بزرگ تھے۔ حضرت شیخ ابوسعید کے معتقد خاص تھے سلطان بہر اپنے شکر سمیت آپ کا مرید ہو گیا تھا۔ آپ بھی سلطان پر بڑی محبت کی نظر رکھتے تھے۔ میرے والد نور الدین منور رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں آپ شیخ کے مزار کے خادم تھے اور حضرت کی ساری اولاد کے پیرو پیشوا تھے۔ شیخ مہد بارودی میلنہ میں حضرت کے مزار پر انوار کی زیارت کو حاضر ہوئے مزار کے درویشوں کی خدمت کی۔ اور مزار کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ زیارت کی۔ صبح سے شام ہو گئی۔ تمام لوگ کھانا کھا کر نماز عشاء سے فارغ ہو گئے۔ البتہ مزار پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ سوئیہ کی ایک جماعت اور چند دوسرے عقیدت مند بھی زیارت کو جمع تھے۔ حضرت شیخ مہد نے کہا میرا دل چاہتا ہے۔ کہ آج حضرت شیخ کے مزار پر ہی رات گزاروں۔ اور ساری رات عبادت میں رہوں۔ حضرت شیخ ابوسعید کے بیٹوں نے کہا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایسا کسی بزرگ نے نہیں کیا۔ وفات کے بعد کبھی کسی نے بھی حضرت کے مزار پر شب بسر نہیں کی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے۔ دن تمہارا ہوگا۔ اور رات میرے جن عقیدت مندوں کی ہوگی۔ مگر بایں ہمہ حضرت مہد نے کہا۔ یہ سب عام باتیں ہیں۔ میں رات حضرت کے مزار پر گزاروں گا۔ لوگ گھر آگئے۔ شیخ مہد وہاں ہی ہے باہر سے قفل لگا دیئے گئے۔ رات کو ہونیا اور درویش چھتوں پر آرام کرے چلے گئے۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا۔ ابھی سوئے نہ تھے کہ شیخ مہد کی چھین سنائی دیں۔ صوفی چھت سے نیچے اترے۔ اور دیکھا کہ شیخ مہد صوفیوں کے کوچہ میں ایک حوض کے کنارے بیٹھے ہیں۔ دونوں پاؤں پانی میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ اٹھا کر مزار کے بیرونی دروازے پر لے آئے۔ قفل ابھی تک لگا ہوا تھا۔ اسے چھت پر لے جا کر پوچھا گیا۔ کہ کیا معاملہ ہوا۔ شیخ مہد نے بتایا۔ جب شمعیں بجھ گئیں۔ دروازوں پر قفل لگ گئے۔ تو میں نماز میں مشغول ہو گیا۔ چند رکعت نوافل پڑھے۔ پھر بیٹھ کر مراقبہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر تک تفکر کیا

مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے پاؤں میں تری ہے۔ آنکھیں کھولیں تو خود کو پانی میں پاؤں لٹکانے پایا۔ آپ لوگوں نے مجھے وہاں سے اٹھالیا۔

اس رات حضرت شیخ مہد چھت پر سو رہے۔ بھری کے وقت ایک خادم نے دروازہ کھولا۔ تو حضرت شیخ مہد کی جوتیاں اٹھا کر باہر لایا۔ اور آپ کی خدمت میں لا رکھیں۔ شیخ مہد چند روز مزید مہینہ میں رہے۔ اور پھر چلے گئے۔ نساہ میں پہنچے تو وہاں کے صوفیا اور مشائخ نے پرچھا کہ حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ کے بیٹوں کا کیا حال تھا۔ فرمایا۔ منور کو منور پایا۔ (یہ بات میرے والد کے متعلق تھی)

میں نے یہ واقعہ تاج الاسلام ابوسعید بن محمد اسمعانی سے سنا تھا۔  
**حج اور زیارت شیخ** جو آپ حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ کے مزار کے دروازے کے سامنے ایک مجلس میں بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ حج کو گیا۔ ناسک حج سے فارغ ہوتے میرے باپ نے کہا۔ چلو شیخ عبدالمالک طبری کی زیارت کر آئیں۔ وہ دور حاضر کے بزرگان دین میں سے ہیں۔ اور صاحب کرامت بزرگ ہیں۔

ان بزرگوں کے بارے میں خواجہ ابوالفتوح غصامیری نے حکایت بیان کی ہے کہ میں نے صوفیاء میں سے ایک آدمی سے سنا تھا کہ ایک دن میں مسجد حرام کے سامنے شیخ ابوالفتوح طبری کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے مسجد سے ایک شخص آتا دکھائی دیا مگر اس کی شکل و صورت عام آدمیوں کی طرح نہیں تھی۔ شیخ عبدالمالک کو کہنے لگا لَا أَفْضَلَ انْصَرَفَ إِلَى صَلَاتِهِ شیخ عبدالمالک نے کہا۔ ہاں۔ وہ شخص چلا گیا۔ ایک درویش وہاں موجود تھا۔ کہنے لگا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون شخص تھا۔ اور اس نے کیا کہا۔ شیخ عبدالمالک نے کہا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ فرمایا۔ کل آنا۔ ہم مدینہ چلیں گے انہوں نے کہا میں آؤں گا۔ اس قسم کی کرامات آپ سے بہت منسوب ہیں۔

تاج الاسلام نے کہا۔ ہم شیخ عبدالمالک طبری کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ نماز ادا کر کے مسجد عائشہ میں چلے گئے ہیں۔ وہاں سے عمرہ کریں گے۔ میقات میں پتھر اور نوکدار سنگریزے پڑے

تھے۔ وہ انہیں ہوا کر دیئے تھے۔ تاکہ حاجیوں کو راستہ گزرنے میں تکلیف نہ ہونے پائے۔ ہم وہاں پہنچے  
دُور سے دیکھا کہ آپ نے گودڑی پہنی ہوئی ہے۔ مگر باندھی ہوئی۔ اور ایک پتھر پر بیٹھے ایک پتھر سانے  
رکھے ہوئے ہیں اور ایک تھوڑے سے توڑ لہے ہیں۔ جب سارا پتھر توڑ دیا۔ ہماری طرف منہ کر کے  
دیکھنے لگے میرے والد نے بڑھ کر سلام عرض کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا  
میرے نزدیک آجاؤ۔ ہم آگے آئے میرے والد نے خود ہی کہا۔ ہم خراسان کے شہر مرو سے آئے  
ہیں۔ میں مظفر سمعانی کا بیٹا ہوں۔ فرمانے لگے میں جانتا ہوں۔ فرمانے لگے۔ حج کرنے آئے ہو۔  
میرے والد نے کہا۔ ہاں۔ فرمانے لگے مینہ میں نہیں گئے۔ کہا۔ گیا ہوں۔ فرمایا۔ حضرت شیخ ابو سعید  
ابوالخیر سے ملے ہو؟ میرے والد نے کہا ملا ہوں۔ فرمانے لگے۔ پھر یہاں کیا لینے آئے ہو۔ اتنا لمبا  
سفر کر کے کیوں آئے ہو۔ یہ کہہ کر اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ ہم نے سلام کیا۔ اور واپس آگئے  
تاج الاسلام فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک میں نے اپنا فرض بنا لیا ہے۔ کہ ہر سال جب  
لوگ حج کو روانہ ہوں ہیں حضرت خواجہ ابو سعید کی زیارت کو جایا کروں گا۔

میں نے یہی واقعہ ایک اور واسطے سے سنا ہے۔ ناصح الدین بو محمد سے جو میرے چچا زاد بھائی  
تھے سنا تھا۔ کہ میں مینہ کے گورنر کے ساتھ سرخس گیا۔ وہ فرمانے لگے۔ آؤ! خواجہ امام بخاری قدس سرہ  
کی زیارت کو آئیں۔ وہ امام وقت تھے۔ انہیں امیر اجل نے بخارا سے اپنے مدرسہ میں تدریس علوم  
اسلامیہ کے لئے سرخس میں بلایا تھا۔ ہم اندر آئے۔ تو انہوں نے میرا تعارف کراتے ہوئے بتایا  
کہ یہ شیخ ابو سعید ابوالخیر کے بیٹے ہیں۔ وہ اٹھ مجھ سے دوبارہ بغل گیر ہوئے۔ مزید عزت افزائی  
کی۔ اور فرمایا۔ جوانی کے زمانہ میں مجھے مرو جانے کا اتفاق ہوا۔ اور حضرت خواجہ امام محمد سمعانی  
کی خدمت میں حاضر ہوا اور علوم فقہ پڑھنے شروع کئے۔ آپ ایک بار کعبۃ اللہ کے سفر کو  
روانہ ہوئے مجھے ایک اور عالم دین کے حوالے کیا۔ واپسی پر انہوں نے اپنی عدم موجودگی میں  
پڑھی ہوئی کتابیں سنی۔ ایک دن میں آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ مرو کے دو بزرگ آپ  
کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ سے باتیں کر رہے تھے۔ اور فرمایا میں مکہ مکرمہ میں عبدالملک

طبری رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تو انہوں نے مندرجہ بالا واقعہ سنایا تھا۔

حکیم محمد الابیوردی قدس سرہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا مرد کامل تھا۔ جو اکثر زہد و ریاضت میں مشغول رہتا۔ اس نے بتایا۔ میں لگاتار سارا سال عبادت کرتا رہا۔ میں اکثر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کیا کرتا تھا۔ کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا نیک کام کرنے کی توفیق دے کہ میں بھی حضرت شیخ ابوالخیر ابوسعید قدس سرہ کے مقام کو حاصل کر سکوں۔ سارا سال ایسے ہی گذرا۔ دعائیں کرتا رہا۔ عبادت کرتا رہا۔ ایک رات سویا ہوا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ ہاتف نے آواز دی کہ حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث پر عمل کیا تھا۔ پھر اس مقام پر پہنچے تھے۔ میں خواب سے بیدار ہوا۔ تو پورا ایک سال مزید عبادت و ریاضت میں صرف کر دیئے۔ سنا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے تضرع ذرا سی سے التجا کرتا رہا۔ یا اللہ مجھے وہ حدیث دیکھا جس پر حضرت شیخ عمل کر کے اس درجہ مقام کو پہنچے۔ پورا ایک سال گذرا تھا۔ کہ مجھے پھر خواب آیا ہاتف نے کہا۔ حضرت شیخ نے خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو زندگی بھرا پنا یا۔

صَلُّ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْطَ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

ترجمہ :- جو تم سے قطع تعلق کرے۔ اس سے ملو۔ جو تمہیں محروم کرے اسے کچھ دو۔ جو

تم پر ظلم اور زیادتی کرے۔ اسے معاف کر دو۔

میں اٹھا۔ اور جان لیا کہ حضرت شیخ ابوسعید کے مرتبہ کو پہنچنا میرا کام نہیں ہے مجھے دو سال ریاضت کرنے کے بعد صرف یہ معلوم ہوا ہے۔ کہ وہ فلاں حدیث پر عمل کرتے تھے۔ مگر جن امور حدیث پر وہ عمل کرتے تھے۔ میں کہہ سکتا ہوں۔

ابوالفتح محمد علی بن علی الحداد نے بیان کیا تھا۔ کہ میرے والد کئی

بأنوفله رحمۃ اللہ علیہ :- سال حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر کی خدمت میں رہے۔ وفات

کے وقت وہ موجود نہ تھے جب واپس آئے۔ تو گھر میں گوشت نشین ہو گئے۔ مگر ہر سال دو بار حضرت کے مزار کی زیارت کو جاتے ہیں حضرت شیخ کے بیٹوں کے لئے اپنے والد کے ہاتھ کچھ نہ کچھ یہ بیج

دیا کرتا تھا تاکہ مجھے بھی حضرت شیخ سے قربت نصیب ہو۔ میرے والد ہر بار جاتے۔ اور حضرت کی زندگی کے واقعات سنانے۔ ان کے چہرہ انور۔ مرنے مبارک کی تعریفیں فرماتے۔ میرے والد کا انتقال ہوا۔ میرے دل میں خیال آیا۔ کہ اب میں حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ کے مزار کی زیارت کروں۔ میں مینہ کے نزدیک پہنچا توڑک گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ شام کے بعد شہر میں داخل ہوں۔ بندھرا ہوا تو میں شہر میں داخل ہوا۔ غسل کیا۔ رات کو مزار مبارک پر گیا۔ دو گانہ پڑھا۔ مراقبے میں بیٹھا رہا۔ اسی حالت میں مجھے نیند آگئی۔ میں نے خواب میں حضرت شیخ کو اسی شکل و صورت میں دیکھا جس طرح میرے والد بیان کیا کرتے تھے۔ فرمانے لگے۔ میرے بیٹوں کے پاس رہنے کی بجائے سرخس میں بانوفلہ کے پاس چلے جاؤ۔ اور اس کی تربیت میں راہ سلوک حاصل کرو۔ میں بیدار ہوا۔ رخت سفر کیا اور سرخس کو روانہ ہو گیا۔ بانوفلہ کی خدمت میں جا پہنچا۔ یہ بزرگ حضرت شیخ کے عقیدت مند درویشوں میں سے تھے۔ آپ نے وفات کے وقت بانوفلہ کو حکم دیا تھا۔ کہ سرخس میں ابوالفضل حسن رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر چلے جائیں۔ وہ وہاں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے روحانی تربیت کا کام شروع کیا۔ ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ مخلوق خدا کو آپ سے نورانی تعلیمات حاصل ہوئیں۔ اب آپ کی خانقاہ کو خانقاہ بانوفلہ کہتے ہیں۔ میں بھی آپ کی خدمت میں رہ کر بڑی روشنی حاصل کی۔

آپ کی وفات کے بعد مجھے امام ابوالقاسم قشیری قدس سرہ کی خدمت میں رہنا نصیب ہوا۔ آپ نے مجھے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے بتایا۔ کہ مجھے حضرت شیخ قدس سرہ کے مزار پر خواب آیا تھا۔ تو میں بانوفلہ کی خانقاہ میں آ گیا۔ آپ بڑے روئے۔ فرمانے لگے۔ مجھے بانوفلہ کے ساتھ بڑا عادتہ پیش آیا تھا میں سرخس میں ایک مہم پر نکلا۔ جب میں سرخس میں پہنچا تو وہاں کے علماء مشائخ اور بزرگان دین میرے استقبال کو آگے بڑھے۔ مگر بانوفلہ نہ آئے۔ مجھے امید تھی کہ وہ بھی میرے سلام کے لئے آئیں گے۔ مگر وہ نہ آئے۔ میں ان کی اس سرکشی سے آزرده خاطر تھا۔ رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے مجھے فرمایا۔ بانوفلہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تم یہاں بیٹھے ہو تمہیں چاہیے کہ انہیں سلام کرنے جاؤ۔

میں خواب سے بیدار ہوا۔ صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بانو فلہ کی زیارت کو حاضر ہوا۔

**برکاتِ نگاہِ شیخ** میں نے حضرت خواجہ امام ظہیر الدین اُسعد قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا۔ (آپ حضرت امام اتاد ابو القاسم نیروتھے) کہ وہ ایک عرصہ تک نیشاپور کے صوفیاء کی خدمت کرتے رہے۔ اس طرح ان پر سات سو نیشاپوری دینار قرضہ ہو گیا۔ میں نے بادشاہ کے شکرگاہ جانے کا ارادہ کیا میں گیا۔ ان دنوں شکر شاہی مرد میں خیمہ زن تھا۔ میں مینہ میں پہنچا تو حضرت شیخ کے بیٹوں نے مجھے چند دنوں کے لئے روک لیا۔ بڑی خاطر و مدارات کی چند دنوں بعد میں نے تیاری کی تاکہ مرو کی طرف روانہ ہوں۔ سامان سفر تیار کیا۔ اور حضرت کے مزار کی زیارت کو نکلا۔ میری نگاہیں حضرت شیخ کی قبر پر پڑیں تو میرا سر جھک گیا۔ آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے یوں معلوم ہوا کہ گویا تمام جہاں میری آنکھوں کے سامنے سے اٹھ گئے ہیں۔ میں نے حضرت شیخ کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے۔ تم جو کچھ کہ رہے ہو تمہارے باپ نے کیا ہے یا تمہارے دادا نے کیا ہے؟ جاؤ آرام کرو گھر بیٹھو۔ تمہارا مقصد یہاں ہی حاصل ہو جائے گا۔

میں باہر آ گیا۔ دوستوں کو کہا۔ سواری کا گھوڑا واپس کر دو۔ ساز و سامان لوٹا دو۔ میں نیشاپور آیا۔ اور خانقاہ میں آ بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کئے۔ کہ اسی مہینے میں سات سو دینار نیشاپوری قرضہ برباق ہو گیا۔ اس سال اتنی فتوحات اور نذرانے آئے۔ کہ خانقاہ کے تمام اخراجات پورے ہو گئے مجھے کسی سال بھی اتنی آسودگی اور فراخی نہ آئی تھی۔ جس قدر اس سال آئی۔ یہ سب کچھ حضرت شیخ کی برکت اور دعا کا نتیجہ تھا۔

خواجہ امام ابو المعالی قشیری قدس سرہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابوسعید متکبر کو سزا :- ابوالخیر قدس سرہ کی وفات کے چند سال بعد حضرت کی خانقاہ واقع نیشاپور میں ایک دعوت تھی۔ میں بھی اپنے والد اور دونوں چچوں امام ابونصر۔ امام ابوسعید کے ساتھ دعوت میں موجود تھا۔ اس دعوت میں شہر کے تمام اکابر۔ ائمہ۔ اور صوفیاء موجود تھے۔ امام الحرمین ابو المعالی

قدس سرہ کے بیٹے فخر الاسلام ابوالقاسم بھی اسی محفل میں تھے۔ یہ نوجوان عالم دین بڑا شکر اور خود سر تھا۔ میرے والد کے ساتھ بڑی باتیں کرتا تھا۔ میرے والد نے کہا۔ زیادہ باتیں نہ کرو۔ کہیں صوفیہ ہمیں باہر نہ نکال دیں۔ کہنے لگا۔ میں تو صوفیوں کی مونچھوں پر اس وقت تک ہنسا رہوں گا جب تک یہ بائزید بظامی کے رتبہ کو نہ پہنچ جائیں۔ یہ بات کہہ کر پھر تیز تیز باتوں میں مشغول ہو گیا۔ اسی اثنا میں خانقاہ سے ایک بلی ادھر آئی۔ اور ایک ایک صوفی کو سونگھنے لگی۔ ہر ایک کو سونگھ کر آگے نکل جاتی۔ فخر الاسلام کے پاس پہنچی تو اسے سونگھا اور اس پر پیشاب کر کے بھاگ گئی۔ فخر اسلام نہایت شرمندہ ہوا اور سمجھ گیا کہ یہ سزا کس طرف سے آئی ہے۔ اٹھا۔ استغفار پڑھی۔ لوگوں نے خواجہ امام بوسعید قشیری کی طرف اشارہ کیا۔ کیونکہ آپ ہی تمام لوگوں میں سے بزرگ تھے۔ جب آپ کو بتایا گیا۔ کہ کیا ہوا تو آپ نے فرمایا۔ فخر الاسلام کو حضرت ابوسعید ابوالخیر سے معافی مانگنی چاہئے۔ یہ نہیں کی کرامت ہے اور انہی کی خانقاہ ہے۔ وہ وفات کے اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی جلتے ہی کہ سارے مجھے میں کس نے حرکت کی ہے۔ اور کس طرح گوشمالی کی جا یا کرتی ہے۔ تمام صوفیاء اس بات پر متفق تھے۔ فخر الاسلام نے نیشاپور سے ہی مینہ کی طرف منہ کر کے معافی مانگی۔ اس واقع سے تمام حاضرین پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ فرتے پھاڑ دیئے۔ اور سرنگوں کر گئے۔

حضرت شیخ قدس سرہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے خواجہ خواجہ ناصر قدس سرہ :- ناصر رحمۃ اللہ علیہ مینہ میں بیمار ہو گئے۔ ایک عرصہ تک طوس میں ایک طبیب کے زیر علاج رہے چند دن وہاں ہی رہے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو سفالتان کے قبرستان میں گئے تاکہ بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کریں۔ واپس آئے۔ رات خواب میں حضرت شیخ قدس سرہ نے فرمایا۔ ناصر!

شک تبتی داری با عنبر تر  
اے دورت یوسیانے دیگر منگر

جب تم تبت کی کستوری اور عنبر خاص اپنے پاس رکھتے ہو۔ پھر دوسری خوشبوؤں کی تلاش میں

کیوں پھرتے رہتے ہو۔



خواجہ ناصر بیدار ہوئے۔ اسی وقت مینہہ کو روانہ ہوئے۔ گھر پہنچے تو ایک ماہ کے بعد فوت ہو گئے۔

امام ابو بکر محمد بن احمد ابو اعظم السمرقنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواجہ آواز دوست :- احمد صوفی قدس سرہ سے سنا تھا۔ کہ حضرت شیخ قدس سرہ کی خانقاہ کے ایک درویش نے جہزت کو بعد از وصال خواب میں دیکھا۔ اور عرض کی حضرت دینا میں آپ سماع سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ اب آپ کیا کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:!

از لحنائے موسلی وطن ارغنون - آواز آں نگار مرانے نیاز کرد  
بانسری کی خوش آوازی ارغنون کی دلنوازی اگرچہ بڑی اچھی چیزیں ہیں۔ مگر میرے محبوب کی دلنواز آواز نے ان سے سب سے بے نیاز کر دیا ہے۔  
یہ بات سنتے ہی شیخ نے نعرہ مارا۔ نیند سے اٹھا۔ اور ایک خاص حالت طاری رہی ہوش آیا۔ تو اس نے خواب کا واقعہ بیان کیا۔

خوارزم شاہ کا گھوڑا رک گیا :- جس وقت خطار کے تاتاری کافروں نے سلطان بخر دنیاے اسلام کا ایک عظیم حادثہ تھا۔ ان دنوں خوارزم شاہ آئینر میں آیا۔ جب وہ باورد پہنچا تو وہاں سے خادراں کا ارادہ کیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ خادراں کو تہس نہس کر دے مینہہ سے ایک میل کے فاصلہ پر موضع رباط سر بالا میں پہنچا تو اس کا گھوڑا رک گیا۔ اس کے قدم جم گئے بادشاہ نے بڑے چابک بار سے لیکن وہ ایک قدم آگے نہ بڑھا۔ سائیں کو بلایا۔ اس نے پورا زور لگایا۔ مگر گھوڑا ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ بادشاہ کا وزیر بھی ساتھ ہی تھا۔ خواجہ عراق الصابندی نے کہا حضور اس موضع کو تبرک اور محترم جگہ جانا جاتا ہے اس علاقہ میں ایسے ہندگ کی قبر ہے جو یکتا ہے عالم ہوا ہے آپ نے دل میں جو ارادہ کیا ہے اسے بدل دیں۔ اس نے کہا۔ تم نے کچھ کہا ہے یہ کہہ کر گھوڑے کی طرف بڑھا۔ گھوڑا فوراً چل پڑا

اس واقعہ کے بعد خوارزم شاہ کی عقیدت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور وہ حضرت شیخ کے تہن اور کمالات کا قائل ہو گیا۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو مینہ بھیجا۔ اور اسے یہاں کا کو تو ال مقرر کر دیا اور فرمایا کہ اس علاقہ کے لوگوں کو یقین دلا دیں۔ کہ ہم نے جو ارادہ کیا تھا۔ اسے تبدیل کر دیا ہے۔ اب یاد رکھو۔ ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ کیونکہ یہ علاقہ ہمارا اپنا خطہ خاص ہے۔ پھر سلطان نے تین دن تک مینہ میں قیام کیا۔ حضرت شیخ کے بیٹے اور صوفیاء باہر نکل آئے۔ بڑے اعزاز و اکرام سے وار کئے گئے۔

جمال الدین بو روح جو راقم موتف کے عم زاد بھائی تھے بڑے علوم و فنون میں ماہر تھے ان کی دعا اکثر قبول ہوتی تھی۔ وہ حضرت شیخ کے حالات کرامات اور ریاضات پر تفصیل سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، کے علاوہ تمام لوگوں کو واپس کر دیا صرف جمال الدین کو اپنے پاس رکھا۔ نماز عشاء کے بعد پھر عبادت میں مشغول ہو گئے اور حضرت شیخ کے مزار کی زیارت کی جمال الدین کو پھر بلایا۔ اور کہا علی الصبح میرے پاس آنا۔ اور ان تین دنوں میں ہر روز میرے پاس آتے رہنا جب شکر گاہ میں واپس آئے تو لوگوں کو آرام آیا۔ اسی اثنا میں مغرب کی طرف سے آگ کی سرخی نمودار ہونے لگی۔ لمحہ بہ لمحہ یہ سرخی زیادہ ہوتی گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ سارا آسمان آتش فشاں ہو گیا ہے موضع مینہ کے ارد گرد سرخی ہی سرخی دکھائی دیتی تھی۔ اس صورت حال سے تمام شکر بھی متفکر تھا۔ خوارزم شاہ بیدار ہوئے۔ صورت حال کو دیکھا۔ شکر میں بدولی پائی۔ وہاں سے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ اور کہا حضرت شیخ نے شکر پر آگ برسا دی ہے۔ مینہ کے لوگ شکر گاہ میں گئے۔ تو تمام شکر روانہ ہو چکا تھا۔ دوسری صبح ہوئی۔ شکر کے تمام چار پائے جویشی اور گھوڑے۔ روانہ ہو چکے تھے۔ لوگوں کو تعجب ہوا۔ کہ یہ سارا شکر کدھر گیا۔ کہ کسی کو خبر تک نہیں ہوئی۔ اور کسی نے حرکت تک نہیں کی۔ مینہ کے لوگوں نے پرچھا۔ کہ آخر یہ آگ کیسی تھی، معلوم ہوا۔ کہ بزرگوں کی ایک جماعت نے مینہ کے نزدیک پہاڑ پر غلہ بویا تھا۔ ان دنوں انہوں نے فرودارے جمع کئے تھے۔ اور بھوسے کے ڈھیرے لگا دیئے تھے رات گئے آگ بھڑک اٹھی۔ بڑھتے بڑھتے جنگل اور صحرا میں پھیل گئی۔ ہوا کی تیزی نے اسے ساری

وادی میں پھیلا دیا۔ اور جلانی گئی۔ آگ کے شعلے آسمان تک باتیں کرنے لگے۔

یہ بھی ہمارے شیخ قدس سرہ کی ایک کرامت تھی۔ کہ اس نے خوارزم کے حملے کو زد کر دیا اور اس آگ کے دوران کسی مقامی آدمی کا نقصان نہ ہوا نہ فصلیں تباہ ہوئیں۔ اور نہ ہی غلے کے خروارے لوٹے گئے۔

ادمد الطائف محمد بن عبدالسلام راقم، مولف کتاب، کے جد امجد کے غلام زادہ تھے۔ غزوں کے حملہ کے وقت حضرت شیخ کی اولاد کے بہت سے افراد شہید ہو گئے۔ مینہ میں حضرت کی اولاد میں سے ایک سو پندرہ آدمی تہ تیغ کر دیئے گئے۔ اُس کے بعد مختلف بیماریوں نے لوگوں کو لقمہ اجل بنا لیا۔ پھر قحط اور دوسرے حوادث آتے رہے۔ ان حالات میں مینہ خالی ہو گیا۔ لوگ ادھر ادھر چلے گئے۔ سال بھر میں کبھی دو تین درویش آجاتے۔ اور مینہ کے قریب ایک قلعے کے کھنڈرات میں قیام کرتے۔ قلعہ سے حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ کے مزار تک خاص فاصلہ تھا۔ محمد عبدالسلام اسی زمانے میں حضرت شیخ کے مزار پر مجاور رہے۔ وہ معذور تھے۔ ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ ادھر ادھر جانا دشوار تھا۔ غزوں کے حملے کے وقت انہیں ایسی کوئی سواری نہ مل سکی جس پر بیٹھ کر کہیں نکل جاتے۔ حالانکہ دوسرے لوگ بال بچوں کو لے کر جدھر سرسما یا چل پڑے تھے۔ وہ مجبوری کی بنا پر یہاں ہی پڑا رہا۔ حضرت کے مزار کے دروازے کے سامنے پڑا رہا۔ اس کی طرح چند اور معذور انسان نابینے ضعیف بھی پڑے رہے۔

جب قصبہ کے تمام لوگ چلے گئے تو یہ چند معذور بے یار و مددگار رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی روزی کے دروازے کھول دیئے خیرات اور انعامات وہاں پہنچنے لگے۔ فسادی اور شرپند لوگ علاقہ خالی کر گئے۔ مختلف اطراف سے نذرانے آنے لگے۔ وہ خود بیاں کرتا ہے کہ اس قدر خوشحالی میں نے ساری عمر نہیں دیکھی تھی۔ جب کچھ کچھ لوگ واپس آئے تو قلعہ میں ٹھہر گئے۔ مگر وہ حسب سابق حضرت کے مزار پر پڑا رہتا۔ مگر کوئی درویش آتا۔ تو وہ اس کی بڑی خدمت کرتا۔ اور مستورات کو قلعہ تک پہنچاتا۔ مگر خود مزار پر انوار کے دروازے پر پڑا رہتا۔

راقم الحروف (مؤلف کتاب) ایک عرصہ کے بعد وہاں پہنچا تو اس سے دریافت کیا کہ اس عرصہ میں کوئی کرامت دیکھنے میں آئی ہو تو بیان کریں۔ اس نے بتایا۔ اتنے طویل عرصہ میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا۔ جب میں کوئی نہ کوئی کرامت نہ دیکھی ہو۔ یہ کرامتیں عدد و شمار سے باہر ہیں لیکن اس وقت میری صرف دو واقعات سنانے پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ واقعات میں دل میں محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے واقعات میں نے کہیں نہیں دیکھے۔

ایک بار گرمیوں کا موسم تھا۔ گرمی کی شدت سے میں قلعہ قبر سے قرآن کی آواز :- میں نہیں جاسکتا تھا۔ اپنے بال بچے کو ملنے سے محروم رہا۔ ساری گرمیاں حضرت شیخ کے مزار کے دروازے کے سامنے گزار دیں۔ ایک رات سویا ہوا تھا یہ رات چاندنی تھی۔ چاند پوری تانبانی سے چمک رہا تھا ہمیشہ کی طرح مزار کے تمام دروازے بند تھے۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص مینبہ کے صحراؤں میں سے آیا۔ اور میرے نزدیک ہی سو گیا۔ آدھی رات گزری ہوگی۔ تو میری آنکھ کھلی۔ مزار کے اندر سے مجھے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آئی۔ میں نے غور سے سنا تو کوئی انا فتحنا والی سورت تلاوت کر رہا تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ مزار کے دروازے پوری طرح مقفل تھے۔ کون یہ دروازہ۔۔۔ کھول کر مزار میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ میں اٹھا۔ ادھر ادھر دیکھا۔ تمام کے تمام دروازے بند تھے۔ اس وقت چاند نصف آسمان پوری تانبانی سے چمک رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا۔ کہ آواز حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ مجھ پر ایک رقت طاری ہو گئی میں ہر ممکن کوشش کرتا رہا۔ مگر میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ آخر کار میں نے پاس ہی سوئے ہوئے آدمی کو جگایا اور کہا اٹھو اور سناؤ کہ اتنے برسوں بعد بھی حضرت کی تلاوت قرآن کی آواز کیسے سنائی دے رہی ہے وہ اٹھا تو آواز مدہم پڑ گئی۔ حتیٰ کہ بالکل خاموشی چھا گئی۔ نہ میں سن سکا۔ اور نہ وہ شخص!

میرا دستور تھا کہ سردیوں کے دنوں میں قلعہ سے آتا تو اپنا کھانا ساتھ لے آیا کرتا تھا۔ کیونکہ مزار سے قلعہ تک خاصا فاصلہ تھا۔ اور مجھے اس فاصلہ کو دوبارہ طے کرنا مشکل تھا۔ ایک دن میں

نے کچھ نہ کھایا تھا۔ طبیعت خراب تھی۔ بخار ہونے لگا۔ دوسرے دن بھی کچھ نہ کھایا۔ مجھے شدت سے بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے ایک روٹی کا ٹکڑا اور ایک انڈا لیا۔ اور مزار کے دروازے پر جا پہنچا میرا ارادہ تھا۔ کہ اسے کھا کر بھوک کی شدت کم کر لوں گا۔ مزار کے دروازے پر ایک گدڑی پوش فقیر کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ مراقبہ میں گردن جھکائے تھا۔ اس کے پاس ہی ایک عصا اور لوٹا پڑا ہوا تھا۔ میری نگاہیں پڑھیں تو مجھے ایک آدمی کا احساس ہوا تو مجھے، ایک گونا طینان ہوا۔ میں نے آہستہ دروازہ کھولا۔ اس نے دروازے کی آواز سنی تو سر اٹھایا۔ میں نے سلام عرض کیا۔ وہ اٹھا۔ اور مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ ہم دونوں بیٹھ گئے۔ میں نے حال احوال دریافت کیا۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ کل شام سے یہاں ہی ہے۔ اور کسی نے اس کی خاطر مدارات نہیں کی تھی۔ اس کے پاس کھانے کے لئے بھی کچھ نہ تھا۔ ساری رات جاگتا رہا تھا۔ میں نے روٹی اور انڈے سامنے رکھا یہ میرا ایتار تھا۔ پھر بھی میں نے ہم نوالگی کے طور پر اس کے ساتھ ایک دو لقمے لئے۔ میں نے اس کی بڑی خدمت کی وہ اٹھا۔ وضو کیا۔ دو نفل ادا کئے۔ اور تیار ہو کر مجھے الوداع کہہ کر چلا گیا۔ میں اس دن بھی بھوکا رہا۔ مگر اس درویش کی موجودگی کی برکت سے مجھے بھوک کا احساس نہ رہا۔ نماز شام کو گھر گیا تو گھر میں ایسی چیز کی بونی تھی جسے کھانے کو میرا دل نہ چاہا۔ میں نہ کھا سکا۔ گھر والوں نے سمجھا میں نے کچھ کھالیا ہے۔ اس لئے کچھ نہیں کھا رہا۔ اس رات بھی مجھے بھوکا سونا پڑا۔ دوسرے دن علی الصبح نماز صبح ادا کرنے کے بعد مزار شریف پر آ گیا دروازہ کھولا۔ اور مزار کے اندر گیا مزار کے باہر جوتے اتارنے کی جگہ پر مجھے ایک نیلگوں کوزہ پڑا دکھائی دیا۔ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ دو سفید دٹیاں گرم گرم ساتھ ہی پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں اٹھانا چاہا تو نہایت گرم تھیں میں نے اٹھا تو میں گرم گرم میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے محسوس کیا۔ کہ حضرت شیخ نے میری بھوک دیکھ کر یہ دونوں چیزیں عطا کی ہیں یہ حضرت کی کرامت تھی۔ ورنہ یہاں گرم روٹیوں کا تصور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ میں بیٹھ گیا۔ روٹی کھانے لگا۔ میں نے عمر بھر اتنا لذیذ کھانا آج نہیں کھایا تھا اور اس پانی سے زیادہ خوش کن پانی نہیں پایا تھا۔

یہ حضرت کی کرامت تھی۔ میں دو روز کا بھوکا تھا۔ یہ کھانا کھا لینے کے بعد تازہ روٹی :- میں تین دن تک سیر رہا۔ شام کے وقت گھر قلعہ میں آیا۔ لوگ جمع ہو کر میرے پاس آئے۔ رات کی بات میں چھپا نہ سکا۔ میں نے کوشش کی کہ رات کی بات کسی کو نہ سناؤں مگر میرے اندر ایک دلولہ تھا۔ میں نے کہا۔ لوگو! تمہیں احساس تک نہیں کہ تمہارے پاس یہ مزار کتنا بڑا خزانہ ہے۔ صاحب مزار کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے۔ آج تم پر ساری مصیبتیں اور پریشانیاں اس بے عننائی کا نتیجہ ہیں۔ میں یہ واقف بنا رہا تھا۔ کہ تمام حاضرین رو رہے تھے۔ لیکن اس دن سے میں نے دل میں محسوس کیا کہ یہ میری غلطی تھی۔ اگر میں حضرت کی اس کرامت کو نہ بتاتا۔ تو شاید کئی قسم کے انعامات سے نوازا جاتا۔ میں بڑا ایشیاں تھا۔ کہ میں نے مخصوص بہرہ بانی کو آشکارا کر دیا۔ بایں ہمہ مجھ پر بے پناہ کرامات کا اظہار ہوا جسے میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔

حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ فرمایا کرتے تھے۔ مبارک ہے وہ شخص جس نے ہمیں دیکھا مبارک ہے وہ شخص جس نے اسے دیکھا جس نے ہمیں دیکھا۔ اس طرح آپ نے سات آدمیوں تک کو گنا اورا نہیں مبارک کہا۔

حضرت شیخ قدس سرہ کی وہ کرامات جو آپ کی ظاہری زندگی کے اختتام کے بعد دیکھنے میں آئیں۔ بیان و تحریر سے کہیں زیادہ ہیں۔ چنانچہ ہمارے خالو کے بیٹے ابوالفوج بن المفضل اور میرے بھتیجے المنور بن ابی سعید بیان کرتے ہیں کہ خردوں کی بناوت اور شورش کے زمانے میں مینہ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ قصبہ میں کوئی شخص نہ ٹھہر سکا۔ مینہ کے چند لوگ بچا کہ قلعہ میں پناہ گیر ہوئے۔ وہ کبھی کبھی قصبہ میں آتے۔ اور ایندھن کے لئے توت کی لکڑیاں کاٹ کر لے جاتے اور اپنے اپنے گھروں کے سامنے جمع کر لیتے۔ ہم دونوں اپنے شاگردوں کو لے کر محلہ صوفیاں میں آئے۔ اور مزار کے پاس ہی ایک درخت کو کاٹنے لگے۔ یہ دن بہت گرم تھا۔ ہمارے بغیر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ ہم عام لڑکوں کی طرح ادھر ادھر تزار میں کر رہے تھے۔ شاگرد دکھاڑا لئے درختوں کو کاٹ رہے تھے۔ ہمارا شور سارے محلے میں گونج رہا تھا۔ مزار پر انوار سے آواز آئی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ہم نے مڑ کر دیکھا تو

ایک بوڑھا آدمی مزار کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ ہمارے شیخ کی طرح سرخ و سفید رنگ اسی طرح کا لباس فرمایا۔ کیا ابھی تم پر وقت نہیں آیا۔ کہ اس بے ادبی سے باز آؤ۔ ہماری نگاہیں اس شخص پر پڑیں تو ہم رونے لگے۔ تمام ہتھیار وہاں ہی ڈالے نماز عصر کے بعد ایک شخص وہاں آیا کلباڑیاں۔ اور پٹے اٹھا کر لے آیا۔ اُس دن کے بعد ہم نے اس جگہ کبھی شور نہ مچایا۔ اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں جنہیں بیان کیا جائے تو ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہوگی۔ یہ ساری کرامات حضرت شیخ کے بحر کرامات سے ایک قطرہ ہیں۔

خاجہ امام ابوالحسن مالکی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں نے چند مشائخ سے سنا تھا کہ حضرت شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ کی کرامات اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ہم صرف ان حالات کو بیان کریں جو آپ نے مخلوق خدا پر احسانات کئے ہیں۔ تو ایک مدت درکار ہے۔ حضرت ابوسعید فرمایا کرتے تھے اللہ کی درگاہ میں صاحب کرامات بزرگوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ دراصل جاسوس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے۔ ایک جاسوس بادشاہ کے دربار میں کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ صاحب اشرف کرامات کو دلالت میں بڑے خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ انہیں صرف اتنا ہی مقام حاصل ہوتا ہے جس طرح ایک دیوار کے مقابلہ میں ایک پیہہ اتم کوشش کو۔ کہ صاحب بلایت بنو۔ مگر صاحب کرامت ہونے کی کوشش نہ کرو۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے۔ کہ حضرت شیخ قدس سرہ کے ہاں کرامات کی کوئی قدر نہیں تھی۔ حضرت شیخ کا مقام خلق خدا کی خدمت میں ہی تھا۔ وہ اسی کام کو عظیم کام جانتے تھے۔ خدمت خلق سے بڑھ کر ان کے ہاں کوئی مقام کوئی کرامت نہیں تھی۔

## سائمتہ الکتاب

یہ دعا گو (مؤلف کتاب) دلی طور پر چاہتا ہے کہ وہ قارئین کرام جو ان اوراق کا مطالعہ کریں اتنا کرم فرمائیں۔ کہ جب انہیں حضرت شیخ قدس سرہ کے حالات و مقالات پر واقفیت حاصل ہو جائے۔ اور ان پر رقت یا لذت کی کیفیت طاری ہو۔ تو میرے لئے دعا خیر فرمائیں۔ اگر کسی شخص

کہ: بن سہارل باتوں یا مفید واقعات سے ہدایت نصیب ہو۔ یا سالک راہ طریقت کو طریقت و حقیقت کا کوئی نکتہ حاصل ہو۔ تو راقم الحروف کے حق میں دعا کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ خلوت و عبادت میں جب بھی اس سبکین کی یاد آئے تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔!

اللہ تعالیٰ ہمیں اس بادشاہ دین۔ سلطان اہل یقین۔ پیشوائے اہل طریقت اور مقتدائے اہل حقیقت کی انفاس و برکات سے کسی حالت میں بھی علیحدہ نہ فرمائے۔ ہمیں دنیا و آخرت میں حضرت کے غلاموں اور نیاز مندوں میں رکھے۔ ہم قیامت میں میدان حشر میں بھی آپ کی خدمت میں مستعد رہیں۔ بزرگان دین نے کہا ہے کہ کمترین کا جواب بہترین ہی دیا کرتے ہیں۔ حضرت ہی ہمارے گناہوں کے شفیع اور وسیلہ نہیں ہمارے دل آپ کی محبت سے بربز رہیں اور ہمارے جسم آپ کے غلاموں کی خدمات میں وقف رہیں۔ ہم زندگی کا ایک لمحہ بھی خدمت خلق سے محروم نہ رہیں۔ دین و دنیا اور آخرت کے تمام امور یا آپ کی محبت۔ دوستی۔ اور خدمت خلق کے تمام مدارج کو ہمارے لئے اکرام فرمائے۔ بحق محمد و آلہ اجمعین والحمد لله رب العالمین واصلوا  
علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ط



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بازا باز آہر آنچہ ہستی باز آ  
گر کافر و گمراہت پرستی باز آ  
این درگہ ما درگہ نو میدی نیست  
صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

(حضرت ابوسعید ابوالخیر رضی اللہ عنہ)

تو واپس آ، تو واپس آ، تو جو کچھ بھی ہے واپس آ۔ اگر تو کافر ہے  
اور اگر تو آتش پرست ہے اور اگر توبت پرست ہے تو بھی  
تو واپس آ جا۔ ہماری پہ درگاہ نا امید کی درگاہ نہیں ہے  
اگر تو نے سو ۱۰۰ بار بھی توبہ توڑی ہے تو پھر بھی تو واپس آ جا۔

مکتبہ نبویہ

گنج بخش روڈ لاہور

0300-4235658